

تعوذ و عملیات اور خوابوں کی تعبیر کی بہترین کتاب

تعوذ و عملیات

مع

سید خواب نامے



الکبریٰ شریف

تعوید و عملیات اور خوابوں کی تعبیر
کی بہترین کتاب

تعمیر
تعمیر

تعوید و عملیات

مع

حسین خواب نامہ

مؤلف:

علامہ البوازمی محمد شریف القادری رضوی

پبلسنگھ ۴۰ اردو بازار لاہور
Ph: 37352022

ناشر
اکبر پبلشرز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب فیض القرآن مع حسین خواب نامہ

مصنف ابوالفیض محمد شریف القادری رضوی

فاضل جامعہ رضویہ فیصل آباد

جامعہ چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرال

بفحصان نظر پیر مفتی ابوداؤد محمد صادق صاحب

امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان

کمپوزنگ محمد نوید رضوی

صفحات 304

ہدیہ 300/-

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
9	بہترین لوگ	1
11	کلام اعلیٰ حضرت	2
13	نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	3
14	شرف انتساب	4
15	الاحدء	5
16	بیچ گنج قادری	6
16	علم میں اضافہ کے لئے	7
17	برائے گمشدہ	8
18	دشمن سے حفاظت	9
18	کسی بھی جائز کام کے لئے	11
19	اولاد کے لئے	12
19	درود قادریہ	13
19	وظیفہ جامع ہمہ وقت	14
19	قید سے رہائی و دفع پریشانی کے لئے	15
20	وظیفہ درود	16
20	شفاء کی سورت	17

21	پریشانیوں سے نجات کے لئے	18
21	حصول رزق کے لئے	19
21	سارے دن حاجات پوری	20
22	تنگدستی دور کرنے کا عمل	21
22	برکت والا عمل	22
22	درد شریف شفاء	23
23	آیات شفاء	24
24	برائے ترقی رزق	25
26	برائے حُب	26
26	دردِ دوسر	27
27	دردِ شقیقہ کے لئے	28
27	بچہ کے رونے دھونے کے لئے	29
27	برائے آسانی پیدائش	30
28	خواب میں ڈرنے والے کے لئے	31
28	بخار کے لئے	32
28	نافٹل جانے کے لئے	33
29	سید الاستغفار	34
30	استغفار کی برکات	35

30	برائے حب	36
31	حافظہ کی زیادتی کے لئے	37
31	عورت کے مخصوص ایام	38
32	جو بچہ پڑھائی سے بھاگے	39
32	تسخیر کا وظیفہ	40
33	چور کے لئے	41
33	برائے آسیب	42
34	برائے اتفاق و اتحاد	43
35	اگر کوئی بچہ گم ہو جائے	44
35	اگر کوئی چیز گم ہو جائے	45
36	دیکھنا خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو	46
36	عمل برائے حاجات	47
37	اگر دانت میں درد ہو	48
38	بد نظر کے لئے	49
38	برائے دفعِ حُب مخلوق	50
39	برائے جدائی ڈالنا و شخصوں میں	51
39	برائے حمل	52
41	عمل برائے قید سے رہائی	53

42	ایک عجیب وظیفہ	54
44	حکایت عجیبہ	55
46	اصحاب کہف کے نام	56
47	اصحاب کہف کے ناموں کے خواص	57
47	جادو کا علاج	58
50	حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دُعا	59
51	حکمت کی باتیں	60
52	مشکلات کا حل	61
53	نمازِ استخارہ	62
55	نمازِ حاجت	63
56	اسباب فقر و تنگ دستی	64
67	اسباب غذا و فراخ دستی	65
69	اضافہ رزق و دولت	66
73	عزت و دولت کا تاج یعنی درود تاج	67
75	خیر و برکت کا خزینہ سورہ فاتحہ	68
75	خیر و برکت کا بہترین عمل	69
75	عمل الحمد شریف	70
75	عمل افزائش خیر و برکت	71

76	قرض سے نجات کا عمل	72
77	عمل برائے تسخیر خلق از حضرت غوث اعظم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	73
77	دشمن کو مسخر کرنے کا عمل	74
78	حُب کا نہایت مفید عمل	75
78	محبوب کو حاضر کرنے کا عمل	76
79	نیک رشتہ	77
79	رشتہ ہو کر رہے	78
80	شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا	79
80	قضائے حاجات	80
81	نفل نمازیں برائے قضائے حاجات	81
87	درود تہجینا برائے قضائے حاجت	82
88	دُعائل المشکلات	83
89	درود برائے قضائے حاجات	84
89	نقش سورہ اخلاص	85
91	نقش سیفی	86
92	دلائل الخیرات	87
92	ماد علمی کے پندرہ فوائد	88
94	دشمن پر غالب آنے کا مجرب عمل	89

95	اسم اعظم	90
100	آپ کا اسم اعظم	91
104	عملیات اسماء الحسنی	92
141	ملاقات خضر علیہ السلام	93
143	ملاقات ارواح مقدسین	94
144	خواب نامہ	95
145	خوابوں کی اقسام	96
146	حضرت خزیمہ کا خواب	97
147	خواب نامہ مع تعبیر	98
302	نسخہ گیمیا برائے روحانی امراض	99



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بہترین لوگ

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله

محترم قارئین!

حدیث شریف میں ہے کہ:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسِ

یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔

اس حدیث پاک میں ان لوگوں کو سب سے بہتر کہا گیا ہے جو لوگوں کو نفع

پہنچاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ ہم انشاء اللہ ساری زندگی
لوگوں کو نفع پہنچائیں گے۔

پھر یقیناً ہم بھی بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن

میں رکھیں جس طرح نفع پہنچانے والے بہترین لوگ ہیں اسی طرح نقصان پہنچانے

والے بدترین لوگ ہیں یعنی لوگوں میں سب سے برے ہیں اللہ محفوظ رکھے۔

اس سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کسی نہ کسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے

ہیں۔ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے والا وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی تسبیح پھیرتا

ہے، کوئی کسی کے نقصان کی دعا کرتا ہے، کوئی نقصان پہنچانے کیلئے کوئی حیلہ سوچتا ہے۔

اس طرح کرنے سے اگلے کا نقصان ہوگا یا نہ ہوگا لیکن آپ ضرور گنہگار ہوں گے۔ اپنے

رب کو ناراض کریں گے کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ کبھی بھی کسی کو

نقصان پہنچانے کا مت سوچیں اور ہمیشہ وہ عمل کریں جس میں آپ کا یا کسی مسلمان کا فائدہ اور اللہ کی رضا ہو۔

اس کتاب میں جو اعمال یا وظائف یا تعویذات میں گنہگار نے درج کئے ہیں۔ ان کی ہر سنی مسلمان پابند شریعت کو اللہ رسول کے نام پر میری طرف سے اجازت ہے۔ لہذا سنی مسلمان کو چاہئے کہ وہ ان اعمال اعمال قرآنی اور وظائف کے فوائد و منافع سے خود بھی فیضیاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین

احقر:

محمد شریف القادری رضوی

کلامِ اعلیٰ حضرت

یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو
 جب پڑے مشکل شہِ مشکل کشا کا ساتھ ہو
 یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف ہو
 شادی دیدار حسن مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ ہو
 یا الہی گور تیرہ کی جب آئے سخت رات
 ان کے پیارے منہ کی صبح جانفزا کا ساتھ ہو
 یا الہی! جب پڑے محشر میں شور داروگیر
 امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو
 یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے
 صاحب کوثر شہِ جود و عطا کا ساتھ ہو
 یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر
 سید بے سایہ کے ظن لوانا کا ساتھ ہو
 یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن
 دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو
 یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں
 عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو
 یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں
 ان تبسم ریز ہونٹوں کی دُعا کا ساتھ ہو

یا الہی جب حساب خندہ بیجا رلائے
چشم گریان شفیع مرتضیٰ کا ساتھ ہو
یا الہی رنگ لائیں جب مری بیباکیاں
ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو
یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط
آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو
یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے
رب سلم کہنے والے غمزہ کا ساتھ ہو
یا الہی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں
قدسیوں کے لب سے آمین رہنا کا ساتھ ہو
یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے
دولت بیدار عشق مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ ہو

(حوالہ: حدائق بخشش)

نعت رسول مقبول (صلی اللہ علیہ وسلم)

سوہنے آقا توں صدقے میں جاواں سوہنا جے آوے تے خوشیاں مناواں

پیر جے پاوے میرے وی و ہڑے

مک جاون دنیا دے سارے ہی جیہڑے

سوہنے دے راہ وچ اکھیاں وچھاواں

سوہنے آقا توں صدقے میں جاواں سوہنا جے آوے تے خوشیاں مناواں

سوہنا جے آکے پاوے تجلی

عشق نبی وچ ہو جاواں میں جھلی

پھر سوہنے دے قدماں تے لب میں نکاواں

سوہنے آقا توں صدقے میں جاواں سوہنا جے آوے تے خوشیاں مناواں

سوہنا قدمی جے مینوں وی لاوے

دکھاں غماں توں جان چھڈاوے

خوشی وچ آکے میں محفل سجاواں

سوہنے آقا توں صدقے میں جاواں سوہنا جے آوے تے خوشیاں مناواں

سوہنا جے آوے تے خوشیاں مناواں

اک واری آجا سوہنیاں توں چل کے

بیٹھا شریف اے راہواں نوں مل کے

رونڈا پیا اے لے لے کے ہاواں

سوہنے آقا توں صدقے میں جاواں سوہنا جے آوے تے خوشیاں مناواں

(کلام مصنف: ابوالفیض محمد شریف القادری رضوی)

شرف انتساب

قطب الاقطاب، غوث الاغواث، سید الایاد، شیخ الملک والجن والانس، علی الاطلاق،
 غوث الثقلین، سید الاولیاء، امام الاتقیاء، سند الاصفیاء، محبوب سبحانی، غوث صدیقی، شاہباز
 لامکانی، غوث الوری، غوث الارض واسماء غوث العالمین حضرت سیدنا
 غوث الاعظم الشیخ عبدالقادر الجیلانی الحسینی والحسنی قدس اللہ سرہ النورانی

و
 شیخ الاسلام والاسلمین، حجۃ اللہ علی الارضین، معجزہ زمن البحر ات
 سید المرسلین، امام المحققین، تاج المدققین، سیدنا مجدد اعظم، سرکار علی
 حضرت امام اہلسنت علامہ عبدالمصطفی الامام

الشاہ احمد رضا خاں قادری برکاتی فاضل بریلوی رضوی

و
 پاسبان مسلک رضا، خلیفہ مجاز مفتی اعظم عالم اسلام
 نائب محدث اعظم، عالم باعمل، ولی کامل علامہ الحاج

پیر مفتی ابوداؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی مدظلہ العالی
 امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان (گوجرانوالہ)

کے نام مبارک کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

طالب نگاہ کرم: محمد شریف قادری رضوی

الاهداء

رئیس المدین سراج العارفین سلطان المناظرین قطب الاولیاء
سراج الفقہاء پیر طریقت رہبر شریعت سیدی وسندی واستاذی

حضور پیر ابوالفیض محمد عبدالکریم قادری چشتی رضوی

حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ ڈوگراں شریف

کے نام مبارک

بوساطت:

پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ

جگر گوشہ حضور محدث ابدالوی سیدی وسندی واستاذی

حضرت مولانا پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی رضوی مدظلہ العالی

مہتمم ومفتی وشیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگراں شریف

ع..... گر قبول افتدز ہے عز و شرف

ادنیٰ نیاز مند:

ابوالفیض محمد شریف القادری رضوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

پنج گنج قادری

یہ فیض و برکت کے پانچ خزانے ہیں۔

ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اول و آخر ایک ایک یا تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ

لیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔

پڑھنے کا طریقہ:

نماز فجر کے بعد ایک تسبیح	=====	يَا عَزِيزُ يَا اَللّٰهُ
نماز ظہر کے بعد	=====	يَا كَرِيْمُ يَا اَللّٰهُ
نماز عصر کے بعد	=====	يَا جَبَّارُ يَا اَللّٰهُ
نماز مغرب کے بعد	=====	يَا سَتَّارُ يَا اَللّٰهُ
نماز عشاء کے بعد	=====	يَا غَفَّارُ يَا اَللّٰهُ

یہ وظیفہ میرے مرشد کامل امیر شریعت حضور قبلہ پیر ابوداؤد محمد صادق رضی اللہ عنہ نے

عطا فرمایا ہے۔ میں نے اس کی خوب برکتیں دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب

فرمائے۔ آمین

علم میں اضافہ کے لئے:

ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی ایک مرتبہ اور گیارہ مرتبہ یا قوی

پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔

برائے گمشدہ:

اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو سب اہل خانہ پانچوں نمازوں کے بعد اور ہر وقت جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ بالخصوص کبھی ایک مرتبہ دن میں گھر کے کسی کمرہ کے چاروں کونوں میں ۷۵، ۷۵ مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں۔

و طیفہ یہ ہے: يَا مُعِيدُ الْمُعِيدِ

نِزَالِ اللَّهِ قَلْبَهُ إِلَيْنَا أَكْثَرَ پڑھتے رہیں۔

حصول برکت و رحمت کیلئے گھر کو تصویر سجانے سے بچائیں۔

ایک حدیث کا مفہوم:

اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں تصویر بچی ہوئی ہو یا کوئی ناپاکی میں رہنے والا ہو یا کتا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لئے رحمت حاصل کرنے کیلئے ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں۔

نمبر ۱: گھر میں تصویریں نہ سجائیں۔

جاندار کی ہو سکے تو گھر میں خیر و برکت کیلئے روضہ پاک اور خانہ کعبہ کا نقشہ سجائیں۔

نمبر ۲: جب غسل کی حاجت ہو تو فوراً غسل کر لیں۔ ناپاکی میں نہ رہیں۔

نمبر ۳: کتا گھر میں نہ رکھیں جو بلی میں رکھ سکتے ہیں۔ کھیتی کی حفاظت یا مال کی

حفاظت یا شکار کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن گھر میں رکھنے سے بچیں۔



دشمن سے حفاظت:

پانچوں نمازوں کے بعد اور دیگر اوقات میں پڑھتے رہیں اور بعد نماز عشاء سات مرتبہ پڑھ کر مخالفین کا تصور کر کے ان پر پھونک ماریں۔

وظیفہ یہ ہے:

اللَّهُمَّ اكْفِنَا شُرُومًا بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ۔
انشاء اللہ ضرور دشمن سے حفاظت ہوگی لازمی پڑھیں۔

کسی بھی جائز کام کیلئے:

ہر چیز کا سبب مولیٰ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور پھر وہ چیز حاصل و میسر ہوتی ہے۔ اس نیت سے یہ وظیفہ پڑھتے جائیں کہ اے سبب پیدا فرمانے والے میرے لئے بہتر اسباب پیدا فرما۔ رزق میں برکت حصول رشتہ و روزگار قرضہ سے فراغت اور دیگر مشکلات و مقدمات و امراض میں شروع کریں۔

طریقہ: بعد نماز عشاء ننگے سر بغیر چھت کے آسمان تلے کھڑے ہو کر پڑھیں:

يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ پانچ سو مرتبہ مع اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ مسجد میں یا گھر میں (آسمان تلے) صحن میں یا چھت پر پوری توجہ سے یہ وظیفہ پڑھا جائے اور آخر میں گڑ گڑا کر بالخصوص دعائیں مانگیں اگر کوئی کمزوری و تکالیف ہو تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرد ننگے سر اور خواتین سر ڈھانپ کر پڑھیں۔ بارش وغیرہ کی صورت ہو یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو چھت تلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر بچکانہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔

اولاد کیلئے:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا

عام اوقات میں جتنا زیادہ ہو سکے پڑھا کریں۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

میاں بیوی ایک تسبیح روزانہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے پی لیں

اور دعا کریں۔

نیز مرد سورۃ یوسف پڑھے عورت سورۃ مریم پڑھے۔ روزانہ یا دوسرے

چوتھے دن پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا پانی پر دم کر کے پی لیں اور دعا کریں۔

درود قادریہ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْدِنِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا جتنا ہو سکے پڑھیں)

وظیفہ جامع ہمہ وقت:

(جتنا پڑھا جائے وضو ہو یا نہ ہو)

يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ، يَا حَلَّ الْمَشْكَلَاتِ، يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ

قید سے رہائی و دفع پریشانی کیلئے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَدْ

ضَاقَتْ حَبْلَتِي أَدْرِكْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ

اللَّهُ قَلَّتْ حَبْلَتِي أَعْيَنِي وَ أَدْرِكْنِي۔ جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔

اور قیدی کیلئے پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کے دور ہونے کی دعا کریں اور اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے حل ہونے کی دعا کریں۔ اس کی برکت سے آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

وظیفہ درو:

(بر روایت حضرت جعفر علیہ السلام) تسمیہ و درو و شریف اول آخر موضع درو پر

ہاتھ پھیرتے ہوئے (جبکہ غیر محرم نہ ہو)

یہ آیت کریمہ پڑھیں:

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

سات بار یا زیادہ بار پڑھ کر دم کریں۔

تسمیہ ۳ مرتبہ پھر درو والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ پڑھ کر دم کریں۔

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

شفاء کی سورت:

سورۃ فاتحہ (الحمد) سورۃ شفا ہے۔ جادو وغیرہ لاعلاج مرض کیلئے سفید چینی کی

پلیٹ پر یہ اسم اعظم لکھ کر سورۃ فاتحہ لکھے۔ ۴۰ دن مریض کو دھو کر پلانے سے انشاء اللہ شفا

ہوگی۔ اسم اعظم یہ ہے:

يَا حَيُّ حَيُّ لَاحِيٌّ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ

(مغربات عزیز)



پریشانیوں سے نجات کیلئے

درود شریف تنجینا:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ
جَمِيعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَلْبَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيعَ
الْحَاجَاتِ وَتَطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا
بِهَا عِنْدَكَ اَعْلٰى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصٰى الْغَايَاتِ
مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (بوقت مشکل ہزار بار یا جتنا ہو سکے)

اس درود شریف کے بہت ہی برکات ہیں۔ آپ ہر جائز کام کیلئے پڑھ سکتے ہیں لیکن
کثرت سے پڑھیں اور محبت سے دل لگا کر پڑھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل حل
ہوگی اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔

حصولِ رزق کیلئے:

ستائیسویں پارہ میں سورہ واقعہ سورت غنما ہے جسے پڑھنے سے انشاء اللہ رزق
میں گھر میں برکت ہوگی اور فاقہ نہیں آئے گا۔ جتنے گھر کے افراد پڑھ سکتے ہیں۔ بعد
نماز مغرب یا بعد نماز عشاء ایک مرتبہ پڑھیں۔ نیز بعد نماز فجر سورت منزل اور درود تاج
شریف پڑھ کر رزق و کاروبار میں برکت کی دعا مانگیں۔

سارے دن حاجات پوری:

اگر آپ اپنا معمول بنالیں۔ نماز فجر کے بعد یا پہلے ایک مرتبہ سورہ یسین
شریف پڑھ لیا کریں تو انشاء اللہ سارے دن کی حاجات پوری ہوں گی۔ اور خیر و برکت

ہوگی اور آپ کو دس (۱۰) قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔

تنگدستی دور کرنے کا عمل:

ایک شخص نے اپنی محتاجی و تنگدستی کا اظہار کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو۔ (گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو) پھر مجھے سلام کرو۔

(السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ)

اور پھر سورۃ اخلاص (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) پڑھو۔

جب اس نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت فرمائی کہ

وہ ضروریات کے علاوہ اپنے اقرباء ہمسایوں پر بھی خرچ کرنے لگا۔ (جلاء الافہام)

برکت والا عمل:

ہجگانہ نماز باجماعت کی پابندی کی جائے اور بوقت ظہر و عشاء وضو کر کے سورۃ

الم نشرح پڑھتے ہوئے داڑھی شریف میں کنگھی کی جائے تو بڑی خیر و برکت ہوگی اور

تنگدستی و کمی دور ہوگی۔ ہجگانہ نماز باجماعت کے ساتھ داڑھی شریف رکھ کر یہ عمل شروع

کریں اور انشاء اللہ اپنی آنکھوں سے اس کی برکات دیکھیں۔

درو و شریف شفاء:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بَعْدَ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ

الْقُلُوبِ وَدَوَاءِ هَا وَغَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَاءِ هَا وَنُورِ

الْأَبْصَارِ وَضِيَاءِ هَا وَقُوَّةِ الْأَرْوَاحِ وَغَدَاءِ هَا وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ جتنا ہو سکے پڑھیں۔ دعا اور دم کریں۔

آیاتِ شفاء

امام طریقت ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچہ کا حال عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم آیاتِ شفاء سے کیوں دور رہتے ہو۔ کیوں ان سے تمسک نہیں کرتے اور شفاء نہیں مانگتے۔ میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا تو میں نے ان آیاتِ شفاء کو کتاب الہی میں چھ جگہ پایا۔ وہ یہ ہیں:

(۱) وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (پارہ ۱۰، سورہ توبہ، آیت نمبر ۱۶)

اور اللہ تعالیٰ شفاء دیتا ہے مومنین کے سینوں کو

(۲) وَشِفَاءٍ لِّمَا فِي الصُّدُورِ (پارہ ۱۱، سورہ یونس، آیت نمبر ۵)

سینوں میں جو تکلیف ہے ان سے شفا ہے۔

(۳) يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

(پارہ ۱۶، سورہ النحل، آیت نمبر ۶۹)

ان کے پیٹ سے نکلتی ہے پینے کی چیز جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔

لوگوں کیلئے ان میں شفاء ہے۔

(۶) وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(پارہ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر ۸۲)

اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کیلئے شفا اور رحمت ہے۔

(۵) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (پارہ ۱۹، سورہ الشعراء، آیت نمبر ۸۰)

اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔

(۶) قُلْ هُوَ لِلدِّينِ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَاؤٌ

(پارہ ۲۴، سورہ حم، السجدہ آیت نمبر ۴۴)

فرمادیتے آپ ﷺ کو مومنین کیلئے یہ ہدایت اور شفاء ہے۔

میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلا دیا اور وہ بچہ اسی وقت

شفا پا گیا گویا کہ اس کے پاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو۔ (مدارج النبوة)

برائے ترقی رزق

(عمل سورہ منزل شریف)

سورہ منزل شریف کا پہلا طریقہ:

فجر کی نماز کے بعد سورہ منزل ایک دفعہ پڑھنے کا ورد رکھے اور ان چار آیتوں کو

تین تین دفعہ پڑھا کریں۔

اول: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

دوئم: وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

سوئم: يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

چہارم: وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

جب تمام ہو جو حاجت چاہے برآوے۔

سورہ منزل شریف کا دوسرا طریقہ:

جس وقت اس سورہ مبارکہ کو کسی مہم اور کسی حاجت کیلئے پڑھے تو اس ترکیب

سے پڑھے کہ پڑھتے رَبُّ الْمَشْرِقِ سے وکیلاً تک پڑھا کر

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (سومرتبہ پڑھے)

اور جب وَاسْتَغْفِرُ وَاللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ط

پر پہنچے تو اسی پورے جملہ کی سومرتبہ تکرار کرے۔

اس ترکیب سے تین مرتبہ سورہ مبارکہ کو پڑھے۔

اس کے بعد یَا مُغْنِي يَا مُعْطِي کو گیارہ سومرتبہ پڑھے۔

اول و آخریہ درود شریف پڑھے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ط

گیارہ گیارہ مرتبہ اس درود شریف کو پڑھنا چاہئے۔

جب پڑھ کر فارغ ہو جائے تو سجدہ میں جا کر اپنا مقصد اللہ تعالیٰ سے

طلب کرے اور اگر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو سجدہ میں دعا کرتے وقت اس

طرح دعا مانگے۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلْبُ قَلْبَهُ إِلَيَّ يَعْنِي فَلان بن فلان

مِنْ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ

سورہ منزل شریف کا تیسرا طریقہ:

فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں ایک مرتبہ سورہ منزل شریف پڑھے

اور جب فرض ادا کر چکے تو دو مرتبہ اور پڑھے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد دو مرتبہ پڑھا

کرے۔ اس طرح اس کی تعداد کل گیارہ مرتبہ ہوگی۔

اول و آخر درود شریف تین تین بار یا پانچ بار یا گیارہ گیارہ بار پڑھے۔ اس کا


ورد ہمیشہ رکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی اور رزق میں ترقی ہوگی۔

برائے حُب

اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو۔ اس نقش کو لکھ کر کسی درخت پر لٹکایا جائے۔
انشاء اللہ تھوڑے عرصہ میں میاں بیوی میں ایسی محبت ہوگی کہ لوگ تعجب کریں گے۔

يَا وَلِيُّ

يَا وَلِيُّ



يَا وَلِيُّ

يَا وَلِيُّ

درِ دُوسر

موم جامہ کر کے سر میں باندھا جائے مجرب ہے۔

۷۸۶

۷ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

درِ شقیقہ کیلئے

اس نقشہ کو موم جامہ کر کے اس طرف باندھے جس طرف درد ہو۔

جَلَسَا	حَلَسَا	عَمَسَا
---------	---------	---------

بچہ کے رونے دھونے کیلئے

جو بچہ روتا ہو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی تو اس نقش کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ رونا موقوف ہو جائے گا مجرب ہے۔

۷۸۶

ضَا	رُ	ضَا	ضَا
۳۶	۱۳۲	۶۱	۳۹
۶۱	۸۹	۶۲	۵۳
۶۹	۱۳	۶۱	۵۳

برائے آسانی پیدائش

اگر بچہ پیدا ہونے میں سختی اور درد کی شدت ہو تو یہ تعویذ لکھ کر پاک کپڑے میں رکھ کر بائیں ران میں عورت کے باندھے اور پیدائش کے فوراً اس کو کھول ڈالے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ إِهْيَا إِسْرَاهِيَا

خواب میں ڈرنے والے کیلئے

جو شخص مرد عورت یا بچہ سوتے سوتے ڈراؤنے خواب دیکھ کر ڈرتا ہو یا چونک جاتا ہو اس کیلئے اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ پھر وہ سوتے ہوئے نہیں ڈرے گا۔ وہ نقش یہ ہے:

۷۸۶

يَا رَحِيمُ	يَا رَحْمَنُ	يَا اَللّٰهُ
يَا اَحَدُ	يَا قُدُّوسُ	يَا مَالِكُ
يَا سَلَامُ	يَا مُهَيِّمُنُ	يَا مُؤْمِنُ

بخار کے لئے

جس شخص کو بخار آتا ہو۔ اس آیت مبارکہ کو لکھ کر بخار والے کے گلے میں باندھیں مفید ہے۔ آیت یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فلاں بن فلاں کا بخار جاتا رہے فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام اور
اس کی ماں کا نام لکھنا چاہئے۔

ناف ٹل جانے کیلئے

اگر کسی کی ناف ٹل جاتی ہو تو اس نقش مکرم کو لکھ کر باندھے لیکن موم جامہ کر کے
اور تعویذ کمز میں اس طرح باندھے کہ ناف کے اوپر تعویذ رہے۔
انشاء اللہ تعالیٰ ناف اپنی جگہ آجائے گی۔

اور مریض کو شفا ہوگی۔ وہ نقش مکرم یہ ہے:

وَإِذَا جَاءَ	نَصْرُ اللَّهِ	وَالْفَتْحُ	وَرَأَيْتَ
النَّاسَ	يَدْخُلُونَ	فِي	دِينِ
اللَّهِ	أَفْوَاجًا	فَسَبِّحْ	بِحَمْدِ
رَبِّكَ	وَاسْتَغْفِرْهُ	إِنَّهُ	كَانَ
تَوَّابًا	يَا غَفُورًا	يَا شَافِيًا	يَا كَافِيًا

سید الاستغفار

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس بندے نے اخلاص اور دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا (یعنی ان کلمات کے ساتھ استغفار کیا) اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آگئی تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا اور صبح ہونے سے پہلے اسی رات میں وہ چل بسا تو وہ بلاشبہ جنت میں جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ سید الاستغفار (یعنی سب سے اعلیٰ استغفار) یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے۔

تشریح:

اس استغفار کی اس غیر معمولی فضیلت کا راز بظاہر یہی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں عبدیت کی روح بھری ہوئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا
 عَلٰی عَهْدِكَ وَاَوْعَدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا
 صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ
 فَاِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ط

ترجمہ: اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں
 تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے
 میں نے جو گناہ کئے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا
 ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ لہذا مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی
 گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔

استغفار کی برکات

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑے (یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی
 مانگتا رہے) تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا
 اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرما دے گا اور اس کو
 ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔

برائے حُب

جب کوئی حاکم کے غصہ سے ڈرتا ہو اور حاکم اس پر بے جا ظلم کرتا ہو تو ان
 آیات کو لکھ کر ٹوپی یا پگڑی میں رکھے اور حاکم کے سامنے جاوے خدا کے فضل و کرم سے

وہ شخص کامیاب ہوگا مجرب ہے۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَآلِهِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اَلَّا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ط

حافظہ کی زیادتی کیلئے

ترکیب:

جس شخص کو قرآن مجید حفظ نہ ہوتا ہو تو سوتے وقت عشاء کی نماز کے بعد ہر رات سو مرتبہ پوری الحمد شریف پڑھا کرے۔ انشاء اللہ قرآن شریف یاد ہو جائے گا مجرب ہے۔

عورت کے مخصوص ایام

جس عورت کئی ماہواری میں زیادتی ہو۔ اس آیت کو لکھ کر کمر میں باندھیں اس صورت میں کہ تعویذ رحم کے برابر پڑا رہے۔ وہ آیت یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط وَقِيلَ يَا رَجُلُ اَبْلَعِيْ مَاءَ كِ
وَيَسْمَاءَ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوْتُ
عَلَى الْبُوْدِيِّ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ○

(انشاء اللہ شفاء ہوگی)

دیگر:

جس عورت کی ماہواری بند ہوگئی ہو تو اس تعویذ کو لکھ کر عورت کی دائیں ران میں باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حیض جاری ہو جائے گا۔ وہ تعویذ یہ ہے:

لا	حی	لا	ع	و	لا
ص	ر	ن	ی	س	س
ح					

جو بچہ پڑھائی سے بھاگے

ترکیب:

جو بچہ مدرسے یا کتب سے بھاگتا ہو اس کے گلے میں ان مبارک آیات کو لکھ کر موم جامہ کر کے بطور تعویذ ڈالنا نہایت مفید ہے۔ وہ بچہ انشاء اللہ تعالیٰ بھاگنا چھوڑ دے گا۔ وہ آیات یہ ہیں:

كَلَّا بَلْ تُكْذِبُونَ بِالَّذِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كَرَامًا
 كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۖ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ
 الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا
 بِغَائِبِينَ ۝

تسخیر کا وظیفہ

اگر کسی کو مسخر کرنا ہو اور اپنی کوئی حاجت اس سے پوری کرنی ہو تو اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھے اور اس کے بعد تسبیح و تہلیل اور ورد پڑھ کر اپنی ضرورت کیلئے دعا مانگے اور پھر ان آیات کو بلا تعداد پڑھتا ہوا اس کے پاس جائے اور وہاں جانے کے بعد بھی بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہے۔ جب وہ ہم کلام ہو تو اس وقت پڑھنا چھوڑ دے اور بیچ میں وقفہ ملتا رہے تو اس انشاء میں ان آیات کو پڑھتا ہی رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ مسخر ہوگا اور آپ کا کام پورا ہوگا۔

نہایت مجرب ہے۔ آیات یہ ہیں:

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا إِذَا
جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔

چور کے لئے

ترکیب:

جو لوگ چوری میں متہم ہوں یعنی لوگوں پر چوری کا شبہ ہو۔ ان سب کے نام
الگ الگ پرچوں پر لکھیں اور ان پر چبوں پر گہیوں کے آٹے میں جو گندھا ہوا ہو گولیاں
بنائیں اور ان سب پر اوّل و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد ایک
مرتبہ آیت الکرسی اور چاروں قل ایک ایک بار پڑھیں اور اس کے بعد طشت میں پانی بھر
کر اس میں وہ سب گولیاں ایک دم پانی میں ڈال دی جائیں گی۔ چور کی گولی پانی میں
غرق نہ ہوگی اور پانی پر تیرتی رہے گی مجرب ہے۔

برائے آسیب

ترکیب:

ان آیات کو لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں ڈالے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آسیب کا
اثر جاتا رہے گا۔ وہ آیتیں یہ ہیں:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا
 مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَفَكَّرُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ
 الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ
 الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۖ يُسَبِّحُ لَهُ
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ قُلْ
 أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَضْرَمِنَ الْجِنَّةِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
 قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ
 بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً
 وَلَا وَلَدًا ۝ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝

برائے اتفاق و اتحاد

ترکیب:

اگر کسی گروہ میں لڑائی جھگڑا ہو یا سخت جنگ رہتی ہو تو یہ آیت شریفہ پڑھ کر
 اس گروہ کی طرف دم کریں اور اگر دم نہ کر سکیں تو کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر سب کو
 پلائیں اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر شخص جس کنویں سے پانی پیتا ہو اس کنویں میں ڈال
 دیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ سب کے اندر خلوص و محبت پیدا ہو۔ آیت مبارکہ یہ ہے:

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا
الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ○

اگر کوئی بچہ گم ہو جائے

ترکیب:

جس کا بچہ گم ہو جائے یا بڑا بھاگ جائے تو ایسی صورت میں اس کو چاہئے سورۃ
الضحیٰ یعنی (وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ) پوری سورۃ پڑھتا رہے۔ وضو بلا وضو ہر
وقت ہر حالت میں اس سورۃ مبارکہ کو پڑھتا رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جس جگہ سے بچہ کھو گیا
تھا اسی جگہ پہنچانے والے آن کر پہنچا جائیں گے۔

اور بچہ اسی مقام پر واپس آجائے گا اور بڑا خود بخود گھبرا کر بہت جلد انشاء اللہ
تعالیٰ اپنی جگہ لوٹ آئے گا۔ مجرب ہے۔ پڑھتے وقت بھاگے ہوئے کا تصور رکھنا
ضروری ہے۔ اس کی کوئی تعداد نہیں بلا تعداد اس کو کثرت سے پڑھتا رہے۔

اگر کوئی چیز گم ہو جائے

دیگر:

ترکیب:

جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے یا بچہ کھویا جائے تو اس کو چاہئے کہ اس درود
شریف کو لکھ کر کسی درخت میں باندھ کر لٹکائے جو چیز گم ہو جائے۔ اس درود شریف کے
نیچے اس چیز کا نام لکھا جائے اور جو بچہ کھویا گیا ہے اس بچے کا نام اور اس کی ماں کا نام
ضرور لکھئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ أَلْفَ ذَرَّةٍ

دیکھنا خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

ترکیب:

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت یہ کلمے پڑھے مجھ کو خواب میں دیکھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالذُّكُنِ
وَالْمَقَامِ أَقْرَأَ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنِّي السَّلَامَ

لیکن ان باتوں کا ضرور خیال کرے کہ اس کا جسم کپڑے اور بستر پاک ہو اور خوشبو میں تمام چیزیں بسی ہوئی ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور زیارت سے مشرف ہوگا۔ بدھ کی شب سے شروع کرے ورنہ کھنے سے بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔

عمل برائے حاجات

ترکیب:

جب کوئی مصیبت نازل ہو کوئی پریشانی درپیش ہو تو چاہئے کہ رات کو نصف حصہ میں اٹھ کر وضو کرے اور دو رکعتیں ادا کرے جس وقت سلام پھیر چکے تو قبلہ رو بیٹھا رہے اور اس درود شریف کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے۔

درود شریف یہ ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُحِلُّ بِهَا عُقْدَتِي

وَتُصْرِجُ بِهَا كُرْبَتِي وَتُقْضِي بِهَا حَاجَتِي

درود شریف کو پورا کر کے باری تعالیٰ کی جناب میں دُعا کرے۔ ضرور قبول ہو

گی۔ اس کے فوائد کثیر ہیں جو کہ شمار میں نہیں آسکتے مجرب ہے۔

اگر دانت میں درد ہو

ترکیب:

جس شخص کے دانتوں میں درد ہو تو یہ عمل اس طرح کیا جائے۔ اول گوشے

میں چھری گاڑ کر یعنی دبا کر یہ پڑھے:


اللّٰهُ بِحُرْمَتِ حَضْرَتِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ

اور چھری کو اس گوشے پر خوب زور دے اور مریض سے کہہ دیا جائے کہ

جس دانت میں درد ہے اسے خوب زور سے پکڑے اگر درد جاتا رہے تو خیر ورنہ

دوسرے تیسرے اور چوتھے گوشے پر اسی طرح کرے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ درد

بالکل جاتا رہے گا۔



بد نظر کے لئے

ترکیب:

جس بچے کو نظر لگ جائے یا ضد کرتا ہو یا سوتے میں ڈرتا ہوں تو سورۃ قل
اعوذ برب الفلق پوری اور سورۃ قل اعوذ برب الناس پوری سورۃ تین دفعہ پڑھ
کر اس پر دم کرے اور یہ آیات اور دعا لکھ کر تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں
ڈالے۔ وہ آیات اور دعا یہ ہے:

يَمْعَشِرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنْ سَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط فَاَنْفُدُوا لَا تَنْفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ط
قِبَائِي آلاءِ رَبِّ كَمَا تُكْذِبِينَ ۝ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ
التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لِأُمَّةٍ

برائے دفعِ حُبِّ مخلوق

ترکیب:

جس شخص پر مخلوق کی محبت غالب ہو تو اس کو چاہئے کہ کسی طشتری پر اللہ تعالیٰ
کے ان ناموں کو لکھے جن میں حرف یا (ی) ہو جیسے گَرِيْمٌ، رَحِيْمٌ، حَفِيْظٌ اور مثل اس
کے کہ جن ناموں میں (ی) ہو پھر زبان سے اس طشتری کو چائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس
کے دل سے مخلوق کی محبت جاتی رہے گی۔ طشتری کو لکھ کر نہار منہ چائے اور جب تک چائے
رہے جب تک اس کے دل میں محبت کا جذبہ باقی رہے چائے وقت یہ نیت کرنا بھی
ضروری ہے کہ میرے دل سے محبت دہنیا جاتی رہے۔

برائے جدائی ڈالنا و شخصوں میں

ترکیب:

اگر دو شخصوں میں جدائی ڈالنا منظور ہو تو اس آیت مبارکہ کو کاغذ پر لکھ کر دونوں میں سے ایک کے تکیے میں رکھے۔ ان شاء اللہ فوراً جدائی ہوگی۔ آیات یہ ہیں:

يَوْمَ يَضْرُؤُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
لِكُلِّ امْرِيءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُضْنِيهِ ۝

یہ آیت لکھ کر نیچے فلاں شخص فلاں سے جدا ہو جائے۔ ماؤں کا نام ضرور لکھا جائے اور فلاں کی جگہ اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اور دوسرے فلاں کی جگہ اپنا اور اپنی ماں کا نام تحریر کرے۔

برائے حمل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ اِنَّكَ
اَنْتَ الْاَلَدِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْاَلَدِیْ لَمْ یَلِدْ
وَلَمْ یُوَلَدْ وَاَنْتَ لَمْ یَكُنْ لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

الہی بحرمت محمد و علی و الحسن و الحسین علیہم السلام یا زده
یعنی گیارہ تعویذ لکھ کر گیارہ روز تک گھول کر پلائیں۔

دیگر:

کسی گوشہ میں بیٹھ کر با وضو لکھے اور حاملہ عورت کی کمر میں باندھے اور تعویذ رحم

پر پڑا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حمل محفوظ رہے۔ دعا یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط ○ اِنْ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا
حَافِظٌ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا ؕ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ○
اَللّٰهُمَّ احْفَظْ حَمَلَ هَذِهِ الْمَرْءَةِ مِنْ جَمِیْعِ الْاَفَاتِ بِحَقِّ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اٰمِیْن۔ اٰمِیْن۔ اٰمِیْن ○

دیگر:

اگر کوئی شخص اس دعا یا عبارت کو لکھ کر (اس عورت کو جس کے اولاد نہ ہوتی ہو) کو دے اور وہ اس کو موم جامہ کر کے اپنے گلے میں ڈالے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ عورت اسی مہینے میں حاملہ ہوگی اور جو کسی درخت میں باندھ دے تو وہ بھی خوب پھلے پھولے گا۔ وہ دعا یا عبارت یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہو	ہو	ہو	ہو	ہو	ہو	ہو
اللہ	اللہ	اللہ	اللہ	اللہ	اللہ	اللہ
حی	حی	حی	حی	حی	حی	حی
قیوم	قیوم	قیوم	قیوم	قیوم	قیوم	قیوم

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ○

عمل برائے قید سے رہائی

ترکیب:

قیدی کی رہائی کے لئے اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک سو

چار مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ قیدی رہائی پائے گا۔

يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كَرْبَةٍ وَمُحِيتِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ مُنَادِي
عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَرَجَائِي حِينَ تَقْطَعُ حِيلَتِي ط

دیگر:

ہجگانہ نماز میں پانچوں وقت سو سو مرتبہ سات دن تک پڑھیں۔ ان شاء اللہ

تعالیٰ رہائی ہوگی۔ آیت یہ ہے:

يَا بُنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ
مُتَضَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَمْتُمْ
إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
يَا خَالِصُ يَا مُخْلِصُ ط

دیگر:

ترکیب:

جو کوئی ناحق قید ہو جائے ہر روز ہزار بار یہ کلمات کہے:

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنِي وَيَا نَاصِرَ الْمَظْلُومِينَ
انصُرْنِي بِفَضْلِكَ

ایک عجیب وظیفہ

مفسرین نے فرمایا ہے کہ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند کو جن کا نام ”سالم“ تھا۔ مشرکوں نے گرفتار کر لیا۔ تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی و فاقہ مستی کی شکایت کرتے ہوئے یہ عرض کیا کہ مشرکوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے۔ جس کے صدمہ سے اس کی ماں بے حد پریشان ہے تو اس سلسلے میں اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو اور تم بھی بکثرت لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو اور بچے کی ماں کو بھی تاکید کرو کہ وہ بھی کثرت سے اس وظیفہ کا ورد کرتی رہیں۔ یہ سن کر عوف بن مالک اشجعی اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو یہ وظیفہ بتا دیا پھر دونوں میاں بیوی اس وظیفہ کو بکثرت پڑھنے لگے۔ اسی درمیان میں وظیفہ کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن مشرکین ”سالم“ کی طرف سے غافل ہو گئے۔ چنانچہ موقع پا کر حضرت سالم مشرکوں کی قید سے نکل بھاگے اور چلتے وقت مشرکوں کی چار ہزار بکریاں اور پچاس اونٹوں کو بھی ہانک کر ساتھ لائے اور اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔

ماں باپ نے دروازہ کھولا تو حضرت سالم موجود تھے۔ ماں باپ بیٹے کی ناگہاں ملاقات سے بے حد خوش ہوئے اور عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی سلامتی کے ساتھ قید سے رہائی کی خبر سنائی اور یہ فتویٰ دریافت کیا کہ مشرکین کی یہ بکریوں کو جس طرح چاہیں استعمال کریں اور اس کے بعد مندرجہ ذیل آیت نازل ہوئی کہ:

ومن يتق الله يجعل له فخرًا ○ ويدزقه من حيث لا
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ
امره ○ قد جعل الله لكل شيء قدرًا ○
(سورہ الطلاق رکوع ۱)

ترجمہ: جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کیلئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے
روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کیلئے
کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ہر کام کو پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ نے ہر چیز کا
ایک اندازہ رکھا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں ایک ایسی
آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کو لے لیں تو یہ آیت لوگوں کو کافی ہو جائے گی۔
اور وہ آیت یہ ہے:

ومن يتق الله من آخر آیت تک (غرائب القرآن بحوالہ صاوی)



حکایت عجیبہ

علامہ اجموری نے اپنی کتاب ”فضائل رمضان“ میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی مگر اس کی صورت نہیں دکھائی پڑی۔ اس نے کہا اگر کوئی شخص مجھے دس ہزار دینار دے دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفہ کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ میں تجھ کو دس ہزار دینار دیتا ہوں۔ تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے تو آواز آئی کہ تو دیناروں کو سمندر میں ڈال دے مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے دس ہزار دیناروں کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا کہ وہ وظیفہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ آخِر آیت تک ہے۔ تجھ پر جب کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا ہے اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن شریف کی آیت ضرور نفع بخش ہوگی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی پھر اچانک طوفان کی موجوں سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ کشتی کے ایک تخت پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک جزیرہ میں اتر پڑا اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں اور اس محل میں ایک بہت ہی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔

اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ سمندری سفر میں جا رہی تھی تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کئی اچانک کشتی میں سے اچک کر لے بھاگا اور میں اس جزیرہ میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے۔ وہ ہر ساتویں دن یہاں آتا ہے میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوسہ و کنار کرتا ہے اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے۔ لہذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا مگر جوں ہی شیطان اس کو دبوچنے کیلئے آگے بڑھا تو اس نے من یحق اللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا ہے اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیج دیا ہے۔ تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جواہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی و جواہرات اور پھل وغیرہ کھانے کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی ”بصرہ“ جا رہی تھی۔ دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون احسان ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر

لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موتی جواہرات جو دونوں جزیرہ سے لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ بن گئے اور اس عورت سے خداوند تعالیٰ نے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ (صاوی)

فائدہ:

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف ہو اور عمل میں اخلاص نیت اور شرائط کی پوری پوری پابندی بھی ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا جس کی ایک مثال آپ نے پڑھ لی ہے۔ ”واللہ تعالیٰ اعلم“
(غرائب القرآن بحوالہ صاوی)

اصحاب کہف کے نام:

ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسلینا، تملیجنا، مرطونس، نینوس، ساریونس، ذونواس، فلسطیونس اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا اور ان لوگوں کے کتے کا نام ”قطمیر“ تھا اور ان لوگوں کے شہر کا نام ”انسوس“ تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ (مدارک التنزیل)

اور تفسیر صاوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسلینا، تملیجنا، مرطونس، نینوس، ساریونس، ذونواس، فلسطیونس یہ آخری چرواہا ہے تھے جو راستے میں ساتھ

ہولے تھے اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ (عجائب القرآن بحوالہ صاوی)

اصحاب کہف کے ناموں کے خواص:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ

نو کاموں کیلئے فائدہ مند ہے۔

(۱) بھاگے ہوئے کو بلانے کیلئے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کیلئے

(۲) آگ بجھانے کیلئے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔

(۳) بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کیلئے

(۴) دروسر کیلئے دائیں بازو پر باندھیں۔

(۵) ام الصیان کیلئے گلے میں پہنائیں۔

(۶) خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کیلئے۔

(۷) مال کی حفاظت کیلئے

(۸) عقل بڑھنے کیلئے

(۹) گنہگاروں کی نجات کیلئے (عجائب القرآن بحوالہ صاوی)

جادو کا علاج

روایت ہے کہ لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

پر جادو کر دیا تھا جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا۔ لیکن آپ نے قلب

اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام

حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک یہودی نے آپ پر

جادو کر دیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنوئیں میں ایک پتھر کے نیچے دیا گیا

ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنوئیں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گائے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور ﷺ کے موئے مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈورا یا گمان کا چلہ جس میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں گیارہ سوئیاں چھبی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور ﷺ کی خدمت میں لایا گیا۔

اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں سورتیں

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ نازل ہوئیں۔ ان

دونوں سورتوں میں گیارہ آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ (تفسیر خزائن العرفان)

اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔

فائدہ:

تعویذات اور عملیات جس میں کوئی لفظ کفر یا شرک کا نہ ہو جائز ہیں۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں اور حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم ﷺ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر دم فرماتے تھے اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرما کر سورۃ قلن

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے تھے۔ جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل تین مرتبہ فرماتے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ یہ دونوں سورتیں جن و شیاطین اور نظر بد و آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام سورتوں کے خصوصی خواص ہیں۔

سورة الاخلاص

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ
غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○ (پارہ ۳۰، سورہ فلق)

ترجمہ: اے محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی سب مخلوق کے شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلَهِ النَّاسِ ○
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي
صُدُورِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

(پارہ ۳۰، سورہ الناس)

ترجمہ: اے محبوب! تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا ہے۔ اس کے شر سے جو دل میں برے خیالات ڈال کر وبک رہے وہ (شیاطین) جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ کچھ جن ہیں اور کچھ انسان ہیں۔

(عجائب القرآن)

حضرت خضر کی بتائی ہوئی دعا

حضرت علامہ محمد بن سماک بہت جلیل القدر محدث اور باکرامت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان متوسلین ان کا قارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے۔ راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد بن سماک بہت سخت علیل ہیں۔ یہ ان کا قارورہ ہے جس کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ سبحان اللہ! ایک اللہ کے ولی کیلئے تم لوگ ایک اللہ کے دشمن سے مدد طلب کر رہے ہو قارورہ پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک سے کہہ دو کہ مقام درد پر **وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ** پڑھ کر دم کریں۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے اور لوگوں نے واپس آ کر حضرت محمد بن سماک سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیت کے ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام ہو گیا۔ پھر حضرت محمد بن سماک نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ لوگوں نے کہا

کہ جی نہیں ہم لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا تو حضرت محمد بن سماک نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ السلام تھے۔ (مدارج التزیل)

قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی کھل دوا اور مجرب علاج ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور صدق مقال و رزق حلال پر کار بند ہو۔ بلاشبہ یہ آیت شفاء امراض کے لئے قرآن مجید کے عجائب میں سے ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ
(حوالہ عجائب القرآن)

حکمت کی باتیں:

حضرت لقمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت داؤد علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتویٰ دینا ترک کر دیا اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے چار ہزار نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے آٹھ باتوں کو میں نے جن کر یا د کر لیا ہے۔ جو یہ ہیں:

- (۱) جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔
- (۲) جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔
- (۳) جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔
- (۴) جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔

(۵) اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔

(۶) اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔

(۷) اپنے احسانوں کو بھلا دو۔

(۸) دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔

(حوالہ غرائب القرآن)

مشکلات کا حل:

ربیع نے کہا کہ جب حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ منصور کی ملاقات کیلئے آئے تو آپ منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔

آپ کے لب مبارک عالم حرکت میں رہے اور منصور کا غصہ جاتا رہا۔ منصور نے کہا بہت زیادہ وقت آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ کو سرور و شادمان رکھا۔

جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خلیفہ سے اٹھ کر باہر تشریف لائے تو ربیع نے کہا: یا حضرت اس وقت خلیفہ تو آپ سے بہت ناراض تھے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اندر ہی اندر کچھ پڑھا جس سے خلیفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اے ربیع! میں اس وقت اپنے دادا حضور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی دعا

پڑھ رہا تھا۔

وہ دعا حسینی مندرجہ ذیل ہے:

يَا عَدَّتِيْ عِنْدَ سِدَّتِيْ وَيَا غُوْلِيْ عِنْدَ كُرْبَتِيْ اٰخِرُ سِنِيْ
بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاَكْبَفِيْ بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يَرَامُ

ترجمہ: اے میرے سامانِ حرب میری سختی کے وقت اور اے میرے مددگار میری تکلیف کے وقت میری حفاظت فرما۔ اپنی اس آنکھ سے جو سوتی نہیں اور حفاظت کراچی ثابت قدمی سے جو زیادتی نہیں کرتا۔

ربیع نے کہا کہ یہ مذکورہ دعا میں نے حفظ کر لی اور جب بھی مجھے کوئی مشکل کا سامنا ہوتا تو میں یہ دعا پڑھتا اور مشکل آسان ہو جاتی اور مجھے خوشی نصیب ہوتی۔

نمازِ استخارہ:

بعض اوقات آدمی کو اپنے کام میں یہ تردد و تذبذب ہوتا ہے کہ کروں یا نہ کروں مثلاً سفر پر جانا یا کسی رشتہ کو منظور کرنا چاہتا ہے یا شادی بیاہ وغیرہ ایسی ہی کوئی تقریب انجام دینا چاہتا ہے لیکن دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں؟ ایسے موقعوں کیلئے شریعت میں نمازِ استخارہ آئی ہے۔ اس نماز کا پڑھنے والا (مرد خواہ عورت) گویا کہ اپنے رب عزوجل سے مشورہ لیتا ہے۔ امید ہے کہ وہ نامراد نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کی سورت تعلیم فرماتے تھے۔ (ترمذی شریف)

مسئلہ:

استخارہ کا وقت اس وقت تک ہے کہ ایک طرف رائے پوری جم نہ چکی ہو۔ نمازِ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو پہلے دو رکعت نمازِ نفل پوری توجہ سے پڑھے پھر خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَاَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ

وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ
 هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعٰشِيْ وَ عٰقِبَةِ اَمْرِيْ وَ
 عٰجِلِ اَمْرِيْ وَ اَجَلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ
 فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ
 مَعٰشِيْ وَ عٰقِبَةِ اَمْرِيْ وَ عٰجِلِ اَمْرِيْ وَ اَجَلِهٖ فَاصْرِفْهُ
 عَنِّيْ وَ اَقْدِرْ لِيْ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ (غنیۃ)

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں۔ تیرے علم کے ساتھ اور تیری قدرت کے ساتھ طلب کرتا ہوں۔ اور تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ اس لئے کہ تو قادر ہے اور میں قادر نہیں اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو غیوں کا جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ! اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لئے بہتر ہے میرے دین و معیشت اور انجام کار میں اس وقت اور آئندہ میں تو اس کو میرے لئے مقدر کر دے اور آسان کر پھر میرے لئے اس میں برکت دے اور اگر تو جانتا ہے کہ میرے لئے یہ کام بُرا ہے میرے دین و معیشت اور انجام کار میں۔ اس وقت اور آئندہ میں تو اس کو مجھ سے پھیر دے اور مجھ کو اس سے پھیر اور میرے لئے خیر کو مقرر فرما جہاں بھی ہو پھر مجھے اس سے راضی کر۔

اور اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھے۔ بالخصوص جبکہ ہذا الامر زبان سے ادا کرے۔ مستحب یہ ہے کہ اس دعا کے اول آخر الحمد للہ اور درود شریف پڑھے اور پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکٰفِرُوْنَ اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے۔ (رد المحتار) اور دعائے مذکورہ پڑھ کر دائیں کروٹ پر باطہارت قبلہ کی طرف منہ کر کے سو رہے۔ اگر خواب میں سپیدی یا سبزی دیکھے تو وہ کام بہتر ہے، کر ڈالے اور سیاہی یا سرخی دیکھے تو بُرا ہے۔ اس سے بچے۔ (رد المحتار)

یا پھر دل میں جو بات زیادہ جھتی ہو اس پر عمل کرے۔

مسئلہ:

بہتر یہ ہے کہ سات بار استخارہ کرے پھر دیکھے کہ دل میں کیا بات گزرتی ہے۔

اسی پر عمل کرے۔ ان شاء اللہ اسی میں خیر ہے۔ (در مختار)

(حوالہ سنی بہشتی زیور)

نماز حاجت:

جب کوئی حاجت پیش آئے تو اس کیلئے دو یا چار رکعتیں پڑھے۔ حدیث

شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور تین بار آیت الکرسی پڑھے اور باقی تین

رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس

ایک ایک بار پڑھے تو یہ ایسی ہیں۔ جیسے شب قدر میں چار رکعتیں پڑھیں۔ بزرگان دین

فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ نماز کے بعد دعا

مانگے۔ اول آخر درود شریف پڑھے۔

(۲) قضاے حاجت کیلئے ایک مجرب نماز جو علمائے کرام ہمیشہ پڑھتے آئے۔

صلوۃ الاسرار یعنی نماز غوثیہ ہے جو ملا علی قاری اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اور

دوسرے علمائے کرام حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر دو رکعت نماز نفل

پڑھے اور بہتر یہ ہے کہ الحمد شریف کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار قل هو اللہ احد

پڑھے سلام کے بعد اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کرے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ بار درود و سلام

عرض کرے اور گیارہ بار یہ کہے:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اغْنِنِي وَأَمْدُدْنِي فِي قَضَاءِ
حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

پھر عراق کی جانب گیارہ قدم چلے۔ ہر قدم پر یہ کہے:

يَا غَوْثَ الثَّقَلَيْنِ وَيَا كَرِيمَ الطَّرْفَيْنِ اغْنِنِي وَأَمْدُدْنِي فِي
قَضَاءِ حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے اللہ عزوجل سے دعا کرے۔ ان شاء اللہ
تعالیٰ جلد مراد کو پہنچے۔

امام اجل ابوالحسن نورالدین اپنی مشہور کتاب ہیچہ الاسرار شریف میں حضور
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی سختی میں میری وہائی
دے وہ سختی دور ہو جائے اور جو کسی مشکل میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ مشکل حل ہو
جائے اور جو کسی حاجت میں اللہ عزوجل کی طرف مجھ سے توسل کرے اور مجھے وسیلہ بنا
کر دعا کرے وہ حاجت پوری ہو۔

مولیٰ عزوجل ہم سب کو آپ کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین

اسباب فقر و تنگ دستی

(ماخوذ از معمولات مشائخ، مطبوعہ دہلی و دولت بے زوال وغیرہ)

کتب متداولہ میں جو اسباب کہ انسان کو مفلس کر دیتے ہیں، بکثرت لکھے
ہیں چونکہ احصاء اور شمار اس مختصر رسالہ میں دشوار ہے۔ اس لئے لب لباب کے طور پر
اختصار کے ساتھ درج کئے جاتے ہیں۔ اسے کتب معتبرہ کا انتخاب سمجھنا چاہئے۔ حق
تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس بلائے ناگہانی سے نکالے اور ان کے اقوال و افعال اپنی

مرضی کے موافق کر دے اور مجھ کو اور اس رسالہ کے ناظرین اور جملہ مسلمین و مسلمات کو اپنی رحمت کاملہ سے نوازے۔ آمین

فقیر قادری عرض کرتا ہے کہ ان اسباب میں وہ بھی ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے اور اکثر و بیشتر وہ ہیں جو اکابر ملت و رہنمایان شریعت نے اپنے اپنے مشاہدے اور تجربے سے دریافت کئے تو جو ان اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھے گا خود ہی فائدہ اٹھائے گا اور جو ان میں ملوث ہوگا وہ خود دیکھ لے گا کہ اس نے کیا کھویا کیونکر کھویا۔ ہاں آدمی یہ کبھی نہ بھولے کہ مؤثر حقیقی اللہ عزوجل ہے اور ہر نفع و نقصان کی کنجی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے کرے اس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں۔

وہ اسباب یہ ہیں:

- (۱) جھوٹ بولنا۔
- (۲) زنا کرنا۔
- (۳) گناہوں میں مشغول رہنا۔
- (۴) جھوٹی قسمیں کھانا۔
- (۵) جنابت میں کھانا کھانا۔
- (۶) برہنہ پیشاب کرنا۔
- (۷) شب میں جھاڑو دینا خصوصاً کپڑے سے جھاڑنا۔
- (۸) ناخن دانت سے تراشنا۔
- (۹) پاجامہ یا دامن یا آنچل سے منہ پونچھنا۔
- (۱۰) فقیروں سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا۔
- (۱۱) کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا۔

- (۱۲) بیٹھ کر دستار یعنی عمامہ باندھنا۔
- (۱۳) خشک بالوں میں کنگھا کرنا یا کھڑے ہو کر بال کاڑھنا۔
- (۱۴) شکستہ کنگھا استعمال کرنا۔
- (۱۵) ماں باپ کا نام لے کر پکارنا۔
- (۱۶) مقراض (قینچی) سے موئے زیر ناف کاٹنا۔
- (۱۷) چالیس روز سے زیادہ زیر ناف کے بال رکھنا۔
- (۱۸) بزرگوں کے آگے چلنا۔
- (۱۹) دروازے پر بیٹھنے کی عادت کرنا۔
- (۲۰) لہسن پیاز کے پوست جلانا۔
- (۲۱) مکڑی کے جالے دور نہ کرنا۔
- (۲۲) جوں کو زندہ چھوڑنا۔
- (۲۳) نماز میں کاہلی کرنا۔
- (۲۴) پھٹے ہوئے کپڑے کو نہ سینا۔
- (۲۵) فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے جلد نکل آنا۔
- (۲۶) صبح کے وقت سونا۔
- (۲۷) اولاد پر باوجود مالداری ہتھی کرنا۔
- (۲۸) بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔
- (۲۹) کھانے کے بعد برتن صاف نہ کرنا۔
- (۳۰) اہل و عیال سے لڑتے رہنا۔
- (۳۱) میت کے قرینہ بیٹھ کر کھانا۔

(۳۲) خلال کرتے وقت جو ریشہ نکلے اسے پھر منہ میں رکھ لینا۔

(۳۳) ہر قسم کی لکڑی سے خلال کرنا۔

(۳۴) چراغ منہ کی پھونک سے بجھانا۔

(۳۵) کھانے پینے کے برتن کھلے ہوئے رکھنا۔

(۳۶) بازار میں سب سے پہلے جانا اور بعد میں آنا۔

(۳۷) اونڈھے جوتے کو دیکھنا اور اس کو سیدھا نہ کرنا۔

دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اونڈھا پڑا تو شیطان اس پر

آن کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس کا تخت ہے۔

(۳۸) بکریوں کے گلے میں گھس کر چلنا خصوصاً شام کے وقت

(۳۹) اولاد کو گالی دینا یا لعنت کرنا۔

(۴۰) فقیر کو جھڑک دینا۔

(۴۱) بایاں پاؤں پہلے پا جامہ میں ڈالنا اور بائیں ہاتھ کی آستین پہلے پہننا۔

(۴۲) قبرستان میں ہنسنا۔

(۴۳) کوڑا کرکٹ گھر میں جمع رکھنا۔

(۴۴) صبح ہوتے ہی خدا اور رسول کا نام لئے ذکر کئے بغیر دنیا میں مشغول ہو جانا۔

(۴۵) مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔

(۴۶) گانے بجانے میں دل لگانا۔

(۴۷) بلا وجہ شرعی اپنوں سے تعلقات ختم کر لینا۔

(۴۸) صلہ رحمی نہ کرنا۔

(۴۹) جنابت کی حالت میں ناخن ترشوانا یا سر منڈانا یا موئے زیر ناف وغیرہ صاف کرنا

(۵۰) زکوٰۃ یا صدقات واجبہ مثلاً قربانی و کفارہ قسم وغیرہ کے ادا کرنے میں بخل کرنا یا خواہ مخواہ انہیں ٹالتے رہنا۔

(۵۱) بغیر حاجت سوال کرنا۔

(۵۲) امانت میں خیانت کرنا۔

(۵۳) اندھیرے میں کھانا کھانا۔

(۵۴) ماں باپ کو ایذا دینا۔

(۵۵) قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگانا۔

(۵۶) شب چہار شنبہ (بدھ کی رات) یا شب یک شنبہ (اتوار کی رات) میں بیوی

سے صحبت کرنا، اگر اس صحبت میں حمل بھی رہا تو بچہ بے حیا اور بد نصیب پیدا ہو

گا اور ہمیشہ مفلس اور حریص رہے گا (مولائے کریم اپنا فضل فرمائے۔ غالباً

اسی بنا پر سینچر اور منگل کے دن دلہن بیاہ کر نہیں لاتے بزرگوں اور گھر کی بڑی

بوڑھیوں کا یہ عمل یہ فقیر اپنے بچپن سے دیکھتا آرہا ہے)

(۵۷) قحط کی نیت سے غلہ روکنا کہ اور مہنگا ہوگا جب بچیں گے۔

(۵۸) قمار بازی یا گانے بجانے کے آلات وغیرہ گھر میں رکھنا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں شراب اور دف اور طنبورہ (سارنگی)

ستار وغیرہ) ہو اس گھر کے آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوگی اور نہ اس گھر میں

رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔

(۵۹) راستہ میں پیشاب کرنا (اور بے ستری ہو تو حرام و گناہ)

(۶۰) ہمیشہ بے ہودگی مسخرہ پن اور ہزلیات (مذاق دل لگی) میں مصروف رہنا۔

(۶۱) ننگے سر کھانا کھانا۔

- (۶۲) ننگے سر بیت الخلاء میں جانا۔
- (۶۳) نکلے ہوئے کھانے میں دیر کرنا کہ کھانا دسترخوان پر الٹا ان کا انتظار کر رہا ہے۔
- (۶۴) برہنہ سر بازار میں پھرنا اور عورتوں کا ننگے سر رہنا اور اجنبیوں کے سامنے اسی حالت میں آنا جانا حرام حرام اور سخت گناہ ہے۔
- (۶۵) سجدہ تلاوت نہ کرنا یا وضو ہوتے ہوئے اس میں دیر لگانا۔
- (۶۶) تلاوت قرآن کے دوران آیت سجدہ چھوڑ کر آگے پڑھنا۔
- (۶۷) دوسرے شخص کا کنگھا عاریتاً مانگ کر استعمال کرنا۔ (خصوصاً صاف کئے بغیر کہ دوسرے کے بال اس کے بالوں میں الجھیں۔
- (۶۸) حوض یا تالاب یا بہتے پانی میں پیشاب کرنا۔ (اس سے نسیان بھی پیدا ہوتا ہے۔ دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ پانچ چیزوں سے بھول پیدا ہوتی ہے۔ حوض وغیرہ میں پیشاب کرنا۔ راکھ پر پیشاب کرنا، چوہے کا جھوٹا کھانا، قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا، زندگانی حرام خوری میں گنوانا بلکہ غور کیجئے تو یہ آخری ایک مستقل بلا و عذاب ہے)
- (۶۹) نہانے کی جگہ پیشاب کرنا۔
- (۷۰) برہنہ ہو کر سونا۔
- (۷۱) سوتے وقت پا جامہ یا تہبند سر کے نیچے رکھ کر سونا۔
- (دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ اس سے خواب خوفناک نظر آتا ہے)
- (۷۲) بلا ضرورت بستر کے پاس پانی کا لوٹا یا سلنگی پیشاب کے لئے رکھنا۔
- (۷۳) نماز قضا کر دینا۔
- (۷۴) مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔

- (۷۵) وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا (اس وقت دعائیں پڑھے یا پھر خاموش رہے)
- (۷۶) بلا وجہ شرعی کسی کے تحفہ ہدیہ یا نذرانہ کو روکا کر دینا۔
- (۷۷) روٹی کو خوار رکھنا (کہ اس کی بے ادبی ہو اور پیروں میں آئے)
- (۷۸) وضو کی جگہ پر پیشاب یا پیشاب کی جگہ وضو کرنا۔
- (۷۹) دروازے پر بیٹھ کر کچھ کھانا پینا (یہ خلاف ادب بھی ہے اور قابل نفرت بھی)
- (۸۰) استاد کی عظمت و توقیر میں کمی کرنا نہ کہ معاذ اللہ اس کی توہین کرنا۔
- (۸۱) مٹی یا چینی کے شکستہ برتن استعمال میں رکھنا خواہ اس سے پانی پینا۔
- (۸۲) شکستہ یا گرہ دار قلم سے لکھنا۔
- (۸۳) قلم کا تراشہ ادھر ادھر ڈال دینا کہ پیروں میں آئے۔
- (۸۴) مہمان کو حقارت سے دیکھنا اور اس کے آنے سے ناخوش ہونا۔
- (۸۵) بیت الخلاء میں باتیں کرنا یا وہاں کسی دینی بات میں غور و تامل کرنا۔
- (۸۶) مردوں کو چھوٹا استنجا کرتے وقت عام گزرگاہوں پر ٹہلنا اور باتیں کرنا۔
- (۸۷) بغیر بلائے دعوت میں جانا۔
- (۸۸) چار پائی پر دسترخوان وغیرہ رکھے بغیر کھانا کھانا۔
- (۸۹) چار پائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پالکتی پر رکھنا۔
- (۹۰) دانتوں سے روٹی کترنا۔
- (۹۱) دانتوں کو بلا وجہ کپڑے سے ملنا جیسے مسواک کرتے ہیں۔
- (۹۲) ظلم کرنا، کسی کو ناحق ایذا دینا اگرچہ جانور کو۔
- (۹۳) گناہ کے کاموں میں ضد کرنا اور اپنی بات پر اڑ جانا۔
- (۹۴) جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی میں ہاتھ دھونا۔

(۹۵) قرآن مجید گھر میں موجود ہوتے ہوئے نہ پڑھنا۔

(۹۶) ماں باپ استاد مرشد کی مرضی کے خلاف کام کرنا۔

(۹۷) دروازے کی دہلیز پر تکیہ لگانا یا سر رکھ کر سونا۔

(۹۸) سبز درخت کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کرنا۔

(۹۹) بلا ضرورت جانور ذبح کرنے کا پیشہ اختیار کرنا۔

(۱۰۰) صحیح رشتہ ملنے کے باوجود جوان لڑکیوں کو نہ بیاہنا۔

”معمولات مشائخ“ سے یہ ہم نے جو کچھ نقل کیا اس سلسلہ میں یہ بتا دینا بھی

مفید اور کارآمد ہوگا کہ احکام شریعت کے خلاف قدم بڑھانا اپنے لئے برکتوں کے

دروازے بند کرنا اور نحوست و افلاس اور فقر و تنگ دستی کو دعوت دینا ہے۔ اس تقدیر پر اور

بہت لوگ ایسے نکل سکتے ہیں کہ دانستہ مضرتوں میں گرتے اور پھر بلاؤں میں گر کر خود کا

علاج ڈھونڈتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اس باب میں دعائیں ان کے حق میں قبول

نہیں ہوتیں۔ سبب ظاہر ہے کہ یہ کام خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے کئے ہیں۔

مثلاً حضور سید عالم ﷺ فرماتے ہیں:

تین شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ

جس کے نکاح میں کوئی بدخلق عورت ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے۔ دوسرا وہ جس کا کسی پر

کچھ آتا تھا اور اس کے گواہ نہ کرے۔ تیسرا وہ جس نے سفیہ بے عقل کو مال سپرد کر دیا

حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: سفیہوں کو اپنا مال نہ دو۔ (حاکم)

ایک اور حدیث شریف میں ایسے ہی تین اور ارشاد فرمائے۔ ایک وہ کہ ویرانے

مکان میں اترے۔ دوسرا وہ مسافر کہ سر راہ مقام کرے یعنی سڑک سے بچ کر نہ ٹھہرے۔

(طبرانی)

تیسرا وہ جس نے خود اپنا جانور چھوڑ دیا۔ اب خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسے روک دے تو یہ چھ ہوئے جن کی نسبت تصریح فرمائی کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ جب دعا قبول نہ ہوگی، برکت جائے گی، پریشانی آئے گی، اضطراب و بے قراری میں اضافہ ہوگا اور افلاس و تنگدستی منہ چڑائے گی اور ان امور میں عدم قبول کا سبب ظاہر کہ یہ کام خود اپنے ہاتھوں کئے ہیں۔

ویرانے مکان میں اترنے والا اس کی مضرتوں سے آگاہ ہے پھر اگر وہاں چوری ہو یا کوئی لوٹ لے یا جن ایذا پہنچائیں تو یہ باتیں خود اس کی قبول کی ہوئی ہیں۔ اب کیوں ان کی رفع کی دعائیں کرتا اور گھبراتا ہے۔

یوں ہی جب راستہ پر قیام کیا تو ہر قسم کے لوگ گزریں گے اب اگر چوری ہو جائے یا ہاتھی گھوڑے کے پاؤں یا کسی اور سواری کو کچھ نقصان پہنچ جائے یا رات کو سانپ وغیرہ سے ایذا پہنچے تو اس کا اپنا کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب کو سر راہ نہ اترو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جسے چاہے راہ پر پھینکنے کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی خلاف ورزی نحوست ہی لائے گی۔ اور جانور بلکہ اپنے کسی بھی مال کو بلا حفاظت بے احتیاطی سے چھوڑ کر یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کی حفاظت کر۔ ظاہر حماقت ہے۔ کیا واحد قہار کو آزمانا یا معاذ اللہ اسے اپنا محکوم ٹھہرانا ہے اور عورت کی نسبت صحیح حدیث سے ثابت کہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے۔ اس کی کبھی ہرگز نہ جائے گی، سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے پس یا تو آدمی اس کی کبھی پر صبر کرے یا طلاق دے دے۔ یہ کہ نہ طلاق دیتا ہے نہ صبر کرتا ہے بلکہ بددعا دیتا ہے۔ خواہ خود کو یا عورت کو اور روز روز کی کل کل سے گھبرایا، گھبرایا، بوکھلایا، بوکھلایا پھرتا ہے اب گھر میں نحوست نہ آئے گی تو کیا رحمت و برکت کی بارش ہوگی۔

اور سفیہ نا تجربہ کار نا قابل اعتماد کو مال دے کر جب گواہ نہ کئے تو خود اپنا مال ہلاکت میں ڈالا۔ سفیہ کو دینا بربادی کیلئے پیش کرنا ہے پھر دانستہ مضرت میں گر کر برکت کی دعا مانگنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ:

خویشتن کردہ راعلا جے نیست

علمائے کرام و صوفیائے عظام نے اس موقع کی مناسبت سے اور بھی ایسے لوگ

گنائے ہیں جو خود کردہ کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔

(۱) مثلاً جو بغیر کسی سخت مجبوری کے رات کو ایسے وقت گھر سے باہر نکلے کہ لوگ سو گئے ہوں۔ پاؤں کی پچھل راستوں سے موقوف ہو گئی۔ صحیح حدیث میں اس سے ممانعت فرمائی کہ اس وقت بلائیں منتشر ہوتی ہیں۔

(۲) یا رات کو دروازہ کھلا چھوڑ دے۔

(۳) یا بغیر اللہ بسم اللہ پڑھے بند کرے کہ شیطان اسے کھول سکتا ہے اور جب بسم

اللہ پڑھ کر داہنا پاؤں مکان میں رکھے تو شیطان کے ساتھ آیا تھا باہر رہ جاتا ہے اور جب بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرے تو اس کے کھولنے پر قدرت نہیں رکھتا۔

(۴) یا کھانے پینے کے برتن بسم اللہ کہہ کر نہ ڈھانکے کہ بلائیں اترتی اور خراب کر

دیتی ہیں پھر وہ طعام و مشروب بیماریاں لاتے ہیں۔

(۵) یا بچے کو مغرب کے وقت باہر نکالے کہ اس وقت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔

(۶) یا کھانے سے فارغ ہو کر بے ہاتھ دھوئے سو رہے کہ شیطان چاٹتا ہے اور

معاذ اللہ برص کا باعث ہوتا ہے۔

(۷) یا غسل خانہ میں پیشاب کرے کہ اس سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔

(۸) یا چھبے کے قریب سوئے اور چھت پر روک نہ ہو کہ گر پڑنے کا احتمال ہے۔

(۹) یا عورت سے ہم بستری کے وقت بسم اللہ نہ کہے کہ شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اپنا عضو اس کے عضو کے ساتھ داخل کرتا ہے جس کے باعث بچہ انسان و شیطان دونوں کے نطفے سے بنتا اور پھر براتخم براہی پھل لاتا ہے۔

(۱۰) یا کھانا بغیر بسم اللہ کے کھائے کہ شیطان ساتھ کھاتا اور جو طعام چند مسلمانوں کو کفایت کرتا ایک ہی کے کھانے میں فنا ہو جاتا ہے۔

(۱۱) یا زمین کے سوراخوں میں پیشاب کرے کہ کبھی سانپ وغیرہ جانوروں کا گھر یا جن کا مکان ہوتا ہے اور انسان ایذا پاتا ہے۔

(۱۲) یا اپنی خواہ اپنے دوست کی کوئی چیز پسند آئے تو اس پر نظر بد دور کرنے کی دُعا اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ وَلَا تَضُرَّهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ نہ پڑھے کہ نظر حق ہے۔ مرد کو قبر اور اونٹ کو دیگ میں داخل کر دیتی ہے۔

(۱۳) یا تنہا سفر کرے کہ فساق انس و جن سے مضرت پہنچتی ہے اور ہر کام میں وقت پیش آتی ہے۔

(۱۴) یا نہنگام جماع شرمگاہ زن کی طرف نگاہ کرے کہ معاذ اللہ اپنے یا بچے یا دل کے اندھے ہونے کا باعث ہے۔

(۱۵) یا اس وقت باتیں کرے کہ بچے کے گونگے ہونے کا احتمال ہے۔

(۱۶) یا کھڑے کھڑے پانی پیا کرے کہ درد جگر کا مورث ہے۔

(۱۷) یا پاخانہ میں بغیر بسم اللہ اور اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ

وَالْخَبَائِثِ کہے جائے کہ خبیث (مرد خواہ عورت) جن سے مضرت کا اندیشہ ہے۔

(۱۸) یا لوگوں کے راستوں میں خواہ ان کی نشست و برخواست کی جگہ پاخانہ

پیشاب کرے یا کوڑا کرکٹ ڈالے یا اوپر سے پانی وغیرہ پھینکے کہ ان کے ملوث ہونے کا

اندیشہ ہو تو آپ ہی گالیاں کھائے گا۔

(۱۹) یا سفر سے پلٹ کر بغیر اطلاع کیے رات کو اپنے گھر میں چلا آئے کہ مکروہ دیکھنے کا احتمال ہے۔

(۲۰) یا فاسقوں، فاجروں، بد وضعوں، بد مذہبوں کے پاس نشست و برخاست کرے ان سے میل جول خلط ملط رکھے ان سے مشورہ لے ان پر اعتماد کرے کہ لوگوں کے نزدیک انہیں میں شمار ہوگا اور پھر محبت تو اپنا رنگ لاتی ہی ہے۔ ان کا رنگ چڑھ جائے تو دین و ایمان کے رخصت ہونے یا قلبی بیماریوں کے پیدا ہونے کا خطرہ سامنے موجود اور اگر بالفرض صحبت بد کے اثر سے بچا تو مہتمم و بدنام ضرور ہو جائے گا اور مثل مشہور ہے بد اچھا بدنام بُرا۔ پھر عقیدہ کی بدنامی، عمل کی بدنامی سے بدرجہا بدتر۔ یہ اور اس قسم کے صدہا امور و آداب، احادیث کریمہ میں ماثور اور علمائے اہلسنت کے فتاویٰ کتب میں مذکور ہیں۔ خدا توفیق دے اور جو یہاں ذکر کئے گئے وہی ذہن نشین رہیں تو رحمت خداوندی کو توجہ فرماتے اور برکتوں کے نزول میں کیا دیر لگتی ہے۔

(حوالہ سنی بہشتی زیور)

اسباب غنا و فراخ دستی

- (۱) نماز اشراق یعنی طلوع آفتاب کے کم از کم بس منٹ بعد دو یا چار نفل پڑھنا۔
- (۲) چاشت کی نماز کی پابندی کرنا دولت بے زوال میں لکھا ہے کہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ مفلسی اور چاشت کی نماز یعنی جو کوئی چاشت کی نماز کا پابند ہوگا، کبھی مفلس نہ ہوگا۔

(۳) ایام بیض یعنی ہر مہینے کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ کو روزے رکھنا۔ فتوح الاوراد میں منقول

ہے کہ تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو کوئی ایام بیض کے روزے رکھے اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔ دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور دونوں جہاں میں برکتوں سے مالا مال۔

(۴) سورہ واقعہ کا ہمیشہ بالخصوص بعد مغرب پڑھتے رہنا۔

(۵) مردوں کو اوّل وقت فجر میں سنت فجر اپنے گھر پڑھ کر فرض نماز کیلئے مسجد میں جانا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس شخص نے فجر کی سنتیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ اس کے اعزاء و اقارب کا جھگڑا اس سے کم ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

(۶) نماز پنجگانہ کیلئے اذان کا جواب دینا اور اس کا احترام بجالانا کہ لیٹا ہو بیٹھ جائے اور او و وظائف بلکہ تلاوت قرآن موقوف کر دے۔ سر پر ٹوپی دوپٹہ وغیرہ ڈال دے ہرگز ہرگز دنیا کی کوئی بات نہ کرے کہ ایمان میں خلل آنے کا اندیشہ ہے۔

(۷) دینی معلومات فراہم کرنے کی کوشش میں لگا رہنا۔

(۸) دوسروں تک علم دین پہنچانا اگرچہ قرآن کی ایک آیت یا دین کا ایک مسئلہ کہ دوسروں کو تم سے جو خیر پہنچے وہ تمہارے لئے مبارک ہے۔

(۹) خدا توفیق دے تو نماز تہجد پڑھتے رہنا۔

(۱۰) توبہ و استغفار کرنا بالخصوص فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ستر بار۔

(۱۱) مردوں کو حکم شرعی کے مطابق چاندی کی انگٹھی میں عقیق سرخ استعمال کرنا یہ موجب برکت بھی ہے اور درد جگر کو نافع بھی۔

(۱۲) گھر میں آیۃ الکرسی اور سورہ اخلاص پڑھتے رہنا۔

(۱۳) صبح کے وقت یا بعد عصر یا مغرب و عشاء کے مابین نہ سونا۔

(۱۳) ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا یعنی ۳۳ بار سبحان اللہ، ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر۔

(۱۵) قرآن مجید اور دینی کتابیں دینی مدرسوں کیلئے وقف کرنا۔

(۱۶) والدین کی خدمت میں مصروف رہنا۔

(۱۷) سورہ مزمل اور سورہ نباء کی تلاوت کم از کم ایک بار کر لینا۔ اور سورہ ملک بعد عشاء پڑھ کر سو رہنا اور شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھنا۔

(۱۸) سرکہ گھر میں رکھنا۔

(۱۹) عاشورہ محرم میں مسکینوں کو کھانا کھلانا کہ آج کے روز جو چیز دوسروں کو کھلائی پلائی جاتی ہے سال بھر تک اس میں برکت رہتی ہے اسی لئے مسلمانوں میں حلیم کا عمل جاری ہے۔

(۲۰) درود شریف بکثرت پڑھنا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ
مَحْبُوبٌ وَمَرْضِيٌّ لَدَيْهِ
(حوالہ سنی بہشتی زیور)

اضافہ رزق و دولت

غربت و افلاس ہونا مال و دولت کی افراط غیر مسلم حضرات کیلئے اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا اظہار ہے کہ ہم ایسے پالتے ہیں کہ ہماری شانِ خالقیت کو فراموش کر کے شمس و قمر، شجر و حجر کی پرستش کر رہے ہیں اور ہمارے سوا سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں اور اپنے سے کمتر مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں مگر ہم اپنے خوانِ کرم سے تم کو بھی نواز رہے ہیں اور ان پر جو تکلیف و مصیبت آتی ہے وہ بھی شانِ ربوبیت کا اظہار ہے کہ یہ حقیر جو

تکلیف و مصیبت تم پر آئی ہے کہوان سے جن کو تم پوجتے ہو کہ وہ اس کو دور تو کر دیں انصاف پسند کہہ اٹھتے ہیں کہ جو اپنی مدد آپ نہ کر سکیں۔ وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے غرضیکہ افلاس و دولت وغیرہ کی ہدایت کیلئے شان ربوبیت کا اظہار ہے اور مسلمانوں کیلئے امتحان ہے یا احسان۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

الْمَ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ تنگدستی، غربت و افلاس بھی امتحان ہے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون اپنے خدا کو بھول کر حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً: چوری، سود، سٹہ اور دوسرے کو نقصان پہنچا کر اپنا بھلا چاہتا ہے اور دولت و عزت دے کر امتحان اس طرح کہ کون شکر ادا کرتا اور غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چند اقوال جن کو اہل ایمان جو اہر پاروں سے تشبیہ دیتے ہیں، پیش کئے جاتے ہیں۔

اولیاء اللہ کا ارشاد ہے: دنیا خدا کی دشمن ہے، خدا کے دوست اس کے دشمن سے محبت نہیں کرتے ایسے ہی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”جو شخص تمام آسمان و زمین والوں کی تعداد کے برابر عبادت کرے اور دولت دنیا سے محبت رکھے، قیامت کو ندا فرمائی جائے گی یہ وہ شخص ہے جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”دو بھوکے بھیڑیے بھیڑوں کے غول میں اس قدر خرابی نہیں ڈالتے جس قدر دوستی مال و جاہ کی مسلمان کے دل کو تباہ و برباد کرتی ہے اور نفاق کو دل میں اس طرح اُگاتی ہے جیسے پانی سبزے کو۔“

عارفین کا ارشاد ہے کہ دنیا تصرف کیلئے محبت کیلئے نہیں۔ دنیا کی دولت حاصل کرو اپنی ذات اور اہل و عیال اور راہ خدا میں صرف کرو اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو کہ دل خدا کی محبت کے لئے ہے، غیر کو آنے کی اجازت نہیں۔

شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا: زکوٰۃ کس قدر ہے؟ فرمایا ”فقہاء کے مذہب میں دو سو درہم سے پانچ درہم دنیا اور مذہب عشاق میں دو سو میں سے ایک بھی رکھنا جائز نہیں بلکہ اس کے شکریہ میں جان دینا چاہئے کہ اس نے اپنے کرم سے دیئے مگر اس کی محبت نہ دی اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی۔“

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ سو کو گھٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا، ایسے ہی علمائے حق کا قول ہے کہ سو کی کمائی چوری کی جاتی ہے یا لٹ جاتی ہے یا آگ میں چلی جاتی ہے یا خاک میں مل جاتی ہے۔ حاکم ٹیکس میں چھین لیتا ہے یا اولاد عیاشی میں خرچ کر دیتی ہے مگر خود کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صدقہ بڑھتا ہے کہ جس طرح ایک دانے سے دس بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی میں سو (۱۰۰) دانے ہوتے ہیں۔ صدقہ کا بدلہ دنیا کے فانی میں بہت تھوڑا اور آخرت میں کل مزید انعام کے ساتھ ملتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اس اُمت کی پہلی نیکی یقین اور زہد ہے اور پہلا فساد بخل ہے، یقین سے مراد اللہ تعالیٰ رازق و مالک ہے۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ اور خیانت کی خصلت پر پیدا نہیں کیا جاتا بلکہ وہ صدق و امانت سے بسبب تصدیق و ایمان کے مشرف ہوتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے، خدا سے خوار کرتا ہے یعنی جو اپنی نظر میں خود کو بڑا تصور کرے وہ اور لوگوں کی نظر میں کتے اور سوسے بدتر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے اسماعیل! اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو شکستہ دلوں کے پاس تلاش کر میں تجھے ان میں ملوں گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو (اور مجھے راضی رکھنا ہے تو) ان کو راضی رکھو۔ اس لئے کہ تم کو تمہارے ضعیفوں کی بدولت رزق دیا جاتا ہے (یہاں ضعیف سے مراد وہ لوگ ہیں جو حصول دولت میں کمزور اور مجبور ہیں)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ مساکین سے محبت کرو اور ان سے قریب رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کے دل میں حسد اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے اور فرمایا: حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو یہ وہ جواہر پارے ہیں جن کو پرو کر مسلمان اپنے گلے کی زینت بنالے تو دنیا و آخرت سنور جائے گی۔

اب تو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ غربت و افلاس بھی رحمت ہے کہ جس کا دل بوجہ غربت و مصیبت ٹوٹا ہے مگر وہ نہ تو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف مائل ہو نہ احکام خداوندی کے خلاف حرام کو ذریعہ معاش بنایا نہ مالداروں کی دولت دیکھ کر حسد کی گندگی میں ملوث ہوا بلکہ صبر و نماز کے ذریعہ اللہ اور رسول ہی کی طرف لو لگائے ہے تو اس کا دل خدا کا گھر ہے ایسوں ہی کیلئے ارشاد فرمایا:

لَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

اے بندے میں تیری رگ جاں سے قریب تر ہوں۔

اللہ اکبر شکستہ دل کا یہ اعزاز اسی پر بس نہیں خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں جو مجھے راضی رکھنا چاہے تو میری اُمت کے غریبوں کو راضی رکھے۔ اسی پر بس نہیں اُم المؤمنین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد ہوا کہ میری اُمت کے غریبوں فقیروں سے محبت

کر دو اور اسی پر بس نہیں کل روز قیامت تمہارا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: کہاں ہیں میرے محبوب کی اُمت کے غریب و مسکین جب وہ آئیں گے تو فرمایا جائے گا کہ اے بندو! میں نے تمہیں ذلت اور رسوائی کیلئے غریب نہیں کیا تھا بلکہ اس لئے کہ اگر تم صبر کرو تو آج تمہیں خلعت عزت و کرامت عطا فرماؤں اور اس خلعت کو زیب تن کر لو اور جنت میں چلے جاؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ جس نے ترس کھا کر تمہیں کھلایا پہنایا ہو۔ **وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ** ساری دنیا کی دولتیں اس اعزاز پر قربان۔

اس باب کی ساری ہدایتیں ان جواہر پاروں سے ظاہر ہیں کہ حصول دولت و غنا کے عملیات سے قبل برنی عادتوں جو 'شراب'، 'عیاشی'، 'تکبر'، 'سود'، 'سٹہ' وغیرہ سے تائب ہو، کبھی غریب کو حقیر نظر سے نہ دیکھے، نہ جھڑکے بلکہ جو ممکن ہو اس کے ساتھ احسان کرے مگر بد افعال غریب کو نقد نہ دے کہ وہ فاقہ نہیں توڑے گا بلکہ نشہ کرے گا۔ ہاں کھانا کھلا دے اور اپنا پرانا کپڑا پہنا دے کہ نیا دیا گیا تو بیچ کر برے کام میں خرچ کرے گا۔

عزت و دولت کا تاج یعنی درود تاج

یہ درود شریف بہت محبوب و مقبول ہے اور اکثر کی ورد زباں اور حرز جاں جاں ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس کا نام بھی درود تاج ہے یعنی رحمت و برکت کا بے زوال تاج، جب تنگدستی دور نہ ہونے اور روزگار نہ ملنے کی وجہ سے عزت کی حفاظت دشوار ہو جائے تو درود تاج بعد ہر نمازے بار اور بعد نماز عشاء ایک سو ایک بار بحضور قلب پڑھے اور دن میں تلاش معاش میں نکلے تین دن ایسا ہی کرے اگر تین دن میں کوئی ذریعہ نہ نکلے تو چوتھے روز بعد فجر سے پڑھنا شروع کرے اور اس وقت تک پڑھتا رہے کہ جب تک کوئی آ کر اس کو خوشخبری نہ سنائے۔ درود تاج یہ ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج
 والمعراج والبراق والعلم ^طدافع البلاء والوباء والقحط
 والمرض والالام اسفه مكتوب مرفوع مشفوع منقوس
 في لواح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر
 مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى
 صدر العلى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم ^طجميل
 الشيم ^طشفيع الامم - صاحب الجود والكرم ^طوالله
 عاصمه و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره و
 سدره المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب
 مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين ^طخاتم النبيين ^ط
 شفيع المذنبين ^طانيس الغريبين ^طرحمة للعالمين ^طراحة
 العاشقين ^طمراد المستاقين ^طشمس العارفين سراج
 السالكين ^طمصباح المقربين ^طمحب الفقراء والغرباء
 والمساكين سيد الثقلين نبى الحرمين ^طامام القبلتين ^ط
 سيلتنا في الدارين ^طصاحب قاب قوسين محبوب رب
 المشرقين والمغربين ^طجد الحسن والحسين ^طمولانا و
 مولى الثقلين ^طابى القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور
 الله ^طيا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله
 واصحابه وسلموا تسليما ^ط

خیر و برکت کا خزینہ سورہ فاتحہ

یہ عمل بہت مقبول اور باعث خیر و برکت ہے کہ جب کھانا سامنے آئے پہلے ایک بار درود شریف اور ایک بار الحمد شریف تین بار قل ھو اللہ شریف ایک بار درود شریف پڑھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ اور تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب بخش کر کھائے۔ اللہ تعالیٰ روز افزوں ترقی دے۔

خیر و برکت کا بہترین عمل

یہ عمل میرے تجربے میں ایک مدت سے ہے اور میں نے جس کو بھی بتایا اس نے بھی تعریف کی جب روپیہ پیسہ مال و زر کسی سے لے تو بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ کر لے اور جب کسی کو دے تو اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر دے اگر اس پر کچھ ہی دن پابندی کر لی تو نہ کسی کو دینے سے کمی آئے گی نہ آمد میں کمی ہوگی۔ غرض کم آمدنی میں بھی خیر و برکت کا وہ عالم ہوتا ہے کہ اکثر دست غیب کا گمان ہونے لگتا ہے۔

عمل الحمد شریف

فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ شریف کی آخری میم کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھے۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ آخر تک ایک سو بار مجرب و آزمودہ ہے۔

عمل افزائش خیر و برکت

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللّٰهُ
فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سو بار اول آخر درود شریف تین بار اگر کبھی عمل

میں دیر ہو جائے تو درمیان ہی میں نماز فرض جماعت سے ادا کریں۔ عمل کی وجہ سے نماز قضا یا جماعت ترک نہ کریں بلکہ جو باقی رہے بعد کو پورا کریں مگر نماز یا مصافحہ میں درود کے سوا کوئی بات نہ کریں، عمل مجرب آزمودہ ہے۔

قرض سے نجات کا عمل

یہ عمل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رنج و غم اور قرض کے بارگودور کرنے کیلئے صبح و شام پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی اور چند ہی روز میں وہ غم و الم کے بارگرض سے سبکدوش ہو گئے۔ مگر حدیث شریف سے تعداد اس عمل کی ثابت نہیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی کرن چمکنے تک صبح ہے اور دوپہر ڈھلنے سے غروب آفتاب تک شام ہے۔ اس کے پیش نظر فقیر نے اس عمل کا یہ وقت مقرر کیا ہے کہ صبح طلوع فجر کے بعد نماز سنت سے فارغ ہو کر اسی مقام پر بیٹھا رہے۔ اول درود تاج ۳ بار سبحان اللہ و بحمدہ ۲۱ بار پھر فجر کی جماعت تک یہ دعا بے شمار پڑھے۔

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُذْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ
وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْحُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

آخر میں ایک بار درود تاج پڑھے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور بغیر کام کئے اسی طرح اذان مغرب تک اس دعا کو حضور قلب کے ساتھ اپنے غموں اور فکروں کو پیش نظر رکھ کر پیشتم نم پڑھتا رہے کہ یہ دعا ایسی ذات مقدس کی تعلیم فرمودہ ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں

اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

عمل برائے تسخیر خلق از حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ

يَا رَحْمَنُ كُلُّ شَيْءٍ رَاجِعٌ اِلَيْكَ - ایک ہزار مرتبہ روزانہ مع اول آخر درود

شریف ۳-۳ بار درود میں رکھے۔

دشمن کو مسخر کرنے کا عمل

یہ عمل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول اور نہایت مجرب ہے۔ ہر روز

قبل طلوع آفتاب یعنی نماز فجر سے پہلے یا بعد صرف ابار پڑھنے کا ورد کر لیا کرے پھر کسی

عمل کی عامل کو ضرورت نہ ہوگی۔

دشمن ذلیل و خوار ہو کر بلکہ مطیع و فرمانبردار ہو کر قدموں میں آگرے گا۔

اَللّٰهُمَّ سَخِّرْ لِيْ اَعْدَايَ كَمَا سَخَّرْتَ الدِّيْحَ لِسُلَيْمَانَ

اِبْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَكَيْنُهُمْ كَمَا كَيْنَتِ الْحَدِيْدَ

لِدَاوُدَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَذَلَّلْتَهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ

لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَهَرْتَهُمْ كَمَا قَهَرْتَ اَبَا جَهْلٍ

لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِحَقِّ كَهْلِيْعَصَ وَبِحَقِّ حَمْعَسَقَ

صُمْ بَكُمْ عُمِيْ فَهَمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ط صُمْ بَكُمْ فَهَمْ لَا

يَعْقِلُوْنَ ط صُمْ بَكُمْ فَهَمْ لَا يَبْصِرُوْنَ ط اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنُ ط فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ط

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

اگر کسی دن فجر سے قبل نہ ہو سکے تو بعد نماز فجر قبل طلوع پڑھے پڑھتے وقت

دشمن یا کسی اور کا نام لینے کی ضرورت نہیں صرف تصور کافی ہے۔

حُبِّ كَانِهَائِیْتِ مَفِیْدِ عَمَلِ

ایک برتن میں پانی لے کر پئے اور دل میں سات بار **بَارِبَا بُدُوْحُ** پڑھے۔ پھر پانی منہ میں لے کر برتن میں کئی کر دے جس کو پلائے محبت میں دیوانہ ہو جائے۔ سورۃ الم نشرح ۷ بار اس طرح پڑھے کہ ہر آیت کے بعد طالب اس کی ماں اور مطلوب اور اس کی ماں کا نام لے کر کہے: **اَللّٰهُمَّ اَلْقِ مَحَبَّةً عَلٰی قَلْبِ** جب سورۃ ختم ہو۔ ایک سیاہ مریچ کے دانہ پر دم کر کے کونلے کی آنچ پر جلانے۔ تین دن صبح بعد فجر کرے۔ ان شاء اللہ محبت پیدا ہوگی ہرگز ہرگز ہرگز ناجائز کام کیلئے نہ کرے۔ (یہ لکھ کر بازو پر باندھیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ	محمد
ابوبکر	عمر
عثمان	علی

اَللّٰهُمَّ بِنِعْمَتِكَ

اَلْقِ مَحَبَّةً فَلَانِ بِنِ فَلَانِ عَلٰی قَلْبِ فَلَانِ

بِنْتِ فَلَانِ بِحَقِّ وَالْقَبِيْلَةِ مَحَبَّةً مِّنِيْ

مَحْبُوْبِ كُو حَاضِرِ كَرْنِ كَا عَمَلِ

اول آخر ۳-۳ بار یہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں امرتہ سورۃ اخلاص ایک سانس میں پڑھے پھر اس کی صفت دیکھے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

كُلِّ ذَرَّةٍ مِّائَةِ اَلْفِ اَلْفِ

نیک رشتہ

اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہ ہوتا ہو اور بڑی کوشش کے باوجود رکاوٹ ہو تو یہ عبارت لکھ کر لڑکی کے گلے میں ڈالیں اور ان شاء اللہ کوئی نہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَمِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ زَوْجِیْنَ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ قَوْلِكَ هٰذَا بِحُرْمَةِ نَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَنْ تُرْزِقَ فُلَانُ بِنْتُ فُلَانٍ
زَوْجًا مَوَاقِفًا غَیْرَ مَخَالِفٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ اَجْمَعِیْنَ

رشتہ ہو کر رہے

اگر کسی کو رشتہ درکار ہو اور اسے پیغام آئے اور وہ دیکھنے کیلئے جائے تو اسے پسند آجائے مگر دوسرا فریق نہ مانتا ہو تو اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کیلئے دوسرے فریق کے گھر کے کسی فرد کے داہنے پاؤں کے نیچے کی مٹی لاکر اس پر سات بار یہ دعا پڑھ کر بروز اتوار دم کرے۔

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ جِبْرَائِیْلِ وَاِسْرَافِیْلِ وَمِیْكَائِیْلِ وِعِزْرَائِیْلِ
وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّتَّخِذُ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ وَاَلُوْیْدِی الْاَدِیْنِ ظَلَمُوْا اِذْ یُرُوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ
الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعَذَابِ الْحَبُّ فُلَانُ بِنُ

فُلَانٍ عَلٰی قَلْبِ فُلَانِ بِنِ فُلَانٍ

پھر اس مٹی کو آگ میں ڈالنے ان شاء اللہ بے قرار ہو کر رشتہ مل جائے گا۔

شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا

یہ نقش لکھ کر اگر مرد سے بیوی متنفر ہے تو مرد اپنے لٹے بازو پر باندھے اور اگر بی بی سے شوہر متنفر ہے تو عورت اپنے سیدھے بازو پر باندھے موم جامہ ضرور کر لیا جائے

۷۸۶

۱۴	۲۰	۲۶	فلاں بن فلاں فلاں بنت علی حب فلاں
۱۴	۲	۱۴	۲۲
۲	۳۰	۱۶	۱۰
۱۸	۸	۶	۲۸

قضائے حاجات

اس باب میں جو عملیات درج کئے جا رہے ہیں وہ تقریباً ہر ضرورت اڑی سے اڑی اور کڑی سے کڑی مشکل میں کام آنے والے ہیں۔ اس باب سے کسی عمل کو اپنی حاجت اور ضرورت اور اپنی اہلیت کے مطابق انتخاب کرنا آپ کا کام ہے۔ ہر عمل مجرب آزمودہ اور سریع الاثر ہے مگر یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کام کیلئے عمل کریں وہ جائز ہو دوسرے اپنی زندگی کے ہر حصے پر نظر ڈالیں کہ جو مشکل مجھے درپیش ہے کبھی کسی دوسرے..... ذریعہ میری وجہ سے تو ایسی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ مثلاً مقدمہ جسمانی تکلیف و اذیت روپیہ پیسے لین دین ہیر پھیر یا مسلمان کو اس کی اشد ضرورت پر جس کو تم انجام دے سکتے تھے مگر بوجہ بخل یا بخوف ناداری ٹھکرا دیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہے تو اس مسلمان سے معافی مانگنی چاہئے اور اگر دور ہو یا انتقال کر چکا ہے تو عمل شروع کرنے

سے قبل دو نفل پڑھ کر اس کیلئے ایصالِ ثواب کرنا ضروری ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔

قضائے حاجات کیلئے سب سے بہتر تدبیر یا کسی عمل میں اثر پیدا کرنے کیلئے ماں باپ کی دعا حاصل کر لینا اکسیر کا حکم رکھتا ہے اگر دونوں میں سے ایک موجود ہو یا دونوں انتقال کر چکے ہوں تو ان کی قبر پر حاضر ہو کر ان کی روح کو ایصالِ ثواب کر کے ان کے وسیلے سے رب قدیر سے مدد چاہیں پھر عمل کریں ان شاء اللہ کبھی ناکام نہ ہوں گے۔ اہل حاجت کو عمل بتانے سے قبل اس کی کتاب زندگی کا مطالعہ کر کے ضروری ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید شدید کر دیں۔

نفل نمازیں برائے قضائے حاجات

ترکیب اول:

وضو تازہ اچھی طرح کر کے دو رکعت نماز نفل پڑھے بعد سلام عرض کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ
بِكَ إِلَى رَبِّي فَيَقْضِي حَاجَتِي

اور اپنی حاجت ذکر کرے۔ یہ دعا صحیح حدیث میں تعلیم فرمائی۔ قال الرضاء

ایک نابینا خدمت اقدس حضور سید عالم ﷺ میں حاضر ہو کر اپنی نابینائی کا شاکہ ہوا۔

حضور ﷺ نے یہ نماز و دعا ارشاد فرمائی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر پڑھی، کچھ دیر نہ گزری

تھی کہ دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ گویا کبھی اندھے نہ تھے۔ اس دعا کے اول آخر حمد الہی و

درود رسالت اپنا ہی صلوة اللہ و سلامہ علیہ اور آمین پر ختم اور شروع میں اللہ تعالیٰ کو اسمائے

طیبہ سے ندا کرے۔ (احسن الدعاء) بہتر ہے۔

ترکیب دوم:

نمیروا بن بشکوال وہیب بن ورد سے روایت کرتے ہیں جو بندہ بارہ رکعت پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ و آیت الکرسی و سورۃ اخلاص پڑھے پھر سجدے میں یہ کلمات پڑھے:

سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفُ
بِالْمَجْدِ وَتَكْرَمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ
بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ
ذِي الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ
ذِي الطُّوْلِ وَالنِّعَمِ أَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ
مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ
وَجَدِّكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ كُلِّهَا لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ
وَلَا فَاجِرٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر خدا تعالیٰ سے وہ سوال کرے جس میں گناہ نہیں۔ مثلاً کہے ان تَقْضِي
حَاجَتِي هَذِهِ اور اس حاجت کا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ روافرمائے۔ وہب کہتے ہیں: ہمیں
پہنچا ہے کہ یہ ترکیب اپنے بیوقوفوں اور ابلہوں کو نہ سکھاؤ کہ گناہوں پر دلیری نہ کریں۔

ترکیب سوم:

عبدالرزاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص
خدا سے کچھ حاجت رکھتا ہو، تنہا مکان میں با وضوئے کامل چار رکعت پڑھے۔ پہلی رکعت
میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد وں بار دوسری میں بیس بار تیسری میں تیس بار چوتھی
میں چالیس بار پڑھے پھر پچاس بار قل هو اللہ احد اور ستر (۷۰) مرتبہ لا حول پڑھے اگر

اس پر قرض ہو ادا ہو جائے اور وطن سے دور ہو۔ خدا تعالیٰ اسے گھر پہنچائے اور جو آسمان کے برابر گناہ رکھتا ہو اور استغفار کرے خدا اس کے گناہ بخشے اور جو اولاد نہ رکھتا ہو خدا اسے اولاد دے اور جو دعا کرے خدا اس کی دعا قبول فرمائے اور جو خدا سے دعا نہیں کرتا خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔“ عبد اللہ فرماتے ہیں ”اپنے احمقوں کو یہ دُعا نہ سکھاؤ کہ اس سے نافرمانی پر استعانت کریں گے۔“

قال الرضا۔ ترکیب چہارم:

امام احمد اپنی مسند میں ابوورداء رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ”جو وضو کامل طور پر کرے یعنی بمراعات سنن و آداب پھر دو رکعتیں پورے طور پر پڑھے یعنی با اجتماع سنن و مستحبات و حضور قلب پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے عاجل یا آجل اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔“ امام حافظ ابن حجر عسقلانی پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اس کی سند حسن ہے۔“

ترکیب پنجم:

ترمذی و نسائی و ابن حبان و حاکم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک دن صبح کو خدمت اقدس حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ حضور مجھے کچھ ایسے کلمات تعلیم فرمادیں کہ میں نماز پڑھا کروں۔ ارشاد فرمایا ”دس بار اللہ اکبر دس بار سبحان اللہ دس بار الحمد کہہ پھر جو چاہے مانگ اللہ عزوجل عطا فرمائے گا“ نعم نعم۔ اچھا چھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے۔ ابن خزیمہ و ابن حبان الزاماً فرماتے ہیں: صحیح ہے۔ حاکم نے کہا یہ شرط احادیث صحیح مسلم صحیح ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اقول:

اس کا طریقہ یوں ہو کہ دو رکعت نفل بوضوئے تازہ و حضور قلب پڑھے۔
 قعدے میں بعد دو شریف اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ دس بار کہہ کر دعائے مقصود ایسے
 لفظوں سے کرے جو نفل نماز نہ ہوں۔

مثلاً: أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَاتِي كُلَّهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا
 كَانَ مِنْهَا إِلَيَّ خَيْرٌ وَلكَ رِضًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (آمین)
 ترکیب ششم:

ترمذی وابن ماجہ و حاکم حضرت عبداللہ بن ابی ادنی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور سید
 عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جسے اللہ تعالیٰ یا کسی آدمی کی طرف چاہت ہو چاہے کہ اچھی طرح وضو
 کرے دو رکعت پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ثنا کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو بھیجے پھر کہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ط سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ أَسْأَلُكَ مَوْجِبَاتِ
 رَحْمَتِكَ وَعِدَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ
 مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ط لَا تَدْعُ عَلَيَّ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ
 وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رَضِيًّا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ○

ترکیب ہفتم:

اصیہانی انس رضی اللہ عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ
 الکریم سے فرمایا: اے علی! کیا تمہیں وہ دُعا نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم یا پریشانی ہو
 اسے عمل میں لاؤ تو باذن اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول اور غم دور ہو۔ وضو کے بعد دو رکعت

نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اپنے نبی ﷺ پر درود خوانی اور اپنے سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کیلئے استغفار کرو۔ پھر کہو:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لَا
 اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ -
 سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - الْحَمْدُ
 لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - اَللّٰهُمَّ كَاشِفَ الْغَمِّ
 مُفْرِجَ الْهُمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ اَدْعُوكَ رَحْمٰنَ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا فَارْحَمْنِيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهِ
 لِقَضَائِهَا وَنَجِّحْهَا رَحْمَةً تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ط

ترکیب ہشتم

حاکم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں:
 رات یادن میں بارہ رکعتیں ہر دو رکعت پر التحیات پڑھ کر پھلی التحیات کے بعد اللہ تعالیٰ کی
 ثناء اور نبی ﷺ پر درود بجالاؤ پھر سجدے میں فاتحہ سات بار آیت الکرسی سات بار لَا اِلَهَ اِلَّا
 اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط
 دس بار پڑھ کر پھر کہو: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ رَحْمَةِ مَنْ كَتَبَكَ وَاَسْمِكَ
 الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ لَا اَعْلٰی وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ ط

پھر اپنی حاجت مانگ پھر سر اٹھا کر دائیں بائیں سلام پھیر اور اسے بیوقوفوں کو
 نہ سکھاؤ کہ وہ اس کے ذریعہ سے دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ احمد بن حرب و ابراہیم بن
 علی و ابوزکریا و حاکم نے کہا ہم نے اس کا تجربہ کیا تو حق پایا۔

ترکیب نہم:

حافظ ابوالفرج ابن الجوزی بطریق ابان بن ابی عباس انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت دنیا و آخرت کی ہو وہ پہلے کچھ صدقہ دے پھر بدھ جمعرات و جمعہ کا روزہ پھر جمعہ کو مسجد جامع میں جا کر بارہ رکعتیں پڑھے دس رکعتوں میں الحمد ایک بار آیت الکرسی دس بار اور آخر کی دو میں الحمد ایک بار قل هو اللہ احد پچاس بار پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو کوئی حاجت ہو دنیا خواہ آخرت کی اللہ تعالیٰ پوری کرے۔“

ترکیب دہم:

امام ابوالحسن نورالدین علی بن جریر لکھی شطنونی قدس سرہ العزیز بھیجہ الاسرار شریف میں بسند صحیح حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں: من استغاث بی فی کربة کشف عنہ جو کسی سختی میں میری دوہائی دے وہ سختی دور ہو جائے۔ ومن نادانی باسمی فی شدة فرجت عنہ اور جو مشکل میں میرا نام لے کر دعا کرے وہ مشکل حل ہو جائے۔ ومن توسل بی الی اللہ عزوجل فی حاجة قضیت له اور جو کسی حاجت میں اللہ عزوجل کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت روا ہو جائے اور جو شخص دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص گیارہ بار پھر بعد سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو نیچے۔ ویذکر لی ثم یخطو الی جہتہ العراق احدی عشرہ خطوۃ ویذکر اسمی ویذکر حاجة فانها تقضی باذن اللہ تعالیٰ اور مجھے یاد کرے پھر عراق شریف کی طرف گیارہ قدم چلے اور میرا نام لیتا جائے پھر اپنی حاجت ذکر کرے تو بے شک وہ حاجت باذن اللہ تعالیٰ پوری ہو۔ یہ

مبارک نماز اس سلطان بندہ نواز اکابر آئمہ دین مثل امام جہنم و امام یافعی و مولانا علی قادری و مولانا شیخ محقق محدث دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم نے نقل و روایت فرمائی۔

درود تنجینا برائے قضائے حاجت

یہ درود تنجینا ہے بہت مشہور مگر اس کی کرامتوں سے عوام ناواقف ہیں۔ صرف عالمین اس کی برکات سے واقف ہیں۔ قضائے حاجت کیلئے اس کے پڑھنے کی ترکیب بھی سینہ بسینہ چلی آرہی ہے۔ غالباً اس کی ترکیب حدیث شریف کے مضمون سے وضع کی گئی ہے۔

غرض درود تنجینا ہر ایک مشکل میں کام آتی ہے۔ اس کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر روز بوقت عشاء کھڑے ہو کر پڑھے اور دو نفل برائے قضائے حاجت ادا کرے اگر حاجت دینی ہو تو قبلہ رخ اور اگر کوئی حاجت دنیوی مثلاً حصول دولت یا ادائے قرض، حصول ملازمت ترقی کیلئے جنوب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور اگر دشمن کو مغلوب کرنا ہو یا مقدمے سے برأت مقصود ہو کسی روٹھے ہوئے کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور اپنی محبت میں دیوانہ کرنا ہو تو جانب شمال رخ کر کے کھڑے ہو کر پہلے دن ۱۰ بار دوسرے دن ۲۰ بار تیسرے دن ۳۰ بار غرض جب تک حاجت پوری نہ ہو دس بار ہر روز بڑھاتے جائیں۔ مایوسی اور ناکامی کا خیال بھی نہ آنے پائے۔ بس درود شریف کے فیوض و برکات کی بارش میں خود کو نہاتا تصور کرے۔ درود تنجینا یہ ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ
وَالْاِفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَ تَرَفَعْنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَ
تُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي
الْحَيٰوةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

ایک بزرگ کا فرمان ہے کہ ایام بیض میں تین روزے رکھے اور شب میں بعد نماز عشاء دو نفل پڑھ کر دست بستہ بیٹھ کر دریائے محبت سید عالم میں ڈوب کر نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ ایک ہزار بار پڑھے اگر پہلے ہی روز کام ہو جائے تب بھی تین روز پڑھنا ہی چاہئے اور ہر روز روزہ بھی رکھے۔ بس حاجت کے پورا ہو جانے کے بعد ادائے شکر و نعمت کی نیت سے پڑھے اور اس کا ثواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو بخشے اگر ہر نماز کے بعد ۱۰۰ سو بار پڑھتا رہے تو اس کی ہر ضرورت دینی اور دنیوی کی بجا آوری سید کو نبین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرم پر ہو۔

دُعَا حَلِّ الْمَشْكَالَاتِ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دُعا ایک نابینا کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس کے پڑھنے سے فوراً آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس مبارک دُعا کا بارہا تجربہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ دوبارہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی کہ بڑی سے بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اول تازہ وضو کرے پھر دو نفل پڑھ کر سو بار یہ دُعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَ اَتُوْجِّهُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّكَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ
الرَّحْمَةِ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّیْ لَوَجِّهْتُ بِكَ اِلٰی رَبِّیْ فِی
حَاجَتِیْ هٰذِهِ لِتَقْضِیْ لِیْ حَاجَتِیْ۔

یہ دُعا مسجد میں جس جگہ نفل پڑھے اسی جگہ پڑھے۔

درود برائے قضائے حاجات

وقت ظہر ۳۱۳ بار پڑھے ان شاء اللہ حاجت پوری ہو مع بسم اللہ پڑھے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ إِنِّي
مُشْتَاقٌ بِنُورِ جَمَالِكَ وَرَسُولِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

نقش سورۃ اخلاص

منقول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سورۃ اخلاص اسی ترتیب سے

لوح محفوظ میں لکھی ہے اس کے ۲۵ فوائد ہیں۔

- (۱) یہ کہ لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر دردِ شکم والے کو پلائے ان شاء اللہ شفا پائے۔
- (۲) یہ کہ لکھ کر مسجد کے بیچ دفن کرے غائب حاضر ہو۔
- (۳) بخار والے کے بازو پر باندھنے سے شفاء ہو۔
- (۴) یہ کہ لکھ کر دیوانہ یا پاگل کے گلے میں باندھنے سے صحت ہو۔
- (۵) کسی کو دیوی یا جن کا خلل ہو یہ نقش باندھنے سے نجات ہو۔
- (۶) لکھ کر کلام پاک میں رکھے جو آزاد ہو خواب میں معلوم ہو جائے۔
- (۷) یہ لکھ کر دریا میں ڈالے جو مراد ہو مولیٰ تعالیٰ پوری فرمائے۔
- (۸) درد سر کے واسطے سر میں باندھے درد رفع ہو۔
- (۹) شرف آفتاب یا مشتری یا شرف قمر میں لکھ کر کسی میٹھی چیز پر مطلوب کو کھلا دے
یک لحظہ جدا ہونا نہ چاہئے۔
- (۱۰) لکھ کر پرانی قبر میں دفن کرے دشمن مقہور ہوں۔
- (۱۱) اگر لکھ کر گونگے بچے کو کھلائے بولنے لگے۔

- (۱۲) ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے۔ دیکھتے دیکھتے درد کا فور ہو۔
- (۱۳) لکھ کر اپنے پاس رکھے رزق میں فراخی ہو۔
- (۱۴) اگر لکھ کر بازو پر باندھے اور جنگ میں جائے با فتح و نصرت آئے۔
- (۱۵) جو لکھے اس کے دشمن دوست ہوں۔
- (۱۶) اگر مزدے کے کفن پر لکھے عذاب قبر سے نجات پائے۔
- (۱۷) جس کے پاس یہ نقوش ہو وہ خلق کی نگاہوں میں عزیز ہو۔
- (۱۸) اگر شوہر لکھ کر عورت کو کھلائے اس کا دل کبھی کسی مرد کی طرف مائل نہ ہو۔
- (۱۹) جو اپنے پاس رکھے دنیا سے با ایمان جائے۔
- (۲۰) اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے جو اس کے دل میں ہو اپنے مرد سے کہہ دے۔

- (۲۱) اگر لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر پیئے ابلیس کے مکر و فریب و شر سے نجات ہو۔
- (۲۲) اگر ہرن کی کھال پر لکھ کر پاس رکھے تمام عامل علوی و سفلی مطیع و فرمانبردار ہو۔
- (۲۵) یہ کہ خلل مسان کیلئے بروز جمعہ لکھے اور بچے کے گلے میں ڈالے ان شاء اللہ دفع ہو۔

نقش مکرم یہ ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قل	هو	اللہ	احد	اللہ	الصمد	لم	یلد
هو	اللہ	احد	اللہ	الصمد	لم	یلد	ولم
اللہ	احد	اللہ	الصمد	لم	یلد	ولم	یولد

احد	اللہ	الصمد	لم	یلد	ولم	یولد	ولم
اللہ	الصمد	لم	یلد	ولم	یولد	ولم	یکن
الصمد	لم	یلد	ولم	یولد	ولم	یکن	لہ
لم	یلد	ولم	یولد	ولم	یکن	لہ	کفواً
یلد	ولم	یولد	ولم	یکن	لہ	کفواً	احد

نقش سیفی

یہ نقش مکرم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے جن آسب سحر وغیرہ ام صبیان اور دشمن کو ہلاک کرنے دشمن کو زیر کرنے میں اپنی نظیر آپ ہے جس شخص کے پاس ہو اس پر کسی قسم کا جادو وغیرہ اثر نہ کرے۔ نقش مکرم یہ ہے:

۱۶۵۱۸	۱۶۵۲۱	۱۶۵۲۵	۱۶۵۱۱
۱۶۵۲۳	۱۶۵۱۲	۱۶۵۱۷	۱۶۵۲۲
۱۶۵۱۳	۱۶۵۲۷	۱۶۵۱۹	۱۶۵۱۶
۱۶۵۲۰	۱۶۵۱۵	۱۶۵۱۳	۱۶۵۲۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادعلیا مظهر العجائب تجدہ عونالك

فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بنیوتک یا رسول اللہ و

بولاتیک یا علی یا علی یا علی

دلائل الخیرات

دلائل الخیرات شریف جس میں درود ہی درود ہے۔ اس کا ایک حزب روزانہ اور ہمیشہ اس کی پابندی کرنا حصول مقاصد دینی و دنیاوی کیلئے کافی ہے۔

نادِ علی کے پندرہ فوائد

(از: حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَادِ عَلِیًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ
تَجِدُهُ عَوْنًا لَّكَ فِی النَّوَائِبِ كُلِّ هَمٍّ سَیَنْجِلِیْ بِنَبِیِّتِكَ
یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَبِوَلَايَتِكَ یَا عَلِیُّ یَا عَلِیُّ

(۱) بڑی سے بڑی مہم و دشواری ہو ہر روز ۴۱ بار پڑھے۔ ان شاء اللہ بہت جلد آسان ہو۔

(۲) برائے حصول مقاصد ۶۶ مرتبہ ہر روز تا حصول مراد پڑھے بہت جلد منزل مقصود کو پہنچے۔

(۳) برائے مریض جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو ۷ مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے تاصحت پلائے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ شفاء پائے۔

(۴) خلل جن آسیب وغیرہ کیلئے ۱۵ مرتبہ پانی پر دم کر کے چھینٹا دے ان شاء اللہ دفع ہو۔

(۵) حُب کے ۴۷ مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیا کرے جس سے بات کرے مطیع و مسخر ہو۔

(۶) کیسا ہی رنج و غم ہو ہزار بار روزانہ باطہارت پڑھے فضل خدا سے سب غم کا فورہوں

(۷) اگر کسی کو پیغام لے کر بھیجے اور امر دشوار ہو کہ نہ معلوم میرا پیغام منظور ہوگا یا نہیں تو چپکے سے تین بار پڑھ کر اس کے کان میں دم کرے۔ ان شاء اللہ کامیاب واپس آئے۔

(۸) اگر کسی پر کوئی تہمت لگائے یا کوئی ملزم کسی الزام میں پکڑا گیا ہو تو تا صفاقی ۴۰

مرتبہ ہر روز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، ان شاء اللہ تہمت سے بری ہو۔

(۹) اگر کہیں سے کسی بات کا یا خط وغیرہ کا جواب منگانا ہو اور نہ آتا ہو تو قبل نماز

عشاء اس طرف کو منہ کر کے ۶۵ بار پڑھ کر دم کیا کرے۔ ان شاء اللہ تین روز

میں جواب آئے یا خبر آئے۔

(۱۰) برائے حصول دولت و غنا جاہ و چشم ۹۱ مرتبہ روزانہ بعد نماز فجر پڑھ لیا کرے،

چند روز میں کچھ ہو جائے۔ چاہئے کہ تازہ زندگی ترک نہ کرے اور وقت اور جگہ

کی پابندی رکھے بوجہ مجبوری اگر کہیں جائے تو مصلیٰ ضرور ساتھ لے جائے۔

(۱۱) مزید دولت و جاہ و حشمت کیلئے ۵۰۰ بار وقت و جائے معین پر پڑھے جلد

کامیابی ہو۔

(۱۲) دشمن کو مطیع کرنا ہو تو اس کا تصور کر کے ۱۸ بار پڑھ لیا کرے۔

(۱۳) کسی مہم کو جلد سے جلد آسان کرنا ہو تو نماز حاجت کی نیت سے ہر رکعت میں

۳۰۳ بار سورہ اخلاص پڑھے اور ثواب اس کا بروح پاک حضرت علی مرتضیٰ

مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بخشے بعد ۷۰ بار ناد علی پڑھے۔

ان شاء اللہ اسی دن کامیاب ہو اور نہ تین دن یہ عمل کرے۔

(۱۴) دشمنوں اور بدخواہوں کی زبان بند کرنے کی نیت سے ہر نماز کے بعد دس بار

پڑھ لیا کرے۔

(۱۵) حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کیلئے کامل طہارت کے ساتھ بعد نماز

عشاء اول آخر درود شریف سو سو بار اور ۵۰۰ تا وعلی پڑھے اور با وضو سو جائے۔

ان شاء اللہ العزیز اسی شب میں دولت دیدار سے مشرف ہو۔

درود شریف ہر عمل کے ساتھ ۳ یا ۹ یا ۱۱ بار اپنے مقدر بھر پڑھنا ضروری ہے۔

دشمن پر غالب آنے کا مجرب عمل

یہ عمل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول اور نہایت مجرب ہے۔ ہر روز قبل طلوع آفتاب یعنی نماز فجر سے پہلے یا بعد صرف ۱۱ بار پڑھنے کا ورد کر لیا پھر کسی دوسرے عمل کی عامل کو ضرورت نہ ہوگی۔ دشمن ذلیل و خوار ہو کر بلکہ مطیع فرمانبردار ہو کر قدموں میں آگرے گا۔

اَللّٰهُمَّ سَخِّرْنِيْ اَعْدَائِيْ كَمَا سَخَّرْتَ الرِّيحَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ
 دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ وَ لِيْنَهُمْ كَمَا لِيْنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوُدَ
 عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ ذَلَّلْتَهُمْ كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى عَلَيْهِ
 السَّلَامَ وَ قَهَرْتَهُمْ كَمَا قَهَرْتَ اَبَا جَهْلٍ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ كَهْلِيْعَصَ وَ بِحَقِّ حَمِّ عَسَقٍ صُمِّ بِكُمْ عُمِيْ فَهَمَّ لَا
 يَرْجِعُوْنَ صُمِّ بِكُمْ عُمِيْ فَهَمَّ لَا يَعْقِلُوْنَ صُمِّ بِكُمْ عُمِيْ
 فَهَمَّ لَا يُصِرُّوْنَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَسَيَكْفِيْكُمْ اللّٰهُ
 وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

نوٹ: اگر کسی دن فجر سے قبل نہ ہو سکے تو بعد نماز فجر سے قبل طلوع پڑھے پڑھتے وقت دشمن یا کسی اور کا نام لینے کی ضرورت نہیں، صرف تصور کافی ہے۔

اسمِ اعظم

از قلم: امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز اور آپ کے والد ماجد

مولانا تقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بشارت:

حدیث میں آیہ کریمہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

کی نسبت فرمایا: یہ اسمِ اعظم ہے جو اس کے ساتھ دعا کرے قبول ہو۔ علماء فرماتے ہیں:

آیہ کریمہ قبول دعاء خصوصاً دفع بلا میں اثر تمام رکھتی ہے۔ قال الرضا سعد بن ابی وقاص

رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم نہ بتا

دوں کہ جب وہ اس سے پکارا جائے۔ اجابت کرے اور جب اس سے سوال کیا جائے عطا

فرمائے۔ وہ دعایہ ہے جو یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین تاریکیوں میں کی تھی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ یہ خاص حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کیلئے

تھا یا سب مسلمانوں کیلئے ہے۔ فرمایا مگر تو نے خدا تعالیٰ کا ارشاد نہ سنا کہ

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔

یعنی پس ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے

نجات دی اور یوں ہی نجات دیں گے ایمان والوں کو۔

بشارت ۲: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوَلَدْ وَلَمْ یَكُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ

ارشاد فرمایا: خدا کی قسم تو نے اللہ تعالیٰ سے وہ اسم اعظم لے کر سوال کیا کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور جب اس سے دعا کی جاتی ہے قبول فرماتا ہے۔
امام ابوالحسن علی مقدسی و امام عبدالعظیم منذری و امام بن حجر عسقلانی وغیرہم ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اس حدیث کی اسناد میں کوئی طعن نہیں اور دربارہ اسم اعظم یہ سب احادیث سے جید و صحیح تر ہے۔

بشارت ۳:

ایک حدیث میں آیا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے:
الْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اور اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

بشارت ۴:

بعض علماء یا بدیع السموات والارض یا ذوالجلال والاكرام کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ قال الرضا سري بن يحيى قدس سره بعض اولياء سے راوی ہیں دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اسم اعظم دکھا دے۔ مجھے آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا جس پر لکھا تھا:
يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بشارت ۵:

بعض علماء نے یا اللہ یا رحمن یا رحیم کو اسم اعظم کہا۔

بشارت ۶:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن صامت رضی اللہ عنہ کو یوں دعا کرتے سنا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحُدُوكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

فرمایا: یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس سے پکارا جائے اجابت کرے اور جب مانگا
جائے عطا فرمائے۔

بشارت ۷:

حدیث میں ہے: حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یوں دعا کی:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ وَأَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ الْبَرُّ
الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ
مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں اسم اعظم ہے۔ (رواہ ابن ماجہ)

بشارت ۸:

ابو زرواء و ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اسم اعظم رب رب ہے۔ رواہ الحاکم
حدیث میں آیا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ یا رب یا رب کہتا ہے رب عزوجل فرماتا
ہے: لَيْتَكَ اے میرے بندے! مانگ کہ تجھے دیا جائے۔

بشارت ۹: حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اسم اعظم
اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ہے۔

بشارت ۱۰:

ابو امامہ باہلی صحابی رضی اللہ عنہ کے شاگرد وقاصم بن عبدالرحمن شامی کہتے ہیں:

اسم اعظم الْحَيِّ الْقَيُّومُ ہے۔

بشارت ۱۱:

امام قاضی عیاض نے بعض علماء سے نقل فرمایا: اسم اعظم کلمہ تو حید ہے۔

بشارت ۱۲:

امام فخر الدین رازی و بعض صوفیاء کرام نے کلمہ صُو کو اسم اعظم بتایا۔

بشارت ۱۳:

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔

بشارت ۱۴:

بعض علماء نے بسم اللہ شریف کو اسم اعظم کہا۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف سے ایسی ہے جیسے گن کلام خالق ہے۔

بشارت ۱۵:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو ان پانچوں کلموں سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اللہ عزوجل عطا فرمائے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

بشارت ۱۶:

اوپر گزرا کہ جو شخص یا ارحم الراحمین تین بار کہے۔ فرشتہ کہتا ہے: مانگ کہ ارحم الراحمین نے تیری طرف توجہ فرمائی۔

بشارت ۱۷:

پانچ بار یار بنا کہنے کا فضل امام جعفر صادق علیہ السلام سے گزرا۔

بشارت ۱۸:

یہی خاصیت اسمائے حسنیٰ کی ہے۔ قال الرضا

بشارت ۱۹:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یا ارحم الراحمین کہتے سنا۔ فرمایا: مانگ کہ تیری دعا قبول ہوئی۔

بشارت ۲۰:

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے: حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس کچھ دعائیں لائے اور عرض کی جب حضور کو کوئی حاجت پیش آئے انہیں پڑھ کر دعا مانگے۔

يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا
صَرِيحَ الْمُسْتَضْرِحِينَ يَا غِيَاةَ الْمُسْتَعِيثِينَ يَا كَاشِفَ
السُّوءِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا مُجِيبَ الدَّعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا
إِلَهَ الْعَالَمِينَ بِكَ أَنْزَلَ حَاجَتِي وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهَا فَاقْضِهَا •

آپ کا اسم اعظم

اس سربستہ راز کو بھی امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر فرما کر ہماری مشکل آسان فرمادی۔ ایک سائل کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

عرض: حضور میرے بھتیجا ہوا ہے اس کا کوئی تاریخی نام تجویز فرمادیں۔

ارشاد: تاریخی نام سے کیا فائدہ نام وہ ہوں جن کے احادیث میں فضائل آئے ہیں۔ میرے اور میرے بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے ہیں میں نے سب کا نام محمد رکھا اور بات ہے کہ یہی نام تاریخی بھی ہو جائے حامد رضا خاں کا نام محمد ہے اور ان کی ولادت ۹۲ھ میں ہوئی اور اس نام مبارک کے عدد بھی بانوئے ہیں۔ ایک وقت تاریخی نام میں یہ ہے کہ اسمائے حسنیٰ سے ایک یا دو جن کے اعداد موافق عدد نام قاری ہوں۔ عدد نام دو چند کر کے اگر پڑھے جاتے ہیں تو وہ قاری کو اسم اعظم کا فائدہ دیتے ہیں۔ تاریخی نام سے مقدار بہت زیادہ ہو جائے گی۔ مثلاً اگر کسی کی ولادت اس ۱۳۲۹ھ میں ہوئی تو اس کے مطابق اسمائے حسنیٰ ۲۶۵۸ بار پڑھے جائیں گے اور محمد نام ہوا تو ایک سو چوراسی بار دونوں میں کس قدر فرق ہوا (پھر اس نام اقدس کے فضائل میں یہ چند حدیثیں ذکر فرمائیں)

ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔“

ایک روایت میں ہے: ملائکہ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں جس میں کسی کا نام محمد یا احمد ہے۔ ایک روایت میں ہے: جس مشوروں میں اس نام کا آدمی شریک ہو اس میں برکت رکھی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہارا کیا نقصان ہے کہ تمہارے گھروں میں دو یا تین محمد ہوں۔

نقشہ اسمائے باری تعالیٰ مع اعداد قمری

اللَّهُ	رَحْمَنُ	رَحِيمُ	مَلِكُ	قُدُّوسُ	سَلَامٌ
۶۶	۲۹۸	۲۵۸	۹۰	۱۷۰	۱۳۱
مُؤْمِنٌ	مُهَيِّمٌ	عَزِيزٌ	جَبَّارٌ	مُتَكَبِّرٌ	خَالِقٌ
۱۳۶	۱۴۵	۹۲	۲۰۶	۶۶۲	۷۳۱
بَارِئٌ	مُصَوِّرٌ	عَفَّارٌ	قَهَّارٌ	وَهَّابٌ	رَزَّاقٌ
۲۱۳	۳۳۶	۱۲۸۱	۳۰۶	۱۲	۳۰۸
فَتَّاحٌ	عَلِيمٌ	قَابِضٌ	بَاسِطٌ	رَافِعٌ	خَافِضٌ
۴۸۹	۱۵۰	۹۰۳	۷۲	۳۵۱	۱۲۸۱
مُعِزٌّ	مُذِلٌّ	سَمِيعٌ	بَصِيرٌ	عَدْلٌ	لَطِيفٌ
۱۱۷	۷۷۰	۱۸۰	۳۰۲	۱۰۲	۱۲۹
خَبِيرٌ	رَقِيبٌ	مُجِيبٌ	وَاسِعٌ	حَكَمٌ	وَدُودٌ
۸۱۴	۳۱۲	۵۵	۱۳۷	۶۸	۲۰
عَظِيمٌ	عَفُورٌ	شَكُورٌ	عَلِيٌّ	كَبِيرٌ	خَفِيفٌ
۱۰۲۰	۱۲۸۶	۵۲۶	۱۱۰	۲۳۲	۹۹۸
مُقِيتٌ	حَسِيبٌ	جَلِيلٌ	كَرِيمٌ	مُجِيدٌ	بَاعِثٌ
۵۵۰	۸۰	۷۳	۲۷۰	۵۷	۵۷۳

وَلِيٌّ	مَتِينٌ	وَكِيلٌ	قَوِيٌّ	حَقٌّ	شَهِيدٌ
۴۶	۵۰۰	۶۶	۱۱۶	۱۰۸	۳۱۹
مُتَبِتٌ	مُحْيِيٌّ	مُعِيدٌ	مُبْدِيٌّ	مُحْصِيٌّ	حَمِيدٌ
۴۹۰	۶۸	۱۲۲	۵۶	۱۴۸	۶۲
أَحَدٌ	وَاحِدٌ	مَاجِدٌ	وَاجِدٌ	قَيُّومٌ	حَيٌّ
۱۳	۱۹	۴۸	۱۴	۱۵۶	۱۸
أَوَّلٌ	مُؤَخَّرٌ	مُقَدِّمٌ	مُقْتَدِرٌ	قَادِرٌ	صَمَدٌ
۳۷	۸۴۶	۱۸۴	۷۴۴	۳۰۵	۱۳۴
بَرٌّ	مُتَعَالِيٌّ	وَإِلِيٌّ	بَاطِنٌ	ظَاهِرٌ	آخِرٌ
۲۰۲	۵۵۱	۴۷	۶۲	۱۱۰۶	۸۰۱
مَالِكُ الْمَلِكِ	رَأُوفٌ	عَفُوٌّ	مُنْعِمٌ	مُنْتَقِمٌ	تَوَّابٌ
۲۱۲	۲۸۶	۱۵۶	۲۰۰	۶۳۰	۲۰۹
غَنِيٌّ	جَامِعٌ	مُقْسِطٌ	رَبٌّ	وَالْأَكْرَامِ	ذُو الْجَلَالِ
۱۰۶۰	۱۱۴	۲۰۹	۲۰۲	۲۹۹	۸۰۱
نُورٌ	نَافِعٌ	ضَارٌّ	مَالِعٌ	مُعْطِيٌّ	مُغْنِيٌّ
۲۵۶	۲۰۱	۱۰۰۱	۱۶۱	۱۲۹	۱۱۰۰
صَبُورٌ	رَشِيدٌ	وَارِثٌ	بَاقِيٌّ	بَدِيعٌ	هَادٍ
۲۹۸	۵۱۴	۷۰۷	۱۱۳	۸۶	۲۰

دَائِمٌ	دَلِيلٌ	دَافِعٌ	اَكْبَرٌ	بَصِيرٌ	دَيَّانٌ
۲۵	۷۴	۱۵۵	۲۲۳	۳۰۲	۶۵
سَرِيعٌ	مَنَّانٌ	حَنَّانٌ	خَلِيمٌ	شَافٍ	كَبِيرٌ
۳۲۰	۱۳۱	۱۰۹	۸۸	۳۹۱	۲۳۲
مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ	مَانِعٌ	سَتَّارٌ	حَافِظٌ	سُبُوْحٌ	هُوٌّ
۲۰۱	۱۶۱	۶۶۱	۹۸۹	۷۶	۱۱
حَكِيمٌ	عَادِلٌ	وَافٍ	كَافٍ	مُحْتَسِبٌ	أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
۷۸	۱۰۵	۹۷	۱۱۱	۵۰۱	۲۲۹
قَدِيرٌ	يَسَّ	يَسِينٌ	مُبِينٌ	زَكِيٌّ	ثَابِتٌ
۳۱۴	۷۰	۱۳۰	۱۰۲	۳۷	۹۰۳
قَائِمٌ	تَقِيٌّ	نَقِيٌّ	صِدْقٌ	مُحْمُودٌ	سُبْحَانُ
۱۴۲	۵۱۰	۱۶۰	۱۹۴	۹۸	۱۴۰
خَامِدٌ	سَلَامٌ	سُلْطَانٌ	بُرْهَانٌ	مُخْفِيٌّ	إِلَهٌ
۵۳	۱۳۱		۲۵۸	۸۳۰	۳۶
عَالِمٌ	حَاكِمٌ	مَلِيكٌ	مَالِكٌ	كَبِيرٌ	شَاهِدٌ
۱۳۱	۶۹	۱۰۰	۹۱	۲۳۲	۳۱۰
خَامِدٌ	مُسْتَبِينٌ	مُعِينٌ	مُعِيزٌ	وَحِيدٌ	أَعْلَى
۵۳	۵۲۲	۱۷۰	۱۲۷	۳۰	۱۵۱

ا-ب	ج-د	ه-و-ز	ح-ط	ی-ک	ل-م
۲-۱	۴-۳	۷-۶-۵	۹-۸	۲۰-۱۰	۴۰-۳۰
ن-س-ع	ف-ص-ق	ر-ش	ت-ث	خ-ذ-ض	ظ-ع
۷۰-۶۰-۵۰	۱۰۰-۹۰-۸۰	۳۰۰-۲۰۰	۵۰۰-۴۰۰	۸۰۰-۷۰۰-۶۰۰	۱۰۰۰-۹۰۰

عملیات اسمائے الحسنیٰ

یَا هُوَ اسم ذات باری تعالیٰ ہے۔ صاحب تنویر الاسماء تحریر فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق نے اسم اعظم کہا ہے اور یہ خاص ترین اسم ہے۔ اسمائے باری تعالیٰ سے اور اسمائے حسنیٰ میں سب سے پہلے واقع ہوا ہے اگر کوئی شخص ۲۹ مرتبہ ہو کہے تو آتش دوزخ اس پر حرام ہو جس کا دل آخرت کے انجام سے لرزاں و ترساں ہو۔ ”اللہ ہو“ کا ذکر کرے حشر میں مطمئن ہوگا۔ تنویر الاسماء میں ہے: حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”اگر کوئی شخص روز پنجشنبہ کو روزہ رکھے اور چینی کے پیالے پر لا الہ الا ھو لکھ کر آب باراں یا آب چشمہ سے دھو کر روزہ افطار کرے مرض نسیان ختم ہو جائے جو یاد کرے کبھی نہ بھولے۔ مسحور کو پلائے سحر دفع ہوا اگر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ہر بلا سے محفوظ رہے۔ دشمنوں پر مظفر منصور ہوا چھ بڑے کی نظر میں مقبول القول ہو ہر د عزیز ہو۔ تنویر میں ہے کہ ایک مجلس میں بارہ ہزار مرتبہ یا اللہ یا ھو کہے کہ جن وانس وحوش و طیور و جملہ مخلوقات مسخر و مطیع ہو۔ پرند و چرند و درند انس کرنے لگیں خواص اشیاء و علوم مخفیات منکشف ہوں۔

ا-یا اللہ:

یہ نام اسم ذات ہے اور تمام صفات الہیہ کا جامع ہے۔ تنویر میں ہے اگر کوئی

شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ پڑھے تو مستجاب الدعوات ہو جائے۔ صاحب دلائل تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی بعد ہر نماز سو بار پڑھتا رہے صاحب باطن اور کشف ہو جو کوئی تین ہزار ایک سو پچیس (۳۱۲۵) اسم کو لکھ کر آٹے میں گولی بنا کر دریا میں ڈالے خدا چاہے چالیس روز میں مراد حاصل ہو۔

۲۔ یا رَحْمَنُ:

جو لوگ امور دینی و دنیوی کا ہلی و غفلت کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ انہیں چاہئے کہ بعد ہر نماز سو مرتبہ مداومت کریں۔ تنویر میں ہے کہ اس کے دل کو ظلمت و غفلت وستی سے پاک کرے۔ ۱۲ جو بچے پڑھنے سے بھاگتے ہوں اور دل نہ لگتا ہو ان کو بیچ وقت پانی پر دم کر کے پلائیں۔ صاحب دلائل فرماتے ہیں ۲۹۸ بار بعد نماز فجر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ دل کو روشن فرمائے، مرگی والے کے کان میں ۴۰ مرتبہ ایک سانس میں پڑھ کر دم کرے۔ فوراً ہوش آئے۔ کشف اگر ۴۰ روز دو ہزار پانچ سو مرتبہ با شرائط تلاوت کرے، تمام اسرار مشاہدہ کرے۔

۳۔ یا رَحِيمُ:

امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس اسم کو ۲۵۸ مرتبہ روزانہ تلاوت کرے تو اس کا انجام بخیر ہو۔ مرتے وقت با ایمان جائے، سکرات و قبر و پل صراط کی منزلیں آسان ہوں۔

۴۔ یا مَالِكُ یا مَلِيكُ یا مَلِكُ:

یہ اسم ہم معنی اور ہم صفات ہیں۔ ان تینوں اسماء میں سے جو بھی ۹۱ اسم کے اعداد کے لحاظ سے ۹۰ آپ کے نام کے مطابق ہوں ان کو اسی تعداد یعنی قاعدہ اول کے

مطابق پڑھیں۔ امام علی رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم بہت سریع الاجابت ہیں مگر (ان میں سے کسی) اسم کو آٹھ ہزار ایک سو مرتبہ پڑھ کر دعائے ننگے قبول ہو۔

تنگدستی بیروزگاری کیلئے یا ملک ۹۰ بار یا ملکہ ۱۰۰ بار یا مالک ۹۱ بار روزانہ پڑھے تو خلق سے بے نیاز ہو اور دولت دنیا اس کی جانب رجوع کرے۔ اگر اس اسم کو اسم قدوس سے ملا کر پڑھے یعنی (الملک القدوس ۲۶۰ بار) اگر صاحب ملک یعنی صاحب عزت و اقبال ہو یا کاروبار اور ملازمت یا جس عہدے پر فائز ہو تو مولیٰ تعالیٰ اس کے ملک یعنی نسب کو قائم و دائم رکھے اور عزت و حرمت ملے۔ اگر ۹۰ بار ہی پڑھے تو دل منور ہو۔ (دلائل الخیرات شریف)

۵۔ یا قُدُّوسُ:

اگر اس اسم کو وقت زوال ۷۰ مرتبہ پڑھتا رہے اس کا باطن معصیت سے صاف ہو کر روشن ہو جائے اور جو کوئی اسم سبوح کے ساتھ بعد نماز جمعہ روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں جب دشمن کے خوف سے بھاگنے کے سوا چارہ نہ ہو تو بکثرت پڑھے اس کے اور دشمنوں کے درمیان حصار قائم ہو جائے یا ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے۔

سبوح	قدوس	رب الملئکة	والروح
والروح	رب الملئکة	قدوس	سبوح
قدوس	سبوح	والروح	رب الملئکة
رب الملئکة	والروح	سبوح	قدوس

سُبُوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ اِذَا كُوْنُوْا تَعْدُوْا حُرُوْفٌ كَمَا هِيَ۔

اتنے سو مرتبہ یعنی ۲۲۰۰ مرتبہ روزانہ پڑھے تو کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اور اتنے ہزار مرتبہ یعنی ۲۲ ہزار مرتبہ چالیس یوم با احتیاط ممنوعات شرح پڑھ لے بعدہ ۱۰ بار پڑھتا رہے تو خود کیمیا بن جائے۔

(نقش از منقول تنویر)

۶۔ یا سلام یا سلم:

یہ اسم بغیر الف کے بھی لکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بھی صرف اعداد میں فرق ہے جس کی وجہ سے دو جگہ لکھا گیا ہے۔ اس اسم پاک کا پڑھنے والا افعال رذیلہ اور کردار قبیحہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعد نماز فجر ایک ہزار بار پڑھنے سے علم اور جودت (یعنی ذہن میں تیزی اور قوت حافظہ) زیادہ ہو۔ اس اسم کا ذکر بوجہ علم و سخا مشہور ہو جاتا ہے اور شہر بہ شہر عوام و خواص اس کی مدح و ثنا کرنے لگیں۔

۷۔ یا سلام یا اللہ:

شفائے امراض کیلئے یہ عمل مجرب ہے۔ مرض شدید میں مریض کے سر ہانے بیٹھ کر اس طرح پڑھے کہ تسبیح مریض کے سر سے مس ہوتی رہے جب تسبیح ختم ہو اس تسبیح کو مریض کے تکیہ کے نیچے رکھ دے۔ دوسرے دن وقت مقررہ یا کچھ قبل پھر تسبیح نکال کر اسی طرح پڑھے اور تسبیح سر ہانے رکھ دے۔ اسی طرح تین دن یا تین شب یہ عمل کرے اور تسبیح مریض کے سر ہانے تا شفاء ہی رکھی رہنے دے۔ ان شاء اللہ پہلے دن سے افاقہ ہو اور جلد شفاء حاصل ہو۔

برائے قضائے حاجت:

گوشہ خلوت یا گوشہ مسجد میں نصف شب میں دو رکعت نماز ادا کرے اور

حضور قلب کے ساتھ سلام قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ کھڑے ہو کر پڑھے۔ جو حاجت ہو پوری ہو اور اگر چالیس دن اسی طرح پڑھے تو علم باطن و ظاہر حاصل ہو اور کل مخلوق مسخر ہو۔

۸۔ يَا مُؤْمِنُ:

امام ہشتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ ایک سو چھتیس بار پڑھے تو قلب میں ایمان کی لہریں موجزن ہو جائیں۔ شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایک ہزار ایک سو بتیس (۱۱۳۲) مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی بدگوئی اور امراض خبیثہ سے محفوظ رکھے۔ شیخ عبدالمجید مغربی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جو شہوت نفس اور غضب سے خالی ہو کر خلوت میں باسقلال بہ زبان و قلب ذکر میں مجو ہو کہ نفس کا بھی وجود نہ رہے عمل پڑھے بعد ۴۱ یوم گزرنے کے دیوار پر ایک خاص نور ظاہر ہوگا جس کا اظہار زبان سے ناممکن ہے۔ ذاکر کا قلب انوار معرفت سے منور ہو جائے گا اور ذاکر خود اپنے کو بحر انوار میں جلوہ گردیکھے گا۔ اس کے بعد اس ذاکر میں صفت پیدا ہو جائے گی کہ جو اُسے دیکھ لے با ایمان ہو جائے اور گنہگار تائب ہو جائے گا۔

۹۔ يَا مُهَيِّمُ:

اس اسم مبارک میں ہیبت و عظمت کی بہت بڑی خاصیت ہے اور دشمنوں کے قلب کو مرعوب کرنے اور رعب و وجاہت سے مسخر کرنے کی خاص تاثیر ہے۔ اس اسم کے ذاکر پر سخت دل موم ہو جاتے ہیں۔ کارہائے مشکل آسان ہو جاتے ہیں۔ ناقابل برداشت بوجہ اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے نہ مخلوق کو اس سے برائی پہنچے نہ کوئی اسے یرائی و نقصان پہنچا سکے۔ شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ۴۰ یا ۶۰

روز بوقت صبح بعد غسل (کہ غسل کرتے وقت اور بعد غسل ختم تک کسی سے بات نہ کرے اچھا لباس پہن کر ۸۴۹۶) مرتبہ اس اسم کو پڑھے ایسی تسخیر پیدا ہو کہ خود متحیر ہو جائے۔

۱۰۔ یَا عَزِيزُ يَا مُعِزُّ

یہ دونوں اسماء ہم معنی اور ہم صفات ہیں۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اسم اذکار متوکلین سے ہے۔ اس لئے اس اسم کے ساتھ اور کسی اسم کو نہ ملائے۔ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے پنج گنج قادر میں بعد نماز فجر یا عزیز یا اللہ سو بار تحریر فرمایا ہے جو خاندان قادر یہ کا معمول رہا ہے اور مجربات سے ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ پڑھنے میں اس کے فوائد کبریٰ میں کمی نہ ہوگی بلکہ مثل دوسرے اسماء کے زوداثر و قوی تر ہو جائے گا۔ (اقبال احمد)

اگر اس کے نقش چاندی پر کندہ کرا کے انگشتری میں رکھ کر پہنے دشمن پر غلبہ و تفوق حاصل ہو۔ پیش حکام سلاطین معزز ہو۔ اشرار و خرافات عالم سے مامون رہے۔ اسرار عزت سے آراستہ ہو۔ اگر اسم پاک کو اس طرح پڑھے:

يَا عَزِيزُ عَزِيزِي تَعَزَّرْتُ بِعِزَّتِكَ يَا مُعِزُّ نَمَازِ فَجْرِ كِي سُنَّتِ اَوْ فَرَضِ كِي
درمیان ۲۱۱ بار پڑھیں تو عوام و خواص حکام و رعایا بلکہ ہر شے مسخر ہو اور اپنے گرد ہجوم دیکھے مگر شرط یہ ہے کہ ہر مومن کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئے۔

۱۱۔ یَا جَبَّارُ يَا قَهَّارُ

یہ دونوں اسم جلالی اور مقہوری اعداد کیلئے بہت زوداثر ہیں۔ ان کے عالمین کو چاہئے کہ اگر کسی کے اسم اعظم میں یہ اسماء یا ان میں سے ایک آئے تو وہ بادشاہ و حاکم یا

ان کے مثل رعب و ہیبت، عزت و عظمت پائے مگر کسی اور طریقے پر دشمنوں کیلئے پڑھے تو یہ خیال رکھے کہ دشمن مومنین میں سے ہوں تو ذلیل و خوار اور ان کی ہلاکی کی نیت سے ہرگز نہ پڑھے بلکہ اس لئے کہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ باقی مرضی مولیٰ پر چھوڑ دیں کیونکہ کسی مومن کو ذلیل و خوار برباد یا ہلاک کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ اس کا ظلم برداشت سے بالاتر ہو اپنا مقصد تو اسی سے حاصل کرے کہ دشمن کی دشمنی کا اثر نہ ہو۔
وباللہ التوفیق

شیخ بونی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اسم کی دعوت ۴۰ روز کی ہے۔ دس ہزار مرتبہ روزانہ پابندی شرائط خلوت میں پڑھے۔ نفس میں پاکیزگی طبیعت میں انکساری اور نیک نیتی ہو۔ مقاصد میں کامیابی اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو۔ عظیم القدر اور جلیل المرتبت گردانا جائے۔

شیخ ابوالعباس احمد فرماتے ہیں کہ مریدوں اور اہل ریاضت کیلئے مناسب ہے کہ نفس مغلوب اور شہوت سے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسم یا جبار یا اللہ بچ گنج قادر یہ میں بعد نماز عصر ۱۰۰ بار تحریر فرمایا ہے۔

۱۲۔ یا خَالِقُ یا بَارِئُ یا مُصَوِّرُ:

امام علی رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص دستکاری یا کارنازک اور مشق کتاب یا صاحب قلم ہو (یعنی لکھنے کا کام زیادہ کرتا ہو اور اس میں کسی وجہ سے خلل پڑتا ہو وہ ان اسماء کی تلاوت کرے، سب تکالیف دور ہو کر سہولت حاصل ہو یا سلاطین (احکام بالا) سے تعلقات ہوں اور کوئی درمیان میں فساد پیدا کرتا ہو یعنی کوئی ان تعلقات میں مغل نہ ہو یا حکام کو برگشتہ کر دینا ہو یا اندیشہ ہو تو اسم خالق کی تلاوت کی برکت سے تمام درمیانی

نقصانات دور ہوں اور جملہ حالات بہتر ہو جائیں۔

شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص اولاد فرزند سے محروم ہو یا تنگی رزق کا شکار ہو تو وہ ان اسماء کا ورد کرے کامیاب ہو۔ جو کوئی اسم خالق کا ورد کرے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے اور وہ اس کیلئے قیامت تک عبادت میں مشغول رہے اور پڑھنے والے کا چہرہ نورانی کر دے اور جو کوئی ہفتہ میں سو بار اسم یا باری پڑھے حق تعالیٰ اسے قبر میں نہ چھوڑے بلکہ ریاض قدس میں لے اور بے اولاد ہوسات دن روزہ رکھے اور نزدیک افطار ۲۱ بار یا مصور پڑھے اور پانی پر دم کر کے بیوی کو پلا دے فرزند نیک پیدا ہو۔

۱۳۔ یا کَبِیْرُ یا اَكْبَرُ یا مُتَكَبِّرُ

امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر مباشرت سے پہلے اس اسم کو دو مرتبہ پڑھ لے تو پروردگار فرزند صالح عطا فرمائے۔ شیخ عبدالجید مغربی نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر صالحین اور عابدین کے اذکار سے ہے۔ اس اسم کے ذکر میں شائستگی اور امور میں باقاعدگی پیدا ہو جاتی ہے اور عوام خواص میں عزت و حرمت پیدا ہوتی ہے اور ہر سرکش ذلیل و سرنگوں ہو جاتا ہے۔ ۶۳۶ مرتبہ یا متکبر بعد نماز صبح تلاوت کرنی چاہئے۔ اگر کوئی شخص دو سو بیس مرتبہ روزانہ اس اسم یا کبیر کو پڑھے بزرگی حاصل ہو۔ شیخ ابوالعباس ابن علی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: اسم یا کبیر کا ذکر اذکار جلیلہ سے ہے اور جو خواص اسم متکبر کے ہیں وہی اسم مبارک کے ہیں۔ ان اسماء کے ذکر سے ہر سرکش اور بادشاہ مطیع ہو جاتا ہے۔

۱۴۔ یا غَفُوْرُ یا غَفَّارُ یا عَفُوْ

امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پر روزی تنگ ہو یا پریشانی

دامن گیر ہو یا کوئی مصیبت پیش آئے یا اولاد کی تمنا ہو زیادتی مال و متاع چاہتا ہو۔ اس کو چاہئے کہ خلوص دل سے پروردگار عالم کی درگاہ میں توبہ کرے۔ اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ ان خطاؤں کا مرتکب نہ ہوگا تو وہ جس شے کو طلب کرے گا، حاصل ہوگی اور ہر شدت و سختی دور ہوگا ظالم و موزی کی ایذا اور ظلم سے محفوظ رہے۔ ان امور میں یہ تین اسماء سریع تاثیر ہیں۔

پنج گنج قادر یہ میں یا غفار یا اللہ کا عمل بھی مرقوم ہے۔ سو بار بعد نماز عشاء پڑھے۔ یہ سب فوائد حاصل ہوں۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

۱۵۔ یا وَهَّابُ:

جو کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو اس اسم کو پڑھے اور لکھ کر پاس رکھے۔ حق تعالیٰ اس کو اتنا دیتا ہے کہ حیران رہ جائے اور نماز چاشت کے بعد بھی سجدے میں سات بار کہے۔ اللہ تعالیٰ خلقت سے بے پرواہ کر دیتا ہے اگر کوئی حاجت اہم ہو تو نصف شب کو وضو کرے اور تین بار سجدہ کرے اور ہر سجدہ میں سو بار یا وہاب کا ورد کرے۔ اس طرح کہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر کور ہیں۔ مثل دعاء کے ان شاء اللہ تعالیٰ پہلی شب میں ہی حاجت پوری ہو ورنہ تین شب کرے کامیاب ہو۔

اور شیخ مغربی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہم پیش آئے یا کسی چیز کا طالب ہو یا کوئی مراد حاصل کرنا ہو یا کسی دوسرے کے ہاتھ میں قید ہو یعنی مقروض ہو یا محنت سخت برداشت کرنی پڑتی ہو یا رزق میں تنگی ہو یا طالب راہ حقیقت ہو یا دنیا کا مال حاصل کرنا مقصود ہو یا اعلیٰ درجہ کی حکومت (یا ملازمت) حاصل کرنا ہو یا دشمن کو دفع کرنا ہو یا دوست سے ملاقات کی تمنا ہو یا اس کے علاوہ کوئی سی بھی مراد رکھتا ہو تو بوقت نیم شب وضوئے کامل کر کے دو رکعت نماز بجالائے۔ شب جمعہ ہو تو بہتر ہے اور مسجد میں یا خانہ خلوت

میں اس عمل کو کرنا چاہئے۔ بعد نماز سر کو برہنہ کر کے دست بدعا ہو کر سو مرتبہ یا وہاب کہے۔ بعدہ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے۔ اس عمل کو متواتر تین شب کرے۔ ان شاء اللہ الوہاب مقصد پورا ہو۔

۱۶۔ یَا رِزَّاقُ:

رزق ضروریات زندگی کا نام ہے اور اسم یارزاق کے پڑھنے والے کو خزانہ غیب سے روزی ملتی ہے جو کوئی طلوع صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر دس دس بار اسم یارزاق تلاوت کرے، کبھی اس کے گھر میں ضعف اور مفلسی نہ ہو۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ گھر میں قبلہ رخ کھڑا ہو اور اپنے ہاتھ کے گوشے سے شروع کرے اور اس کونے سے دوسرے کونے تک اس طرح جائے کہ قبلہ سے رخ نہ پھیرے اور ہر گوشہ میں قبلہ رخ ہی کھڑے ہو کر یہ اسم پڑھے بہت مجرب ہے۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص روزانہ تین سو آٹھ مرتبہ بعد نماز فجر پڑھ لیا کرے تو رزق کشادہ ہو۔

۷۸۶

ان اللہ	حوالرزاق	ذوالقوة	التین
۵۵۲	۵۶۶	۵۶۳	۵۶۰
التین	ذوالقوة	حوالرزاق	ان اللہ
۵۶۳	۵۵۹	۵۵۳	۵۶۵
حوالرزق	ان اللہ	التین	ذوالقوة
۵۵۸	۵۶۱	۵۶۸	۵۵۳

هو الرزق	ان اللہ	المتین	ذوالقوة
۵۶۳	۵۵۷	۵۵۵	۵۶۷

۱۷۔ يَا فَتَّاحُ:

یہ اسم مبارک ہر کارِ مشککہ جس کا حل دشوار ہو اس اسم پاک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ظفرِ جلیل میں ہے جو بعد فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ستر بار یا فتاح کا ورد کرے اس کے آئینہ دل سے زنگ میل دور ہو اور نور و صفائی کی ارزانی ہو۔ ۱۲۔ یہ اسم پاک امتحان دینے والوں اور وکیلوں، مناظروں، نئی نئی ایجاد کرنے والوں، مفکروں، مبلغوں، مقررین کیلئے شمعِ شبستان کا کام دیتا ہے۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ اسم سالکوں کے لئے مناسب ہے جو کثرت سے اس کا ورد کرے تو پروردگار ابوابِ فتح و نصرت کشادہ فرمادے اور جو شخص دو رکعت نماز ادا کرے رکعت اول میں بعد سورۃ فاتحہ یسین شریف اور دوسری میں بعد سورۃ فاتحہ سورۃ تبارک الذی پڑھے بعد نماز ۲۸۹ مرتبہ یا فتاح پڑھے۔ تمام مشکلات آسان ہوں، ہر حاجت برآوے، غیبی امداد شامل ہو۔ اس اسم کا پڑھنے والا تسخیر اور مقدمات میں کامیابی کیلئے نقشِ محیط الاسرار شریف سامنے رکھے اور نگاہ اس پر رہے، آنکھ میں تسخیر پیدا ہو۔

۱۸۔ يَا عَالِمُ يَا عَلِيمُ:

امام ہمام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر کوئی اپنے دل میں اس اسم کی کثرت کرے تو پروردگار اپنے خزانہ علم سے سرفراز فرمائے۔ یہ اسم پاک استخارے اور اسرارِ مخفی کے اظہار کیلئے مخصوص ہے۔ اگر یہ جاننا چاہے کہ اس مقدمہ کا انجام کیا ہوگا۔ لڑائی میں کس کی فتح ہوگی، تجارت میں نفع ہوگا یا نقصان، شرکت مفید ہوگی، سفر اچھا ہوگا۔ اسی قسم

کے دیگر امور مخفی جو قبل از وقت معلوم کرنا چاہتے ہوں تو تین شب جمعہ بعد نصف شب با وضوئے تازہ دو رکعت نماز ادا کرے اور بعد نماز ایک سو پچاس مرتبہ اس اسم کو پڑھے۔ اس کے بعد بستر خواب پر جائے اور درود میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ سو جائے۔ بس ان شاء اللہ خواب میں بتا دیا جائے گا اور جو کچھ معلوم ہوگا اس میں بغیر کسی ولی کامل کی دعا کے رد و بدل نہ ہوگا۔ یعنی جو معلوم ہوگا ویسا ہی ظہور میں آئے گا۔

۱۹۔ یَا قَابِضُ :

اگر دشمن قوی ہو یا جان و مال کا خطرہ ہو اس اسم کو تین شب متواتر بہ نیت آوارگی دشمن پڑھے، دشمن مقہور ہو اور مقصد حاصل ہو۔ یہ وہ اسم ہے کہ اس کی قوت سے فرشتہ موت قبض روح کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا ورد کرے تو اس کی مشکلیں آسان ہوں اور قوت و ہیبت زیادہ ہو۔ اس اسم کا نقش خون حیض اور بوا سیر کے روکنے کیلئے اکسیر ہے۔ جو شخص پیسے کے لین دین کے وقت یہ اسم پڑھے، کبھی نقصان نہ ہو۔

۲۰۔ یَا بَاسِطُ :

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر بوقت صبح دس مرتبہ ہاتھ پھیلا کر یا باسط کہے اور ہاتھ چہرے پر مل لے تو حق تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے رزق کشادہ ہو۔ غم و الم دور ہوں۔ تنگدست اور مبتلائے قحط نہ ہو۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر طالب صادق اس اسم کو اس طرح پڑھے کہ اپنے نفس کو شہوت سے جسم کو حرام سے زبان کو کلام بد سے نظر کو محرمات سے کان کو غیبت سے ہاتھ کو ممنوعات سے دل کو معاصی سے عقل کو خواہش سے روح کو کرامت کی طرف التفات کرنے سے اور سر کو غیر کی جانب خمیدہ ہونے سے روکے تو کامل ہو جائے۔ تسخیر کیلئے اسم یا باسط یا وود کا ورد کرے۔

عالمین فرماتے ہیں کہ اسم یا وَدُودُ یا بَابِطُ کے اعداد میں اپنے نام کے اعداد شامل کر کے اس طرح نقش بنائے کہ اللّٰهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ عَاكِرِمْ حِصَارِ كَيْفَ هُوَ تُوَ اس کے پہنے یا گلہ یا غلہ میں رکھنے اور دُكَالِیُّ پر لگانے سے ایسی برکت ہو کہ حیران رہ جائے۔ (مگر اللہ کے نام پر یومیہ آمدنی سے نکالنا ضروری ہے)

۲۱۔ یَا خَافِضُ:

یہ اسم پاک دشمنوں کی شقاوت و عداوت سے محفوظ و مامون رہنے کیلئے خاص ہے۔ شیخ بزرگ فرماتے ہیں جو شخص حیوانی فضائل سے اپنے نفس کو پاک کر کے اس اسم کو پڑھے اس پر اس کے اسرار منکشف ہو جائیں اور اس اسم کا عامل جس حاکم و ظالم کے سامنے جائے حاکم اس اسم کی ہیبت سے ذلیل و ضعیف ہو۔

۲۲۔ یَا رَافِعُ:

جو شخص تین روز بے رکھے اور چوتھے روز اگر چودھویں شب ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ستر ہزار مرتبہ پڑھے۔ دشمن پر فتح ہو اور مخلوق میں برگزیدہ اور مالدار ہو۔ اگر اسم یا خَافِضُ یا رَافِعُ کے اعداد میں شامل کر کے نقش ریشمی کپڑے یا چاندی پر کندہ کر کے اپنی ٹوپی کے اندر سی لے تو ضعف و غم دور ہو۔ تحصیل علم میں آسانی ہو۔ امتحان میں امتیازی نمبر حاصل کرے۔

۲۳۔ یَا مُدِلُّ:

شیخ جلال الدین محمود تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر دشمن قوی ہو جاہر و ظالم ہو جس سے خوف جاں لاحق ہو تو وضوئے کامل کر کے دو رکعت نماز ادا کرے۔ بعد نماز سجدے میں ۷۷ مرتبہ یہ اسم تہضرع و زاری پڑھے۔ حق تعالیٰ امان میں رکھے۔ دشمن

ذلیل ہوں۔ یہ علم تسخیر عطار دیکھنے ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تسخیر عطار کی تمنا ہے تو ساٹھ روز کی خلوت اختیار کرے اور دس ہزار مرتبہ روزانہ **يَا مُدِلُّ** کی تلاوت کرے اور ان ایام میں دوسرا کوئی وظیفہ یا عمل ہرگز نہ پڑھے۔ بیدانجیر سے چوکی سے پایہ تیار کر کے اور ہر پایہ پر اسم مذکور تحریر کرے اور بالائے چوکی اسم **يَا اللہ** تحریر کرے۔ اور زیرین چوکی بخور روشن کرے سو ضروریات ضروریہ کے خلوت سے نہ آئے نہ کسی کو اندر آنے دے۔ آخر دعوت ملک عطار و بصورت مرد پیر حاضر ہوگا اور مژد مبارک کے ساتھ اطاعت و تسخیر قبول کرے گا۔ اس کے بعد عامل کو اختیار ہے کہ جس وقت چاہے ملک عطار کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق اس سے ملاقات کرے۔ اس کے عامل میں بہت سی خوبیاں پیدا ہوں گی۔ زبان سے علم و ہنر کی باتیں ادا ہوں جن کو سن کر عقلائے زمانہ تعجب کریں۔ حق سبحانہ تعالیٰ عزیز و محترم گردانے، ذلت و خواری دور ہو اور عامل کے اکہ اشارے پر ذلیل عزیز اور عزیز ذلیل ہو۔ گدا مند پادشاہی کرے اور بادشاہ گدا ہو جائے۔

۲۴۔ **يَا سَمِيعُ**:

امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم کا پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اہل تحقیق لکھتے ہیں کہ اس کے عامل کو چاہئے کہ نقش غیبت سے اپنی زبان و کان کو بچائے۔ محمد احمد تسمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اگر روزانہ بعد نماز فجر سات مرتبہ **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ** پڑھے۔ تمام دن مہمات سے کفایت فرمائے اور مشکلات سے محفوظ اگر اس کا نقش لکھ کر اپنی ٹوپی میں رکھے مراتب بلند ہوں عزیز خلاق ہو۔

۲۵۔ یا بصیر:

اہل تحقیق فرماتے ہیں۔ اس اسم کا ورد کرے اور اپنی چشم کو عیوب خلق اور امر کے خلاف شروع سے روکے تو اللہ تعالیٰ اسے بینائی ظاہر و باطن عنایت فرمائے۔ اس اسم مبارک کی برکت سے انبیاء علیہم السلام کو معراج حاصل ہوئی اور اولیاء مقرب بارگاہ الہی ہوئے۔ اگر روز جمعہ نماز سنت اور فرض کے درمیان ایک سو مرتبہ اس اسم کی تلاوت کرے تو عنایات و مکاشفات اور اسرار اسمائے الہی سے مشرف ہو۔ ظفر جلیل میں روز پنجشنبہ لکھا ہے۔ بہتر ہے کہ روز پنجشنبہ اور جمعہ دونوں دن نماز فجر کی سنت و فجر کے درمیان پڑھے یا عصر کی سنتیں پڑھ کر اس اسم کی تلاوت کرے پھر فرض باجماعت ادا کرے۔ (اقبال احمد)

۲۶۔ یا حاکم یا حکم یا حکیم۔

اس اسم میں صفات ہائے عجیب و غریب ہیں۔ کوئی مہم پیش آئے قید و مجبوری، قرض و غربت، تنگی معیشت و درویشی یا مثل اس کے تو اس اسم کا ورد کرے۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اس کی مداومت کرتا ہے اس پر امور حقیقیہ اور مواہب الہیہ کھول دیئے جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس اسم کے اعداد کے موافق روزانہ بعد ہر نماز کے تلاوت کرے تو پروردگار عالم فہم و حکمت عطا فرمائے اور اس مشکل کو سلجھانے میں دشواری نہ ہو۔ اس اسم کا حامل جس مشورے میں شریک ہو بہتر اور مفید رائے دے اور اس کی رائے علم و حکمت، فہم و دانش پر مبنی ہو جس مشکل کا حل بڑے بڑے مفکر اور اہل دانش نہ نکال سکے ہوں۔ اس کا حل اس کا حامل تلاش کر لے گا۔ اس لئے حکیم و ڈاکٹر اور وکیلوں کیلئے اس اسم اعظم کی تلاوت مفید ہے۔

۲۷۔ یَا عَادِلُ یَا عَدْلُ:

جو مرد مومن قبر و حشر کی ہولناکیوں سے ڈرتا ہو اور یہ خوف ہو کہ میرے ماتحت اور محکوم افراد کو میری ذات سے کوئی اذیت یا دکھ پہنچ گیا تو قبر و قناعت میں اس کی سزا کیا ہوگی کیونکہ ارشاد باری ہے کہ میں اپنے رحم و کرم سے اپنے قصور تو معاف فرما دوں گا مگر میرے کسی بندے کے حقوق کسی پر ہوں تو وہ معاف نہ کروں گا۔ وہ بندہ خود معاف کرنے تو اسے اختیار ہے۔ لہذا آخرت کی باز پرس سے ڈرنے والے افسران، مجسٹریٹ، جج اور کارخانوں کے منیجر و مالکان وغیرہ کو اس اسم کا ورد کرنا چاہئے یا عادل کے عدد ۱۰۵ ان اعداد کو ۴ سے اور یا عدل کے ۱۰۴ اعداد کو ۳ سے ضرب دے کر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت عدل کا پرتو اس پر ڈال دے۔ اگر ہر شب جمعہ کو ۲۱ روٹی کے ٹکڑوں پر تحریر کر کے کھائے تو نور ایمان زیادہ ہو۔ خامیاں اور برائیاں دور ہوں اگر بعد نماز صبح بغیر کسی سے بات کئے پانچ ہزار تین سو سولہ مرتبہ پڑھے تو پروردگار عالم جمیع ظالمات دفع فرمائے اور امن و سکون حاصل اور نماز سے پہلے چار مرتبہ العدل کہے تو دعا مستجاب ہو جو شخص بروز جمعہ روٹی کے ۲۰ ٹکڑوں پر لکھ کر کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے خلق کو مسخر کر دے۔

۲۸۔ یَا لَطِيفُ:

اس اسم کی برکت سے حق تعالیٰ طالبان کو علم عنایت فرماتا ہے اور عابدین و مومنین کے اعمال کو اس کے صدقہ میں ملائکہ آسمان پر لے جاتے ہیں جو شخص اس اسم کی مداومت کرے اس کو چاہئے کہ خلق خدا سے بہ لطف و شفقت پیش آئے تاکہ حق تعالیٰ ڈاکر کو مظہر لطف بنا دے جو ملازمت یا روزگار سے محروم یا فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا کم آمدنی کی وجہ سے پریشان ہو یا بوجہ غربت کوئی مونس نہیں یا بیمار ہے اور کوئی غمخوار نہیں یا لڑکیاں

ہیں اور شادی نہیں ہوتی یا کثیر العیال ہے تو وہ وضو کامل کرے اور دو رکعت نماز ادا کرے اور اس اسم کو حصول مقصد کیلئے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام کو سرانجام فرمائے۔

۲۹۔ یا خَبِيرُ:

اس اسم کا عالم خواب و بیداری میں پوشیدہ حالت سے باخبر ہو جاتا ہے۔

یا عَلِيْمٌ عَلَّمَنِي يَا رَشِيْدُ ارْشِدْنِي يَا خَبِيْرُ اَخْبِرْنِي یعنی دو رکعت نماز ادا کرے اور ثواب سیدنا غوث اعظم h کی روح پاک کو بخشے اور بعد نماز ۱۲۱ بار یہ عزیمت پڑھے جو معلوم کرنا ہو عالم خواب یا نیم خواب بیداری یا عالم بیداری میں دیکھ لے۔ (مجموعہ اعمال) جو کوئی اپنے نفس کے تابع ہو چکا ہو اور احکام الہی سے غافل ہو اس اسم کو کثرت سے پڑھے نیکو کار ہو جائے۔

۳۰۔ یا حَلِيْمٌ:

اہل تحقیق نے فرمایا ہے کہ اس اسم کی برکت سے مخلوق کا آب و طعام مرتب کیا گیا ہے اور اسی کی برکت سے عالم قائم ہے اگر کوئی شخص ۸۸۳ بار روزانہ تلاوت کرے تو خلقت مہربان ہو۔ اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر وقت آب پاشی کھیت میں چھڑ کے زراعت میں برکت ہو اور کھیتی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گی۔

شیخ حاجی ناصر الدین اور شیخ عبدالجید مغربی رحمۃ اللہ علیہ متفق ہیں کہ اگر بیمار کے سر ہانے ایک بار سورہ فاتحہ اور دس بار یا حلیم پڑھے تو مرض کے ہیجان اور شدت میں فوراً تخفیف ہو اور مریض شفا یاب ہو۔

۳۱۔ یا عَظِيْمٌ:

شیخ مغرب علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں: اس اسم کا ذکر جس کی جانب نگاہ

اٹھادے وہ بے ساختہ تعظیم کے واسطے کھڑا ہو جائے جس شخص کو لوگ بہ نظر حقارت دیکھتے ہیں بوجہ غربت و افلاس، تنگی رزق و بے روزگاری یا جو شخص اپنے علم اور خاندانی افتخار کے مطابق عہدہ یا ملازمت حاصل کرنے میں ناکام رہے وہ شرف آفتاب نقش مربع چاندی پر کندہ کرا کے انگشتی میں رکھے اور اسم کا ورد کرے، معظم و مکرم ہو۔

۳۲۔ یا شکور:

اہل حقیقت فرماتے ہیں اس اسم کا ذکر مستجاب الدعوات ہو جائے اور پروردگار عالم اپنے انعامات کیلئے مخصوص فرمائے اور مقام کشف حاصل ہو۔ دنیا و آخرت کی نیکیاں اور بھلائیاں حاصل ہوں۔ اگر آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے یا بصارت ختم ہو جائے اس اسم کو ۴۱ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کر لے اور منہ پر ڈالے اور آنکھوں پر ملے۔ مولیٰ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی واپس فرمادے۔

۳۳۔ یا علی:

جو شخص اس اسم کی تلاوت کرے اگر ذلیل ہو تو عزیز اور ادنیٰ ہو تو اعلیٰ مرتبے پر پہنچے۔ فقیر ہو تو مالدار ہو جائے۔ غریب الوطن ہو تو وطن کی واپسی کا سامان مہیا ہو جائے۔ دشمن پر تسلط ہو ملوک و سلاطین میں تقرب حاصل ہو۔ اگر اس اسم کا نقش انگشتی میں پہنے اور اس کا ورد کرے تو ایسے عجیب و غریب اثرات ملاحظہ فرمائے کہ خود حیران رہ جائے۔ اگر حاکم یا بادشاہ ہے تو لشکر و رعایا اطاعت میں سر تسلیم خم کر دے اور اگر وہ انگشتی لڑکی کو پہنائی جائے جس کی شادی نہ ہوتی ہو تو یہ برکت اسم معظم پیغام آنا شروع ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ علی العظیم کو ملا کر پڑھے۔ یا اسم علی اور عظیم کے پڑھنے کے بعد آیت الکرسی شریف کو تین بار پڑھے۔

۳۴۔ یا حَافِظُ یا حَفِیْظُ:

اس اسم کا عامل خوفِ حاکم، ظلمِ ظالمین، شرِ شیاطین سے محفوظ رہتا ہے۔ چرند و پرند، درند و حشرات الارض سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ جنگلات کا کام کرنے والوں، فوجی جہاز رانوں کو اس کا ورد ضرور کرنا چاہئے۔ ساتھ ہی بچوں کو خلل و آسیب و بیماری سے محفوظ کیلئے اس کا نقش دینا چاہئے۔ امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعدادِ اسم کے مطابق کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھے تو وسوسہ شیطانی و خیالاتِ فاسدہ خوفِ سلاطین، سانپ بچھو کے گزند سے محفوظ رہے۔ لاعلاج مریض کے باندھے شفا یاب ہو۔

۳۵۔ یا مُقِیْتُ:

یہ اسم نفس کو مطہج اور روح کو مسخر کرنے میں یکتا ہے۔ یعنی جو شخص نفس کو تابع کر لیتا ہے وہ پانی پر مثل زمین چلتا ہے اور قضائے بسیط میں پرواز کرتا ہے اور روح مسخر ہو جاتی ہے تو جسم روح کی مانند لطیف ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے قرب و بعد سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ روح کی طرح جسم آسمانوں کی سیر کرتا ہے اور یہ اسم بے سہاروں کا سہارا ہے۔ اہل تحقیق نے فرمایا ہے کہ اس اسم کو دریائے معرفت میں غرق ہو کر پڑھے اور اپنا زیادہ وقت خدمتِ خلق میں صرف کرے اور ہر دوست و دشمن پر شفقت و جود سنا کرنے میں دریغ نہ کرے تاکہ حق تعالیٰ نفس کو مطہج اور روح کو مسخر کر دے۔

۳۶۔ یا حَسِیْبُ:

اس اسم کی برکت سے کرانا کاتبین اور ملائکہ مقربین بندوں کے اعمال پر مطلع ہوتے ہیں۔ شر و خوف و شمنان اور بد مزاج بدکار عورت اسی طرح بیوی اپنے بدکار عیاش مرد کیلئے ملازم اپنے جابر و ظالم حاکم جس سے ہر وقت عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو چار شنبہ یا

پنجشنبہ کو روزہ رکھے اور بعد نماز کے مرتبہ کہے: جسی اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ چند ہی بار عمل کرنے سے عادات بد افعال قبیحہ سے نجات حاصل ہو۔ اگر اعداد اسم کے مطابق بغیر صوم و رو کرے تو اس کی برکت سے حاجات برآویں مال و اہل فرزند آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہیں۔ شریر کند ذہن کام اور پڑھنے سے بھاگنے خوف و ڈر سے رونے یا نظر سے بیمار ہونے والے بچوں کو مٹی کے پیالے یا آنجورے پر یا حسیب و یا مقیت سات بار پڑھ کر دم کرے بعد پانی اس میں سے خود پئے اور بچا ہو پانی بچے کو پلائے۔

۳۷۔ یا جلیل یا ذوالجلال والاکرام:

یہ دونوں اسم خواص میں یکتا ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں (ان میں سے کوئی) اسم اگر سات روز تک روٹی کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر کھائے باقی روٹی صدقہ کر دے تو تمام مخلوق مسخر ہو اور باکرام پیش آئے۔

اس اسم کا پڑھنے والا خدا اور بندگان خدا کے سامنے معزز و مکرم ہو اور جمع مقاصد و مراعات حاصل ہو۔ اگر کاغذ سفید پر لکھ کر مکان میں رکھے برکت ہو۔ لوگ اس کی جانب رجوع کریں۔ حاملہ عورت باندھے تو حمل اسقاط سے محفوظ رہے اور بچہ جن آسیب ام صبیان کے خلل سے محفوظ رہے۔ اگر کھانے یا پانی پر دم کر کے طرفین کو کھلائیں یا پلائیں تو صلح ہو۔ سینہ کی سختی پر لکھ کر مطلوب کی صورت بنا کر اس کے مکان میں رکھ دیں۔ نکسیر جاری ہو اور مٹی کا پتلا بنا کر لکھ کر سکھا کر برادہ بنا کے ظالم کے گھر میں ڈالے برباد ہو۔ (تنویر)

۳۸۔ یا مقسط:

یہ اسم قوی بیت ہے۔ اس کے پڑھنے والے سے لوگ خوفزدہ رہتے ہیں۔

بڑے سے بڑا جابر و مفسد اس سے آنکھ ملانے سے گریز کرتا ہے۔ اس کے عامل میں یہ صفت اسی وقت تک باقی رہتی ہے کہ جب تک وہ کسی سے غیر منصفانہ سلوک نہ کرے۔ اگر کسی کا حق کسی نے داب رکھا ہے۔ اگر شوہر بے انصافی سے عورت کا حق غصب کرتا ہے تو اس اسم کے اعداد کے مطابق پڑھے۔ اگر چالیس روز میں اس کا اثر شوہر کے فعل سے ظاہر نہ ہو یعنی شوہر اس کا حق محبت حق زوجیت ادا نہیں کرتا تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا اثر نہیں ہوا بلکہ اپنی خامی تصور کرے کہ مجھ پر بھی شوہر کا حق باقی ہے اور میں اس کو ادا نہیں کرتی۔ یہ خیال کر کے ہر تکلیف برداشت کرتے ہوئے شوہر کی خدمت کرے اور اس اسم کا ایک چلہ اور کرے۔ اس نیت سے کہ اگر مجھ میں خامی ہے تو میری اور میرے شوہر کی اصلاح فرمادے اپنے عدل سے۔ (اقبال احمد)

اہل تحقیق نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس اسم کا ورد کرے یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔

۳۹۔ یا جامع

اس اسم کی برکت سے جمیع مخلوقات جناب سلیمان علیہ السلام کی مسخر تھیں۔ اگر کوئی شخص پریشان حال ہو، اعزہ و احباب سے دور ہو۔ محبوب کی جدائی میں بے قرار ہو تو بروز یکشنبہ بوقت چاشت غسل کرے اور دو رکعات نماز ادا کر کے منہ آسمان کی طرف کرے۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر دس مرتبہ یا جامع کہے۔ اس طرح کہ جب پہلی بار جامع پڑھے داسنے ہاتھ کی ایک انگلی بند کرے۔ دوسری پر دوسری اس طرح دس بار میں دسوں انگلیاں بند کر لے پھر بے شمار اس اسم کا ورد کرے۔ بعدہ ہاتھ کھول کر منہ پر پھیر لے۔ محبوب حاضر ہو۔ یہ عمل ہرگز ہرگز غیر عورت یا غیر مرد کیلئے تو کیا اس کیلئے بھی نہ کرے جس سے منگنی ہو چکی ہو نکاح نہ ہوا۔ وہ صرف فرار شدہ یا سبکے بیٹھ جانے والی کیلئے

کرے۔ اسی طرح وہ عورت اپنے شوہر کیلئے کرے جس کا شوہر غائب ہو یا لڑکا چلا گیا ہو
۴۰۔ یا کریم:

شیخ ابولعباس احمد بن علی یونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس اسم کی مداومت
کرے تو مدت حیات معزز و مکرم رہے اور مستجاب الدعوات ہو جائے۔ تنگدستی و مفلسی
دور ہو دولت اور وسعت رزق حاصل ہو۔ اس اسم کی برکت سے علم و دولت عزت و
شہرت جو بھی نعمت حاصل ہو وہ کریم و سخی دے کر واپس نہ لے۔ اس یقین کے ساتھ عمل
کرے اگر سوتے وقت بستر پر لیٹنے کے بعد پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سو جائے تو شب بھر
قرشتے اس کیلئے دعا کریں۔ بیخ گنج قادر یہ میں یا کریم یا اللہ بعد نماز ظہر سو بار مرقوم
ہے۔ (ابوظیفۃ الکریمہ)

۴۱۔ یا رقیب:

یہ اسم پاک محافظت حسن و جمال اولاد زرو مال کاروبار کھیتی ملازمت وغیرہ
کیلئے ہے۔ یہ اسم معانی و اوصاف ہیں بہت وسیع ہے۔ اگر کسی کے حسن و جمال اولاد
اموال عزت و مال کے حاسد و رقیب زیادہ ہوں یا کسی کی منگنی ہو چکی ہو اور حاسدین
درمیان میں حائل ہو جائیں اور کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کریں یا کشیدگی پیدا کر دی گئی
ہو تو اس اسم کا ورد کرنا چاہئے۔ جو مال و ملکیت بوجہ دشمنی و حسد چھین لی گئی ہو اس کے
حصول کیلئے بھی اس کا عمل بہتر ہے۔

حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دشمن کے مقابلہ کی طاقت
نہ ہو اس کیلئے سات بار ہر نماز سے پہلے پڑھ لیا کرے۔ گھر بار کھیتی وغیرہ کو تنہا چھوڑتے
وقت دشمن کے نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو تو اس اسم کو سات بار پڑھ کر جس کی حفاظت

مقصود ہو اس کے گرد دم کر دے واپسی تک کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔

۲۲۔ یا مُجِيبُ:

اس اسم کی برکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کند ہو گئی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس اسم کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر جو دعانا لگی جائے قبول ہو۔ اگر کسی دُعا و عمل کے آخر میں ۲۶ مرتبہ یا سَرِيعُ یا مُجِيبُ پڑھے تو فوراً ظہور ہو۔

شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس اسم کے نقش کو اپنے پاس رکھے تو ہر بلا سے محفوظ رہے۔ اگر کوئی سخت مہم درپیش ہو یا کسی امر میں مضطرب ہو تو ایک مجلس میں نوے ہزار مرتبہ پڑھے۔ ان شاء اللہ حاجت پوری ہو بغایت مجرب ہے۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی حاکم یا بادشاہ کو مسخر کرنا ہو تو اس کی تصویر خلوت میں اپنے سامنے رکھے اور اس اسم کے نقش کو نئی ٹھیکری پر لکھ کر اپنے پاس رکھے اور خلوت میں اس اسم کو پڑھنا شروع کرے، مقصد حاصل ہو۔ اگر اس کا نقش چاندی پر کندہ کر کے پاس رکھے، قبولیت دُعا کی برکت حاصل ہو۔

۲۳۔ یا وَاَسِيعُ:

اہل طریقت نے فرمایا ہے کہ جو شخص حریص ہو تو اس کیلئے یہ اسم نافع ہے۔ اگر ۱۳۷ مرتبہ روزانہ ورد میں رکھے۔ حق تعالیٰ اپنے انفضال کی بارش فرمائے اگر کوئی ۱۰۲۵ مرتبہ پڑھے، علوم مرتبہ منزلت عالی تسخیر قلوب سلاطین و امراء رفعت و جاہ منزلت احوال، عجیب و حالات غریب اور وسعت رزق کے مفاد حاصل ہوں۔ اگر اس کے نقش کو لکھ کر کسی مکان یا دکان یا ذخیرہ تجوری میں رکھیں، برکت حاصل ہو۔ تسخیر کیلئے ۷۰ یوم روزانہ

ستر ہزار مرتبہ پڑھے تو مرتبہ عالی ہو۔ تمام مخلوق مطیع و مسخر ہو و وسعت رزق کیلئے ۱۵ مرتبہ ہر بعد نماز پڑھے۔

۳۳۔ یا وَدُودُ:

یہ اسم حب کے لئے عالمین میں بہت مشہور ہے۔ اہل تحقیق فرماتے ہیں اگر اس کا عامل اپنے بیگانے ہر ملنے والے سے اخلاق و محبت سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنالے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو شرابی یا زانی ہو کذاب اور ایذائے اہل اسلام میں کوشاں رہتا ہو تو ۹۶۰ مرتبہ اسم یا وَدُودُ اول و آخر ۵۳ بار آیت کریمہ

اِنَّهُ هُوَ بِيَدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٍ لِّمَا يَرِيْدُ پڑھے۔ پھر دعا کرے ان شاء اللہ نیک انسان بن جائے گا۔ اسی طرح فاحشہ عورتوں کو سدھارنے کیلئے بھی یہ عمل کرنا چاہئے۔

۳۵۔ یا مَاجِدُ یا مُجِيْدُ:

جو شخص صاحب عزت و بزرگی ہو چاہے کہ اس اسم کا ورد کرے اگر کوئی شخص ذلیل و رسوا ہو یا کسی وجہ سے یہ گمان ہو کہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ مثلاً کسی کی امانت رکھی، خرچ کر چکا یا مالدار تھا اب مفلس ہے اور لڑکی یا لڑکے کی شادی کرنا جس میں پردہ فاش ہونے کا اندیشہ ہے یا ملازمت چھوٹ چکی ہو یا معزول کئے جانے کا اندیشہ ہے تو اس اسم کا ورد کرے۔ مولیٰ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسا ذریعہ عطا فرماوے گا کہ ذلت و رسوائی سے محفوظ رہے۔ امانت میں خیانت، رشوت یا مزدور و ملازم کا پیشہ کوئی الزام رکھ کر کاٹنا یا کسی کی بھول سے فائدہ اٹھانا اس کی رقم مار لینا حرام ہے۔ ایسا کرنے والا اپنے

پچھلے فعل سے توبہ کرے اور آئندہ کیلئے عہد کرے پھر عمل کرے۔ شیخ ابوالعباس فرماتے ہیں: یہ عمل امراء اور بادشاہوں کے حسب حال ہے۔

۳۶۔ یا باعث:

اس اسم کو برائے صفائے باطن و رفع و سوسہ شیطان و تزکیہ نفس پڑھنا چاہئے اگر کسی شخص میں شہوت، غفلت و حرص بجل بہت ہو تو اس اسم کو بوقت خواب لیٹ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر پانچ سو بار پڑھنا چاہئے۔ شیخ عبدالمجید مغربی فرماتے ہیں کہ باعث ہی ہے جو پریشانیوں کو دفع فرماتا ہے۔ یہ اسم سہرا کبر ہے۔ اس کا ذکر اس فرد کیلئے بہت مناسب ہے جس کی ہمت پست ہو چکی ہو۔ زندگانی اور صحت و حفظ قوی جسمانی و روحانی کی عجیب و غریب تاثیر اس اسم میں موجود ہے۔

۳۷۔ یا شہید یا شاہد:

اہل حقیقت نے فرمایا ہے کہ اس اسم کے ذاکر کو برے افعال اور دروغ گوئی سے بچنا ضروری ہے جو شخص روزانہ اعداد اسم کے مطابق ورد میں رکھے۔ اس کے اہل و عیال ہر بلا اور برائی سے محفوظ رہیں۔ اگر کسی کی بیوی یا بچہ نافرمان شریر ہو تو روزانہ صبح کو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ۲۱ مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کرے۔ مطہج و فرمانبردار ہو۔ اگر ہر نماز کے بعد اعداد اسم کے مطابق پڑھے تو قلب ذاکر سے حجاب اٹھ جائیں۔

۳۸۔ یا حقیق:

کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کسی قسم کا لین دین کا معاملہ ہو یا مقدمہ ہو یا پنچایت کے طور پر فیصلے کیلئے کچھ لوگ جمع ہونے والے ہوں اور خود کا حق پر ہونے کا شرعی یقین ہو ساتھ ہی یہ گمان ہو کہ فیصلہ میرے خلاف ہوگا تو اس اسم کا ورد کرے۔

شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ گمشدہ شے کے حصول کیلئے کاغذ کے کونوں پر گمشدہ کا نام اور درمیان میں یا حق تحریر کرے دستیاب ہو اور ظفر جلیل میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس کاغذ کو اپنی ہتھیلی پر رکھے اور ہاتھوں کو مثل دُعا اٹھائے اور نظر آسمان کی جانب ہو پھر اس اسم کو شفیع لائے یعنی اس کا ورد اعداد اسم کے مطابق کرے یا وہی شے ملے یا اس سے بہتر اگر قیدی نصف شب کو سرنزگا کر کے ایک سو آٹھ بار پڑھے رہائی پائے۔

۳۹۔ یَا وَکِیْلُ

اس اسم کے ذاکر کو یہ یقین کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ جمیع مخلوقات کی کفایت کرنے والا ہے۔ اس اسم کا ذاکر تمام خوف سے مامون رہے اگر مقام خوف پر تلاوت کرے خواہ خوف بہائم ہو یا خوف برق و رعد یا خوف زلزلہ پروردگار محفوظ رکھے۔

شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اسم میں حصول مرادات کی تاثیر کلی موجود ہے جو شخص اسم مبارک کی تلاوت کرے اگر مسافر ہے بخیریت وطن واپس آئے۔ قید ہے تو نجات پائے۔ مقروض ہے تو قرض ادا ہوا اگر بہ نیت دفع دشمن پڑھے مقہور ہوں۔

۵۰۔ یَا قَوِّیُّ

یہ اسم بہت قوی الاثر ہے۔ اس کی تلاوت کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے عامل پر ایک دو نہیں ہزاروں دشمن بلکہ پوری فوج بھی غلبہ حاصل کر کے ظلماً نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دفع بیماری کے بعد کی کمزوری کیلئے یا وقت سے پہلے بوڑھے یا کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور ہو جانے والے یا معذور ہو جانے کا خطرہ ہو تو یَا قَادِرُ یَا قَوِّیُّ یَا قَائِمُ یَا دَائِمُ چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پینا چاہئے۔ (اقبال احمد)

شارحین کرام نے مستند طریقہ دشمن سے محفوظ رہنے کا بتایا کہ آٹا خمیر کر کے

ایک ہزار گولیاں بنائے اور ہر گولی پر اسم مذکور ایک بار پڑھ کر دم کرتا جائے اور پرندوں کو کھلاتا جائے اور دشمن کا تصور رکھے اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔

۵۱۔ یَا مَتِّینُ:

اس اسم کا عامل اگر اپنی چشم کو نامحرم سے محفوظ رکھے تو اس کی محبت و ہیبت دوست دشمن ہر ایک کے قلب میں خون کی گردش کے ساتھ دوڑنے لگے۔ اگر کسی خاص ذات کو مسخر کرنا ہو تو خوشبودار پھول یا میوہ پر دم کر کے دے۔ وہ خوشبو سونگے یا میوہ کھائے تو مہربان ہو جو بچہ چلنے سے معذور ہو اس اسم کا نقش باندھے چلنے لگے۔ بچے کی ماں کے دودھ نہ ہو اس اسم کو لکھ کر ماں کو پلائے دودھ بہت ہو۔

۵۲۔ یَا حَامِدُ یَا مُحَمَّدُ یَا حَمِیدُ:

اس اسم پاک کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس اسم کا عامل عالم محویت میں گم ہو کر پڑھے اور خالص حمد و ثناء ہی کی نیت رکھے تو صفات محمودہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اس اسم کے قاری کی حاضر و غائب تعریف ہوگی۔ یہ اسم تسخیر و محبت اور افعال بد سے بچانے میں بہت زود اثر ہے۔ ان میں سے کوئی اسم یا تینوں اسماء اگر لکھ کر پلائے جائیں تو تمام بری عادات چھوٹ جائیں۔ شریر بد چلن نافرمان بچوں کیلئے پیالے پر یہ عبارت کندہ کر کے رکھ لیں۔ اسی میں پانی پلائے۔

یَا حَمِیدُ الْقَعَالِ ذَا الْمَنِّ عَلٰی جَمِیعِ خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ یَا حَمِیدُ

۵۳۔ یَا مُحْصِیُّ:

اس اسم کے پڑھنے والا عذاب قبر و حشر سے امان پاتا ہے۔ اگر روز جمعہ یا شب جمعہ میں ایک ہزار مرتبہ پڑھے حساب عاقبت آسان ہو۔ یہ اسم اکاونٹ اور

کلوں کیلئے آب حیات کا حکم رکھتا ہے۔ کتنا ہی کام کرتا ہو آسان ہو جائے اور حساب کتاب میں اگر غلطی ہو تو فوراً محسوس ہو جائے جو علم حساب پڑھتا ہو یا امتحان دیتا ہو یا جس کے حساب میں غلطیاں زیادہ ہوں وہ اس کا ورد کرے۔

۵۴۔ یا مُبْدِیُّ یا مُعِیدُ:

جس امر مشکل یا مکان دوکان کی تعمیر دوکان کارخانہ وغیرہ غرض کسی بھی کام کی ابتداء کرتے وقت اس اسم کو ۵۶ مرتبہ پڑھ کر آغاز کیا جائے۔ بحسن و خوبی انجام کو پہنچے۔ شیخ عبدالجید مغربی فرماتے ہیں اگر طالب فرزند قبل صحت ۵۶ مرتبہ مرد و عورت پڑھ لیں۔ مولیٰ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے فرزند فرمائے اگر زن حاملہ درد میں رکھے بچہ صحیح سالم پیدا ہو اور وقت پیدائش تکلیف نہ ہو۔

۵۵۔ یا مُحِیُّ یا حَیُّ:

یہ اسم مبارک کو مورچہ پر جانے والے فوجی سپاہیوں سمندر میں غوطہ لگانے والوں بس، ٹیکسی، رکشہ ڈرائیوروں خصوصاً پہاڑی علاقوں میں کام کرنے والوں پل اور سرنگیں بچھانے والے غرض ہر وہ کام جس میں موت کا خطرہ ہو۔ یہ اسم پاک ۹۵ مرتبہ پڑھ کر گھر سے نکلے۔ سلامت گھر واپس آئے جو لوگ دریاؤں کے قریب رہتے ہیں۔ سیلاب یا زلزلوں کا خطرہ رہتا ہو وہ اس کا ورد رکھیں جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہیں۔ (تنویر و ظفر و فوائد کبریٰ وغیرہ)

۵۶۔ یا مُمِیتُ:

یہ اسم پیران طریقت اور رہنمایان شریعت کیلئے ضروری ہے کہ اس اسم کی برکت سے نفس امارہ مطیع و مسخر ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بوقت

خواب اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر ۴۹۰ مرتبہ **يَا مُهِيتُ** پڑھے۔ اس کے بعد سو جائے۔ حق تعالیٰ اس کے نفس کو مطیع و مسخر فرما دے۔ دیگر ہلاکی و بربادی دشمن کیلئے بھی یہ اسم مخصوص ہے۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پانچ اسم

يَا مُصَوِّرُ يَا مُبْدِيُ يَا مُعِيدُ يَا مُحْيِيُ يَا مُمِيتُ۔

اگر طالب علم ان اسماء کا ورد کرے تو عالم ہو جائے۔ پروردگار عالم فہم و ادراک عقل و ذہن لطیف عطا فرمائے۔ تمام مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوں۔

۵۷۔ **يَا قَيُّوْمُ** :

اس اسم کی مداومت کی برکت سے عمر دراز ہوتی ہے۔ معاملات میں کامیابی دشمنوں پر غلبہ اور دلوں پر تصرف حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے بوقت شدت جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** کہا اور فوراً راحت حاصل ہوئی۔

جو شخص طالب عزت و جاہ اور ترقی کا رو بار ہو برائے قدرت و سرعت و اجابت و قضائے حاجات و حصول مقاصد و فتح مقدمات اس اسم مبارک میں سب تاثیرات موجود ہیں۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وقت سحر اس کا ورد کرے تو خلق مسخر ہو۔ اکثر اکابرین نے اسم **يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ** کو اسم اعظم فرمایا ہے۔

۵۸۔ **يَا وَاٰجِدُ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ** :

یہ اسمائے الہیہ حصول دولت و غنا کیلئے امتیازی شان رکھتے ہیں۔ یا وَاٰجِدُ حصول کشف کیلئے عالمین کا معمول رہا ہے جو شخص حلال ذریعہ معاش کا متلاشی ہو یا تاجر جس کی تجارت حسب نشانہ چلتی ہو یا اولاد کثیر ہو، خورد و نوش کا انتظام قلیل ہو یا بالکل نہ

ہو۔ اس لئے حرام و ناجائز ذرائع معاش تلاش کرنے سے بہتر ہوگا۔ کہ ان میں سے کوئی ایک اسم منتخب کر کے ورد کرے یا ایسی دعائیں جن میں یہ اسماء بھی شامل ہوں، عمل میں لائے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے طیب و طاہر رزق کثیر عطا فرمائے اور وہ بے نیاز اس قدر دے کہ خرچ سے بچ رہے۔ ان اسماء کو اپنے اعداد اسم کے مطابق ورد میں رکھے۔

۵۹۔ یَا أَحَدُ یَا وَاحِدُ یَا وَحِیدُ:

ان اسماء میں کسی اسم کے ذکر سے ڈاکر کا دل ایسا مطمئن اور بے خوف ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے خطرے اور لرزائیں والے واقعے جراساں کر دینے والے ماحول میں بھی بے خوف رہے اور فکر قریب نہیں آتا۔ یہاں تک پھانسی کے تختے پر بھی اس کے قلبی اطمینان و سکون کا وہ نورانی جلوہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر نمرود و شداد دوراں بھی کانپ کر اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ گویا اس واحد یکتا کی وحدانیت کے جلوے اس اسم کے ڈاکر کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ اس لئے عالمین اور اہل تحقیق اس اسم کو شاہان و ذمہ داران مملکت اور فوجی افسران کیلئے تحفہ قدرت بناتے ہیں۔ (از: شارحین اسماء باری)

دیگر کوئی سخت مہم یا بیماری کیلئے ہو، خطرناک راستوں میں یا بوجہ تہائی کسی مقام پر خوف ہو تو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے مہم آسان بیمار شفا یاب ہو اور خوف و ہراس دور ہو۔

۶۰۔ یَا صَمَدُ:

اس اسم کا ڈاکر اہل اللہ میں سے ہوتا ہے۔ اس اسم کے پڑھنے والا بھوکا نہیں رہتا یا بھوک پیاس کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ اکثر عالمین و کالمین نے یَا أَحْمَدُ یَا صَمَدُ کو اسم اعظم بتایا ہے۔ شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسم یا صمد کو ایک ہزار مرتبہ

پڑھے تو رزق میں وسعت اور کاروبار میں خیر و برکت ہو۔

کتاب مفتاح الجنان میں مذکور ہے کہ اگر شب جمعہ بعد نصف شب میں با وضو ایک ہزار مرتبہ حضور قلب پڑھے تو قاری میں عظیم اثرات پیدا ہو جائیں اگر کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہو تو اس کیلئے تین روزے رکھے اور ہر روز ساعت مشتری میں ایک ہزار مرتبہ یہ اسم پڑھے اور اس کیلئے دعا کرے۔ وہ شخص فسق و فجور سے تائب ہو۔ محبت کیلئے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر پانی سے دھو کر پہلے طالب پئے پھر وہ پانی مطلوب کو پلاوئے محبت میں بے چین ہو۔

۶۱۔ یَا قَادِرُ یَا قَدِیرُ یَا مُقْتَدِرُ:

یہ اسماء ہر بڑے سے بڑے اور اہم سے اہم اور مشکل سے مشکل امور میں مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ جب اپنے اور بیگانے دوست و احباب سب الگ ہو جائیں اور کوئی حامی و مددگار تو کیا بات کا پوچھنے والا بھی نہ ہو تو ایسے نفسی نفسی کے موقع پر ان اسماء سے کسی اسم کا بھی ذکر اس کی کشتی حیات کو ساحل مراد پر لگانے کیلئے کافی ہے۔ خصوصاً نجومی جس وقت وحشت انگیز خبریں دے کر انسان کو مبتلائے وحشت کر دیں ان کے خود ساختہ دعوؤں کو جھٹلانے اور ستاروں کے اثرات بد سے محفوظ رہنے کیلئے ان اسماء سے کسی اسم کا ذکر بہتر ہے۔ (شرح اسمائے باری)

۶۲۔ یَا مُقَدِّمُ:

اس اسم کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر کلام کیا۔ امام علی رضا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بوقت خواب اس اسم کو پڑھے۔ دشمنوں کے حملے، چوری کے خوف، مکان کے گرنے، جہاز کے ڈوبنے کے خوف سے محفوظ رہے۔

۶۳۔ یَا مُؤَخَّرُ:

شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عمر قریب اختتام پہنچے اور اعمال خیر کچھ بھی نہ ہوں۔ گناہوں کی کثرت ہو، قبر و حشر کا خوف دامن گیر ہو تو اس اسم کی مداومت کرے۔ حق تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے اور عمر کو دراز کرے تاکہ اعمال نیک کر سکے۔ اسی لئے عاملین اس اسم کو مایوس مریضوں کو کثرت سے پڑھنے کو بتاتے ہیں۔ مولیٰ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا دیتا ہے۔ چاہئے کہ بعد شفاء عبادت الہی سے غافل نہ ہو۔

۶۴۔ یَا اَوَّلُ:

شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طالب فرزند ہو یا دینیہ حاصل کرنا چاہتا ہو یا فتوحات غیبی کا طالب ہو تو چاہئے کہ چالیس جمعہ بعد نماز جمعہ مداومت کرے مقصد حاصل ہو۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس اسم کا ذکر اپنے کل مقاصد میں سابق رہے گا اور اگر اسم کو یا آخر کے ساتھ ذکر کرے تو مقام کشف حاصل ہو۔

۱۴۰۔ یَا اٰخِرُ: شیخ بونی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس نام کی قرأت کرے اس کو قوت و نصرت بے اندازہ حاصل ہو اور جو بھی دشمنی کرے ہلاک ہو۔ مقابلہ کرے مغلوب ہو جو شخص اس اسم کے اور دشمن کے نام کے اعداد شامل کر کے نقش بنائے اور ہفتہ کی پہلی ساعت میں بوسے پر کندہ کرے اور اسی تعداد کے مطابق پڑھے اور اس نقش کو آگ میں داب دے دشمن ہلاک ہو۔

۶۵۔ یَا ظَاہِرُ یَا بَاطِنُ:

یہ دونوں اسمائے باری تعالیٰ اصلاح اور نورانیت کیلئے خاص ہیں۔ یہ اسماء ظاہر و باطن کی اصلاح فرما کر ذکر میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کشف قبور اور استخارہ

کیلئے عالمین میں مشہور ہیں۔ شیخ مغرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد نماز چاشت پانچ سو مرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ دیدہ دل کو ظاہر و باطن میں نورانی کر دے۔ خواب غفلت سے بیداری عنایت فرمائے اور تاریک دل سے دفع ہو جس کے دوستوں، ساتھیوں، یا اہل معاملہ میں سے جو بھی ایسا ہو کہ دل میں کچھ زبان پر کچھ ایسے دوستوں سے کافی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ان اسماء کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دوستوں کی بھی اصلاح فرما دیتا ہے۔ اور اس اسم کے ذکر کے دوست احباب یا غیر سب اسی طرح پیش آئیں جو ان کے دل میں ہو۔

۶۶۔ یا وَاٰلِیْ:

یہ اسم پاک دست کار محنتی حضرات کیلئے خاص ہے کہ اس اسم کی برکت سے کم وقت میں زیادہ کام انجام پاتا ہے۔ اس اسم کا عامل اگر ٹھیکیدار ہو یا مزدور وہ کبھی خالی نہ رہے۔ اس کے کام کی قدر بہت ہو جو مزدوری مانگے ملے۔ مالکان اس سے کام کرانے کیلئے ہر قیمت پر تیار رہیں۔ اگر اس اسم کو برتن پر لکھ کر پانی سے دھو کر مکان یا دکان کے گوشوں نیز بالا خانہ پر چھڑکیں تو چوری، بجلی، آندھی، طوفان، بارش، سیلاب، زلزلہ و جملہ آفات سے محفوظ رہے۔

۶۷۔ یا مُتَعَالِیْ:

اہل تحقیق نے فرمایا ہے کہ اس اسم کو بہ عجز و انکساری پڑھنا چاہئے اور خلق خدا میں خود کو حقیر سمجھے تاکہ حق تعالیٰ مرتبہ بلند فرمائے اور غیب سے ہر کام انجام فرمائے اگر کوئی عورت بعد فراغت حیض و نفاس میں اس اسم کی برکت تلاوت کرے تو جملہ آفات سے محفوظ رہے۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس اسم کا ذکر کر کے کسی بادشاہ کے پاس

جائے۔ وہ عزت سے پیش آئے اور جو حاجت ہو پوری ہو۔

۶۸۔ یَا بَرُّ:

حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں: اگر نابالغ بچہ کو یہ اسم یاد کرادے اور وہ اس کو پڑھتا رہے۔ یہاں تک کہ سن بلوغ کو پہنچے تمام عمر آفات روزگار سے محفوظ رہے۔ شیخ مغرب فرماتے ہیں: اس اسم کا ذکر جس چیز کا طالب ہو حاصل ہو۔ شیخ ابو عباس احمد بن علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس اسم کا ذکر کرے نعمت الہیہ کی فراوانی ہو۔

۶۹۔ یَا تَوَّابُ:

جس فرد پر بہ سبب گناہوں کے تکلیف و مصیبت ہو یا رزق کی تنگی میں مبتلا ہو اس اسم کی برکت سے اس کے گناہ مغفور ہوں رحمت و کرم کی بارش ہو۔ ۴۰۹ بار روزانہ ورد میں رکھے اور بعد فراغت جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو۔ جو شیر خوار بچہ بہت روتا ہو اس پر ستر مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ ہر مرض و آفات و بلیات سے محفوظ رہے۔ اس اسم کا ذکر جو اس کے معافی و صفات میں غرق ہو کر پڑھے اولیائے کاملین میں شمار ہو گناہ و فواحش سے اس کا دل متنفر ہو جائے۔ (شرح اسماء)

۷۰۔ یَا تَوَّابُ يَا مُنْتَقِمُ:

برائے فتح و ظفر خصوصاً جن لوگوں کے کاروبار کارخانوں دکانوں کو بوجہ حسد سفلی کے ذریعہ باندھ دیا جاتا ہے یا جو لوگ برے دوستوں یا نفس کے قریب میں آکر اپنی عزت دولت کو تمار بازی سٹہ بازی ریس میں برباد کر چکے ہوں اور اپنی کھوئی دولت و عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہوں تو سچے دل سے تائب ہو کر یَا تَوَّابُ يَا مُنْتَقِمُ کا ورد کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر وہی دن ہوں گے اور وہی راتیں۔ (شرح اسماء)

۱۔ یَا رَوْفُ:

یہ اسم مبارک تسخیر و محبت اور دشمن کے پنجہِ ظلم سے رہائی کیلئے پڑھنا چاہئے۔ اس کے عامل کو ہر مردانیت و محبت سے دیکھے۔ اگر اس کے عامل کے پاس ایک پیسہ نہ ہو اور وہ بڑے سے بڑا کاروبار کرنا چاہے تو لوگ اسے بخوشی قرض دیں اور تقاضا نہ کریں کیونکہ اس کے عامل کے قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے۔ اگر کوئی بہ نیت خیانت اس عمل کو کرے تو ذلیل و خوار ہو۔ ورنہ عظمت و وقار اس کے قدم چومے۔

(شرح اسماء)

۲۔ یَا مُعْطِیُّ یَا مُنْعِمُ یَا نَافِعُ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ:

یہ اسمائے الہیہ حصول دولت و غنا کیلئے مخصوص ہیں۔ برائے نفع تجارت و وسعت رزق حلال میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے وظائف عملیات اور چلہ کشی اور محنت شاقہ کے بعد جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ چند یوم میں ان اسمائے الہیہ میں سے کسی بھی اسم مبارک کی برکت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو روپیہ پیسہ دیتے وقت یَا مُعْطِیُّ و ردول میں کرے تو اللہ تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اس سے زیادہ عطا کرے۔ اگر خرید و فروخت کے وقت دل میں یَا نَافِعُ کا ورد کرے تو اس تجارت میں نفع و برکت ہو۔ اگر دستکار اپنا کارخانہ یا دکان کھولتے وقت یَا مُنْعِمُ کا ورد کرے تو کام زیادہ اور اچھا اور جلد بکنے والا تیار ہو اور دکان پر بکری زیادہ ہو۔ یَا حَنَّانُ بعد نماز فجر اور یَا مَنَّانُ بعد نماز عشاء اعداد اسم کے مطابق پڑھا جائے خیر کثیر اور دولت برکت والی حاصل ہو۔

۳۔ یَا مَانِعُ:

اہل تحقیق فرماتے ہیں جو شخص اس کا ورد کرے تو لازم ہے کہ کسی فرد کو اذیت نہ

پہنچائے تاکہ حق تعالیٰ ذا کر سے بلائے دنیا و آخرت کو دور فرما دے۔ اگر کسی کی زوجہ نافرمان ہو تو بستر خواب پر اس اسم کو پڑھے موافقت پیدا ہو جائے۔ شیخ مغرب فرماتے ہیں کہ یہ اسم خوفزدہ کیلئے بہت بہتر ہے۔

۷۴۔ یَا ضَارُّ:

اس اسم کا ذکر ہر ضرر سے محفوظ رہتا ہے۔ خواہ عزت و مال یا اہل و عیال سے متعلق ہو۔ شیخ مغرب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص طالب عزت و جاہ و بزرگی ہو تو ہر شب اور امام علی رضا علیہ السلام نے شب جمعہ سو (۱۰۰) بار پڑھنے کو فرمایا ہے۔

۷۵۔ یَا نُورُ:

اس اسم پاک کی برکت سے جسم و قلب منور ہو جاتا ہے۔ انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ۲۵۶ مرتبہ اس اسم کو روزانہ ورور کھے تو قلب نورانی ہو اور آنکھیں نور الہی سے روشن ہو جائیں۔ اس کے قاری سے ہر شخص عزت و احترام سے پیش آئے۔ شیخ یونی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کا ورد کرے نور ایمان سے اس کا دل منور ہو جائے۔

۷۶۔ یَا هَادِي:

اس اسم پاک کو عالمین ہر کارہ کہتے ہیں یعنی ہر کام اس اسم پاک کی برکت سے انجام پاتا ہے۔ شیر خوار بچوں کا رونا، شریر و نافرمان بچوں، کج خلق بد کردار مرد و عورتوں کے سدھار کیلئے خاص طور پر اس کے عمل کئے جاتے ہیں اور نقش دیئے جاتے ہیں۔ سیدی مرشدی حضور مفتی اعظم ہند مدظلہ ہر غیر مسلم کو خواہ وہ کسی بھی ضرورت و حاجت کو لے کر آیا ہو۔ دیگر نقوش کے ساتھ اعداد میں اس نقش کو ضرور دیتے ہیں۔ (اقبال احمد)

۷۷۔ یا بَدِيعُ:

اگر اس اسم کو بوقت دعا ستر مرتبہ پڑھے تو دعا مستجاب ہو جس شخص سے اس کی کوئی محبوب شے چھین لی گئی ہو یا کوئی کسی امر مشکلہ میں سرگشتہ ہو یا کسی معاملہ میں پریشان ہو یا کوئی والی و حاکم اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہو تو غسل کر کے جامہ پاک پہنے اور رزق حلال سے صدقہ دے اور بعد تصدیق دو رکعت نماز ادا کرے اور ستر مرتبہ

يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ اور ایک ہزار مرتبہ یا بدیع پڑھے۔ ان شاء اللہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو۔

۷۸۔ یا بَاقِي:

اسی اسم کی برکت تھی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جبکہ پہلوانی کیا کرتے تھے کسی نے آپ کی پشت کو ختم نہیں کیا اور اسی کی برکت سے منصب ولایت سے سرفراز فرمائے گئے۔ شیخ بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم کا ذکر کبھی بیمار نہیں ہوتا اگر بادشاہ ذکر کرے تو ملک پر زوال نہ آئے۔ شیخ مغرب فرماتے ہیں کہ اگر ہر شب سو مرتبہ اور شب جمعہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو مستجاب الدعوات ہو جائے۔

۷۹۔ یا وَاوَرِثُ:

اس اسم پاک کی برکت سے اس کا ذکر اپنی قوم میں سردار و معظّم ہو۔ صاحب اولاد ہو اموال میں برکت ہو روزی فراخ ہو۔ شیخ بونی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ وسعت رزق کیلئے اس کی تلاوت مفید ہے اور کوئی شخص اس اسم کے دریائے وسعت معانی میں غرق ہو کر یعنی صاحب حال ہو کر پڑھے تو قبیلہ کی سرداری حاصل ہو اولاد میں کثرت اموال میں برکت ہو۔

۸۰۔ یا رَشِیدُ:

اس اسم کا حامل کسی قوم کا لیڈر یا رہنما ہو تو وہ قوم سرفراز ہو۔ اس کے مشورے اور اس کے حکم کی تعمیل سے وہ قوم یا قبیلہ ترقی کی منازل پر گامزن ہو۔ علو مرتبت عظمت شہرت کا پرچہ ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اس کا ورد کرے اس کے تمام امور نہایت سہولت اور حسن خوبی سے انجام پائیں اور شیخ احمد فرماتے ہیں کہ جو بعد نماز صبح و مغرب کھڑے ہو کر ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو مہمات میں بلا سعی کامیابی نصیب ہو۔ اگر نیت استخارہ پڑھے تو ہر کام کا انجام اور نفع و ضرر کا حال عالم خواب یا حالات بیداری میں معلوم ہو۔

۸۱۔ یا صَبُورُ:

اس اسم پاک کے ذکر سے سختیوں پر صبر حاصل ہوتا ہے اور اس اسم کا ذکر کوئی سخت کام کرنے سے عاجز نہیں ہوتا۔ اگر کسی عظیم صدمے اولاد یا کسی عزیز یا محبوب کے انتقال کی وجہ سے خلل دماغ، حافظہ کی خرابی وغیرہ امور لاحق ہو جائیں تو اس اسم کے نقش کو دھو کر پلائے۔ اگر کسی رنج و غم اور درد و مشقت کے موقع پر خوف و دہشت کے وقت یا دشمنان و حاسدان کی زبان اپنی بد گوئی سے بند کرنا ہو تو ایک ہزار تیس بار پڑھے۔

ملاقات خضر علیہ السلام

حضرت ابراہیم تیمی جو عظیم ترین اولیاء کرام میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمل خضر علیہ السلام نے مجھے تعلیم فرمایا۔ اس عمل سے تین فائدے بیک وقت حاصل ہوتے ہیں۔ اول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو۔ دوسرے خضر علیہ السلام سے مشرف ملاقات حاصل ہو۔ تیسرے آپ ملاقات کر کے حاجات حل ہونے کی تدبیر بتائیں۔ قبل طلوع آفتاب و قبل غروب آفتاب سورہ فاتحہ (۷) بار سورہ فلق اور سورہ

الناس (۷) بار سورۃ اخلاص (۷) بار سورۃ کافرون (۷) بار آیت الکرسی (۷) بار
کلمہ تمجید (۷) بار۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَحَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ
وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ
وَسَلِّمْ (۷ بار)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ
الدَّعَوَاتِ وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (۷ بار)

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ لِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَاجِلًا فِي الدِّينِ
وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا
نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ رءُوفٌ
رَّحِيمٌ (۷ بار)

اس کا ثواب سید عالم ﷺ کو حضرت خضر علیہ السلام و جمیع ارواح اُمت محمد ﷺ

کو بخشے۔ تین روز میں ستارہ قسمت بالائے عرش نظر آئے اور مشرف بہ زیارت سید عالم

ﷺ ہو۔ اگر ہر روز و روز رکھے اس کو غیب سے بے مشقت روزی ملے۔

ملاقات ارواحِ مقدسین

جب ارواحِ طیبین مقدسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے شرفِ ملاقات حاصل کرنا ہو یا کسی اہم ضرورت و حاجت کو حل کرنا مقصود ہو تو سورہ یٰسّ شریف اس طرح پڑھیں۔

سورہ یٰسّ شریف میں ۷ مبین ہیں۔ سورہ یٰسّ شروع کریں جب پہلی مبین پر پہنچیں تو یہ دعائیں بار پڑھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

سُبْحَانَ الْمُنْفِیْسِ عَنْ كُلِّ مَدِیُوْنٍ سُبْحَانَ الْمُمْرِجِ عَنْ
كُلِّ مَحْدُوْنٍ سُبْحَانَ النَّاصِرِ عَنْ كُلِّ مَظْلُوْمٍ سُبْحَانَ
الْمُخْلِصِ كُلِّ مَسْجُوْنٍ سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ خَزَائِنَهُ بَیْنَ
الْكَافِ وَالنُّوْنِ سُبْحَانَ الْهَمِّ اَمْرَةً اِذَا اَرَادَ شَیْئًا اَنْ یَّقُوْلَ
لَهٗ كُنْ فِیْكَوْنُ سُبْحَانَ الَّذِیْ یَبِیْدُ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَیْءٍ
وَ اِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

اسی طرح ہر مبین پر تین بار پڑھیں، تین دن میں مقصود حاصل ہو۔

خواب نامہ

خوابیں بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب ہی دیکھتے ہیں نیک اور صالح لوگ جو پچھلی شب میں دیکھیں وہ خوابیں اکثر صحیح اور سچی ہوتی ہیں۔ اپنی خواب نیک صالح مرد مومن سے دن میں بیان کریں یا خود نیک تعبیر سے لے لیں، گھڑ کر ہرگز ہرگز خواب بیان نہ کریں۔ اگر کسی قسم کی ڈراؤنی خواب دیکھنے میں آئے تو پہلے یہ دیکھیں کہ کسی بادی چیز کے کھانے سے پیٹ میں گرانی تو نہ تھی کہ ایسی خوابیں محض پیٹ میں گیس بن کر دماغ میں گھٹنے سے نظر آتی ہے۔ حاملہ عورتوں کو یا جن کو حیض ٹھیک وقت پر نہیں ہوتا۔ ان کو اکثر ساری ساری رات ڈراؤنی اور خراب خوابوں میں گزرتی ہے۔ ایسی خوابوں کا کوئی اعتبار نہ کرنا چاہئے۔

آیت الکرسی سات بار اور چاروں قل تین تین بار بیٹھے تیل پر دم کر کے رکھ لیں اور سوتے وقت ۲-۲ قطرے کان میں لیا کریں۔ اکثر نمازی پر ہیز گار سرکار غوثیت مآب رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت رکھنے والوں کو بعض خوابیں اگر پریشان کن ہوں تو گھبراتا نہ چاہئے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ایسا واقعہ زندگی میں پیش آنے والا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا و تصرف سے خواب پر ختم کر دیا گیا۔

حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ خواب مرد مومن کی نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اسرار غیبی سے آگاہ فرماتا ہے۔

نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّوِيَا الصَّالِحَةُ جُذْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُذْءً مِنَ النَّبُوَّةِ۔ (متفق علیہ) (مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا خواب نبوت کے حصوں میں سے چھیا لیسواں حصہ ہے۔

خوابوں کی اقسام

قارئین کرام!

خواب کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک اچھا خواب اور دوسری بُرا خواب۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور بُرا خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اچھا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھنا بہتر ہے اور بُرا خواب جب دیکھیں تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ آج ہم میں یہ بُری عادت ہے کہ اگر رات کو کوئی بُرا خواب دیکھ لیں تو صبح ہوتے ہی ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا شرعاً منع ہے۔ آئیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالیشان سماعت فرمائیں۔

اچھا خواب:

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پریشان خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو پسند کرتا ہے تو اس کا ذکر نہ کرے مگر اس کو جس شخص کو پسند کرتا ہو۔ (یعنی اپنے رازدار کو بتا دے) جب ایسی چیز دیکھے جس کو پسند کرتا ہو تو (اس خواب) کی برائی اور شیطان کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تب تین بار تھو کے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بُرا خواب دیکھنے والا بائیں جانب تین بار تھو کے اور اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوا کروٹ لے جس کروٹ پر لیٹا ہو۔ (حوالہ مشکوٰۃ شریف)

حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا خواب

حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ پیارے آقا و مولیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھ کر حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی مبارک کو سجدہ کر رہا ہوں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا اپنا خواب سچا کر لو۔ یہ فرما کر سرکار لیٹ گئے اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا۔
(حوالہ مشکوٰۃ شریف)

جے انج دیدار کراونا نہیں جے مکھ توں پردہ چاؤ نا نہیں
وچ خواب دے آچا پل دی پل ایناں تے کرم فرماوندا جا



رویف "الف"

تعبیر

خواب

جنت نصیب ہو قید سے آزادی ہو اعمال نیک ہوں
فراخی نعمت ہر دو جہاں سے۔

انوار الہی دیکھنا

دین اور دنیا میں عزت ہو زیارت پیغمبر نصیب ہو اور
غضبناک دیکھنا اس کے برعکس ہے۔

انبیاء کو خوش دیکھنا

بشارت نیک افعال اور زیادتی اقبال کی دلیل ہے۔
موجب زیادتی نیکی ترقی دارین کی دلیل ہے۔

اولیاء کو دیکھنا

ابدال کو دیکھنا

صاحب خواب کیلئے بہت مبارک ہو دین و دنیا میں۔

اسرافیل کو دیکھنا

مال ملنے کی دلیل ہے یا رتبہ بلند ہو اور اگر آسمان پر چڑھ

آسمان کا دیکھنا

گیا ہے تو خدا کے یہاں عزت پائے گا۔ اور صراط سے

جلد اتر جائے گا یا بادشاہ خواہ حاکم مہربان ہوگا۔

و با آنے کی فتنے کی دلیل ہے اور ایک جگہ برسنارحمت کی

ابر آسمان دیکھنا یا محیط دیکھنا

دلیل ہے اور ابر کا مبعہ بجلی بارش کے دیکھنا قرض ادا ہو۔

قیدی رہا ہو بیمار شفا پاوے۔

بلند درجہ کی دلیل ہے ملک عظیم کو پہنچے گا زیادتی رزق کی

آفتاب کو روشن دیکھنا

دلیل ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ آفتاب اُس کے گھر میں

طلوع ہوا ہے تو اگر وہ بے زبان ہے عقد ہوگا۔

مرض یا کسی مصیبت کے آثار ہیں یا صاحب خواب کے

آفتاب کو کہن یا گردوغبار

میں ڈھکا دیکھنا والدین کا انتقال ہوگا۔ آسمان کے قریب اڑ کے پہنچنا

حصولِ نعمت دین و دنیا ہو۔

آپ کو اڑتے دیکھنا گناہوں سے بری ہو یا سفر کو جاوے اور سلامت گھر

واپس آئے۔

اونٹ کا گوشت کھانا بیماری اٹھائے لیکن روزی حلال ہا تمھ آئے۔

اگر حج کا مہینہ ہے تو کبھی حج نصیب ہوگا اور اگر غیر ایام اذان کہنا

حج میں دیکھے اور قربت زمانہ حج ہے تو نیک باتوں کا چرچا

کرے گا اور اگر یہ دیکھے کہ وہ کلمہ اذان میں کہتا ہے جن

کو خود نہیں جانتا تو وہ چور ہوگا۔

انڈا دیکھنا اور اگر کسی نے انڈا پایا اور یہ نہیں معلوم کہ کس چڑیا کا ہے تو

عورت پانے کی دلیل ہے۔

انڈے کا مالک ہونا

اگر خاکینہ یا کسی اور عورت سے پکا کر کھایا ہے تو مال

صالح سے تعبیر ہے اگر خام یا کچا تناول کیا ہے تو مال

جرام سے تعبیر ہے اور کسی انڈے کا چھلکا یا سفیدی بدون

زروری کے کھائی ہے تو مال مردے یا مقتول کا پائے گا۔

لڑکا پیدا ہو یا نفع تجارت ہو اور رتبہ بلند ہو۔

اشرفی کا دیکھنا

کسی عہدے پر سرفراز ہو یا کسی حسینہ سے عقد نکاح ہو۔

انگوشی پہننا

عورت کی جدائی کا صدمہ اٹھائے۔

انگوشی کا بیچ ڈالنا

حکومت جاتی رہے قدر و منزلت جاتی رہے۔

انگوشی کھوجانا

عورتوں کو بہت خوب ہے اور مردوں کیلئے نازیب ہے

انگوشی سونے کی

بلکہ برائی کی علامت ہے۔	بلا نگینہ دیکھنا
مال جانے سے تعبیر ہے۔	آلو دیکھنا
تو انگری کی دلیل ہے صاحب اولاد ہو۔	آم کھانا
خوشی پیدا ہو یا صاحب اولاد ہو۔	آہن دیکھنا
یہ سب چیزیں خیر و برکت کی دلیل ہیں۔	آسمان سے شہد یا سرکہ خواہ روغن یا مثل اس کے دیکھنا
اگر وہ سبز رنگ ہو امن و امان ہے اور اگر زرد رنگ ہے تو مرض کی دلیل ہے اور سرخ ہے تو دلیل خونریزی کی اور بعضوں نے سرخ نکاح سے تعبیر کیا ہے۔	آسمان پر قوس و قزح دیکھنا
ظالم کے ظلم و جور میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ یا کوئی تہمت لگے کہ صاحب خواب محض بے گناہ ہوگا۔	اذان بے وقت کہنا
حج کرنے کی دلیل ہے۔	اذان راستے میں کہتے جانا
بمعنی مال کے ہیں بلکہ ہر میوے سے دلیل کہ دنیا میں خوشی ہوگی۔	انار شیریں کھانا
رنج و غم کی دلیل ہے بلکہ جملہ میوہ ہائے ترش کی یہی تعبیر ہے اگر موسم یا فصل میں دیکھے تو خیر و برکت کی نشانی ہے اور بے فصل دیکھنا مرض یا رنج کی دلیل ہے۔	انار ترش کھانا
انگور کا شیرہ نکلتے دیکھنا خوشی کی دلیل ہے۔	انگور سفید سیاہ کا دیکھنا
نیک نامی اور شادمانی کی دلیل ہے۔	انگور کا شیرہ نکالنا
اگر دیکھا ہے کہ آنکھ کی روشنی میں زیادتی ہے تو گویا اس	انار میٹھا دیکھنا
	آنکھ کا دیکھنا

کے دین میں ترقی ہے، کمی دیکھنا دین کی کمی پر دلیل ہے۔
مقصد سے دور رہنے کی دلیل ہے۔

انگلیوں کا دیکھنا

عزیز و اقارب جدا ہوں، تکلیف سے زندگی بسر ہو۔
بادشاہ یا حاکم کی زیارت ہو۔ رتبہ بلند ہو، تمام فکروں
سے نجات ہو۔

انگلیوں کا الگ الگ دیکھنا

آگ بغیر دھوئیں

کے روشن دیکھنا

مال حرام کھائے گا، پشیمانی اٹھائے گا، یہی تعبیر آگ
اٹھانے کی ہے۔

آگ کا کھانا

فضول خرچی سے نجات ہو، نفع بے حساب ہو۔
آنکھ کے نقصان کی دلیل ہے۔

آگ جلانے کا پکانا

آگ سے کپڑا جلتے دیکھنا

دین دنیا کی مرادیں حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر
عورت حاملہ ہو تو پسر پیدا ہونے کی دلیل ہے اور عورت
نے دیکھا تو لڑکی پیدا ہو۔

آئینہ دیکھنا

علم اشرف حاصل ہونے کی دلیل ہے۔
دشمن بدخواہ بہت ہوں۔

آب زمزم پینا

اولے کا میدان دیکھنا

باعث پریشانی و حیرانی ہے اور کبھی خوشی و شادمانی کی بھی
تعبیر ہے۔

اولا کھانا

اگر خلاف موسم میں دیکھے تو نقصان اٹھائے اور موسم میں
دیکھے تو فائدہ کثیر اٹھائے۔

اولے کو گرتے دیکھنا

رنج و غم کی دلیل ہے۔

آندھی کا دیکھنا

کوئی بلا آنے والی ہو یا وبا پھیلے۔

آندھی کا آنا اور بجلی گرنا

اگر قبضہ میں ہے تو دنیا تابع ہوگی یعنی دنیا سے بے نیاز ہوگا اور اونٹوں کی قطار دیکھنے سے بھی وہی تعبیر ہے۔	اونٹ کا دیکھنا
کوئی بلا آسمانی نازل ہونے والی ہے۔	اونٹ کو جستہ کنان دیکھنا
سفر کی دلیل ہے یا حج کی نعمت ہاتھ آئے۔	اونٹ پر آپ کو سوار دیکھنا
مالدار ہونے کی دلیل ہے۔	انجیر دیکھنا
خوب نہیں صاحب کے لئے۔	انجیر کا پتہ دیکھنا
مال تو ملے گا لیکن حسرت و یاس سے خالی نہیں۔	انجیر کا کھانا
اگر شیریں ہے تو دنیا میں نعمت حاصل ہو۔	امرود کا کھانا یا دیکھنا
اگر ترش ہے تو مرض ہونے کی دلیل ہے۔	اخروٹ کھانا
تجارت میں نفع ہو۔	الاجنگی دیکھنا خواہ کھانا
صاحب خواب کی تعریف و ثنا اور نیک کام ہونے کی دلیل ہے اور مال پانے یا حاصل ہونے کی دلیل ہے اور زبان پارسا اور نیک خصلتوں کی دلیل ہے۔	اینٹ کا دیکھنا
اگر کوری خشک پڑا یہ سے نکلی ملی ہے تو خزانہ ملنے کی دلیل ہے۔	اینٹ کا دیوار سے نکل جانا
کوئی مرد وہاں سے کوچ کر جائے گا یا کوئی عورت خاص گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔	



رویف ”ب“

تعبیر

خواب

اپنے دشمن سے مال پانے کی دلیل ہے۔	بچھو کا گوشت کھانا
اس کا کوئی دشمن ایسا ہے جو باتیں صاحب خواب کی لوگوں کو غیبت میں پہنچاتا ہے۔	بچھو کو لحاف و کپڑے
یہ تمام مال دستیاب ہونے کی دلیل ہے اور کوڑھ سفید داغ کا دیکھنا۔	وہ چیز میں گھسے دیکھنا
یہی مال پر دلالت کرتا ہے۔	بدن میں ناسور دانے
اگر بال زیناف کم دیکھے مال پاک اور حلال ملنے کی دلیل ہے اور بکثرت یا دراز دیکھنا حرام مال کی دلیل ہے۔	ذنب قرحہ زخم دیکھنا
اگر ایسی حالت میں خلق اس کو ملامت نہیں کرتی تو تعبیر اس کی بہتر ہوگی کہ کشائش اور نجات مرض سے ہوگی اور اپنے گناہوں سے پاک ہوگا اگر قرض دار ہے تو قرض ادا ہوگا۔	بال زیناف کم یا زیادہ دیکھنا
بچھو بمنزلہ دشمن کے ہے چنانچہ جس نے دیکھا کہ بچھو نے ڈنک مارا ہے تو اس کا کوئی دشمن ہے کہ زبان سے اس کے تئیں ایسی غیبت میں باتیں کرے گا جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔	برہنہ بدن دیکھنا
دشمن پر ظفر یا ب ہونے کی دلیل ہے۔	بچھو کا ڈنک مارتے دیکھنا
	بچھو کا مار ڈالنا

پچھو سے دوسروں کو کٹوانا
بزرگان زاهد عابد مرید نیک
یا فقرا کو دیکھنا

صاحب خواب دوسروں کی غیبت کرتا ہے پر ہیز کرے۔
عزت و توقیر بڑھے اور نعمت دنیا ملنے کی دلیل ہے اور
بادشاہ کے ساتھ کھانے کی بھی یہی تعبیر ہے۔

بادشاہ کو مہربان دیکھنا

ملک خراب ہو۔
بادشاہ کی میت دیکھنا

دوستوں سے فائدہ ہو غیب سے روزی نصیب ہو ہمیشہ
بادام کا دیکھنا

خوش رہے۔
باغ کا دیکھنا

اگر خشک ہے تو باعث رنج ملال ہے اگر سرسبز دیکھے
باغ کی سیر کرنا

موجب دولت و جاہ و اقبال ہے۔
باغ کا دروازہ بند کرتے دیکھنا

جنتی ہونے کی دلیل ہے یا کسی حسینہ عورت سے کچھ
باغ آم انگور وغیرہ

حاصل ہونے کی امید ہے۔
میوہ دار کا لگانا خواب میں

رزق میں تنگی ہو یا طلاق عورت کو ہو۔
بادشاہ کو غصہ میں دیکھنا

شرف و عزت کی دلیل ہے اور خاردار درختان کا لگانا
بالوں کو کھلے ہوئے چہرے

برعکس اس کے ہے۔
تک دیکھنا

رنج و غم کی نشانی ہے۔
بال سر کے گرتے دیکھنا

تو نگر و مفلس دونوں کیلئے وبال جان ہے۔

دولت ملنے کی دلیل ہے اور اگر قرض دار ہے تو اوائلی
قرض کی دلیل ہے۔

بال اپنے ہاتھ سے موٹنا خلق کی نظروں سے گرجانے کی دلیل ہے۔

اور سر صاف کرنا

عورت کیلئے شادی کی دلیل ہے۔

بال سر کے کھلے دیکھنا

سبب خیر و برکت و زیادتی عمر و حرمت کی دلیل ہے اور اگر

بال سر کے سفید دیکھنا

سیاہ دیکھے تو غربت کیلئے انبہا ہے اور غنی کیلئے خطرہ ہے

بال سر کے دراز دیکھنا

اگر صاحب خواب تاجر ہے تو اس کے مال میں زیادتی

ہوگی اور اگر وہ کاشتکار ہے تو اس کی کاشت میں افزونی

ہوگی اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کے لئے بہتر

نہیں ہے۔

صاحب کیلئے رنج و غم کی نشانی ہے۔

بال داڑھی حد سے زائد دیکھنا

اگر روغن خوشبودار ہے اور حد مقدار پر لگایا ہے تو صاحب

بال و سر داڑھی

خواب کی زینت خوب ہوگی اور زائد روغن لگایا ہے یعنی

میں روغن لگانا

چہرے پر بہا ہے تو تعبیر اس کی برعکس ہے اچھی نہیں ہے

بال داڑھی منڈ جانا

جو مرتبہ لوگوں کے درمیان اس کا ہے وہ جاتا رہے گا اسی

طرح اگر سر و داڑھی کے بال منڈ گئے یا نوچ ڈالے گئے

ساتھ ہی اس کا قرض ادا ہوگا۔

بال سفید و سیاہ

فرزند پیدا ہونے کی دلیل ہے اگر یہ خواب عورت دیکھے

یعنی کھڑی دیکھنا

تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔

تو اس کا شوہر غائب حاضر ہوگا اور اس کے شوہر نہیں

بال سر کے پریشان اگر

ہے تو نکاح کرے گی۔

عورت دیکھے

بال سر کے اگر عورت دیکھے تو اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا اور اگر مرد دیکھے اپنی عورت کے بال سر کے موٹے ہیں تو اس کے اولاد نہ ہوگی۔

بال زبان پر دیکھنا رنج و غم کی نشانی ہے۔
 بال داڑھی میں نکلے ہوئے تو اس کا شوہر آجائے گا اور اگر موجود ہے تو سفر کرے گا اور جو بیوہ ہے تو نکاح کرے گی اور جو حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا سردار ہوگا۔

عورت دیکھے نابالغ کو دیکھنا بال داڑھی کے پہلے مر جائے گا۔

بازو کھلے کسی عورت تو صاحب خواب مال دنیا سے آسودہ ہو جائے گا۔
 اجنبی کو دیکھنا

بول و براز خواب میں دیکھنا مال حرام ملنے کی دلیل ہے۔
 بیل فریبہ کا دیکھنا کہ تو موافق فریبی اس بیل کے صاحب خواب کو نفع بہت ہوگا۔

ہاتھ آیا ہے بیل برنگ زرد یا سرخ کا دیکھنا کسی شہر یا موضع میں آتے ہوئے دیکھنا اور بلا وارث کے ہے تو اس پر مرض آنے والا ہے۔
 بکریاں بہت پالنا کسی جماعت کا حاکم ہونا۔

بیمار بچلی اور مینہ دیکھے تو شفا حاصل ہو اور جو مقروض ہو تو قرض ادا ہو جائے اور قیدی ہو تو چھوٹ جائے۔

باغ سبز دیکھنا اگر غیر معلوم ہے تو اسلام اور خوشخبری ہے۔

بیل کالا غرد دیکھنا

بیماری یا موت یا گرانی غلہ کی دلیل ہے۔ اور یہی تعبیر
گوشت سے ہے۔

بکری چرانا

حکومت ہاتھ آئے اور دودھ پینا مال سے تعبیر ہے۔

بکریوں کا گلہ دیکھنا

حکومت ہاتھ آئے عزیز واقارب میں باعزت ہو۔

بھیڑی دیکھنا

نکاح کی دلیل ہے، بھیڑ کو قتل کرنا عورت کو طلاق دینا ہے

بیل کا گوشت کھانا

روزی مشقت سے ملے گی مگر حلال ہوگی۔

بھینس کا دیکھنا

رنج و غم کی دلیل ہے۔

باران رحمت ہونا

سال فراخ ہو غلہ ارزانی پر ہے۔

بھیڑ یا دیکھنا

حاکم وقت ظالم سے سامنا ہو۔

بالائی کھانا

کہیں سے روپیہ ہاتھ آئے مفت عیش اٹھائے اور بعض

نے تعبیر اس کے برعکس کہی۔

دشمن پر فتح پائے۔

باز چڑیا دیکھنا

حیرانی و پریشانی و قرضداری کی نشانی ہے۔

بھوکا آپ کو دیکھنا

کثرت نعمت مال کی دلیل ہے۔

باورچی کا دیکھنا

بیابان میں چلنا کھانا

دشمن سے امن رہنے کی دلیل ہے۔

بندر یا بلی کا دیکھنا

تقویٰ پر ہمیزگاری اعمال نیک اور بہشت میں بعد مرنے

بہشت یا بہشت کی

کے داخل ہو نیکی کی دلیل ہے۔

نعمتوں کو دیکھنا

خوب نہیں صاحب خواب کیلئے

پاجرہ دیکھنا یا کھانا

دنیا میں عیش و عشرت سے گزر رہو۔

بکری کا دودھ پینا خراب

بالوں میں کنگھی کرتے دیکھنا خوب نہیں ہے۔

بندر خواہ بلی کا بچہ مارنا کم عمری کی دلیل ہے یا بیماری کی علامت ہے۔

بزاز کو دیکھنا بزاز کو دیکھنا مرتبہ اعلیٰ کی دلیل ہے اور یہ

دیکھے کہ بزاز کپڑا فروخت کرتا ہے تو کسی سے دشمنی

پیش آئے۔



رویف ”پ“

تعبیر

پاکیزہ مال سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔

دین و دنیا میں ترقی ہو۔

مال تلف ہو جانا قدرے باقی رہ جانا رنج اٹھانا۔

قیموں کی پرورش کرنے کی دلیل ہے۔

دنیا سے نفرت ہونیک کاموں کی طرف رغبت ہو۔

حیرانی و پریشانی کی نشانی ہے۔

روپیہ کثیر پائے مگر بلا ضرورت خرچ ہو جائے۔

دین سے خالی ہو مگر دنیا حصول ہو۔

عزت و آبرو بڑھنے کی دلیل ہے۔

خواب

پانی کانویں سے جوش کرنا

پانی کھاتے پیتے دیکھنا

پانی سے کنواں خالی ہو جانا

پانی کنویں سے نکال کر

درخت میں دینا

پل صراط دیکھنا

پیسہ پانا

پارہ پانا

پانخانہ پھرنا

پان کھانا

پر یاں دیکھنا علم و عرفان حاصل ہو اور ترقی دین و دنیا ہو۔

پیشاب خون کا گرنا پیٹ میں بچہ مر جائے یا عارضہ سخت اٹھائے صحت ہو جائے

اگر بیمار ہو تو صحت ہو مالدار پریشان ہو غریب کو آزادی ہو

دنیا کی حرص بڑھے دین میں خلل پڑے۔

اقل اس اور تر و ڈبڑھے۔

لڑکا پیدا ہو عزت بڑھے۔

سفر کی علامت ہے۔

دشمن پر فتح مندی کی دلیل ہے۔

دولت پانے کی دلیل ہے اور رفعت بلندی کی نشانی ہے

کسی ظالم کی بنیاد کو ڈھائے گا یا کسی کو ہلاک کرے گا۔

دولت ملنے کی دلیل ہے۔

اگر باغ میں دیکھے فرزند پیدا ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو

دونوں جہاں میں بہتری ہو۔

پانی کے اندر کھڑے ہونا

تندرستی کی دلیل ہے۔

بزرگی کی دلیل ہے۔

راحت و آرام ملے۔

خوشی کی علامت ہے اور نیک نامی کی دلیل ہے۔

زوجہ کو طلاق دے گا۔

زیادہ رزق کی دلیل ہے۔

رنج و غم کی نشانی ہے۔

پیشاب خون کا گرنا

پیپ بدن سے جاری دیکھنا

پیا سا آپ کو دیکھنا

پہننے کا کپڑا پرانا دیکھنا

پیوندی بید دیکھنا

پاؤں دیکھنا

پہاڑ دیکھنا

پہاڑ پر چڑھنا

پہاڑ کو ڈھانا

پانی پر چلنا

پھول دیکھنا سرخ

پانی کے اندر کھڑے ہونا

پرندوں کا دیکھنا

پھول دیکھنا سفید

پھول گلاب چنبیلی وغیرہ کا دیکھنا

پاشجامہ پھٹا دیکھنا

پیالہ دیکھنا

پاؤں زمین پر مارنا پاؤں دیکھنا

پیٹ خواہ پیٹھ کا دیکھنا تجارت سے نفع ہو، معین و مددگار غیب سے پیدا ہو مال اور فرزند سے زینت ہو۔

پانی پر راستہ چلنا کسی پر غالب ہونے کی دلیل ہے۔

پہننا نعلین اگر خواب میں کوئی شخص جوتی پہنے گا تو عورت خوبصورت

سے عقد کرے گا اور اگر جوتی پیر سے اتار دے گا تو عورت

کو طلاق دے گا۔

تعبیر اس کی مال حرام سے ہے لیکن جتنی بدبو زائد ہوگی

اتنا ہی مال حرام کا ہوگا اور جتنی بدبو میں کمی ہوگی گناہوں

میں بھی کمی ہوگی۔

عورت بد صورت ملے یا لڑکی پیدا ہو مال کثرت سے ملے

بلند مرتبہ پر پہنچنے کی دلیل ہے۔

خیر کثیر اور علوم مرتبت پر دلیل ہے۔

اگر وہ غیر معلوم ہے تو اسی سال کے کمال اور نقصان سے

تعبیر ہے۔

اگر سختی میں ہے تو حق تعالیٰ اس کو کشائش دے گا اور اگر

قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہوگا اور اگر مالدار ہے تو

اس کے مال میں نقصان و زوال آئے گا بقدر زیادتی

پیشاب کے۔

رزق میں افزونی ہو اگر نوچے پھٹے ہوں تو پریشانی کی

دلیل ہے۔

پگڑی دیکھنا خواہ باندھنا

پہاڑوں پر چڑھنا

پھلواڑی کی سیر کرنا

پیرزن کو دیکھنا

پیشاب کرتے دیکھنا

پائنتانہ دیکھنا

رویف "ت"

تعبیر

خواب

جس جگہ وہ ستارے گرتے دیکھا ہے اس جگہ نزول عذاب الہی ہو۔

تاروں کا زمیں پر گرتے دیکھنا

اگر صاحب خواب تو نگر ہے محتاج ہو جائے گا اور اگر محتاج ہے تو شہید ہو جائے گا۔

تاروں کا ٹوٹے دیکھنا آسمان پر

صاحب رتبہ ہو یا حاکم صاحب عزت ہو۔

تخت پر بیٹھنا یا دیکھنا

خست اور بخل کی دلیل ہے۔

تھوک بہتے منہ سے دیکھنا

بیوتوں میں عزت پائے امید ولی بر آئے۔

تیر مارنا

مال ملنے کی امید ہے یا ترقی اقبال کی دلیل ہے۔

تیر چڑیا دیکھنا

زیادتی زندگی کی دلیل ہے۔

تابوت جنازہ اپنا دیکھنا

رنج و غم کی نشانی ہے۔

تبسم ہونا یعنی مسکرانا

آسیب میں مبتلا ہو۔

تعویذ پانا

بزرگی پائے اور بزرگوں میں شامل ہو جائے۔

تکیہ چبانا

چوری میں مبتلا ہو۔

تل چبانا

ترقی دولت ہو۔

تنور پانا

اگر کسی بزرگ سے پائے تارک الدنیا ہو جائے۔ بادشاہ

تاج دیکھنا یا پانا

سے پائے حکومت ملے۔

عورت یا بادشاہ خواہ اولاد سے مراد ہے یا افزائش

تلوار دیکھنا

جو دو سٹخا سے مراد ہے۔

تلوار سے لڑنا یعنی مقابلہ کرنا یہ رتبہ بلندی کی دلیل ہے۔

تلوار کا ملنا اور تلوار کا بلند کرنا اگر کسی نے دیکھا کہ تلوار کو بلند کیا ہے اور کسی کو اس سے

مارا نہیں ہے تو صاحب خواب کا رتبہ بلند ہوگا یا اس کے

گھر دختر نیک پیدا ہوگی۔ پسر کے مرنے پر دلیل ہے

اور اگر تلوار کا قبضہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا پدر خواہ چچا مر

جائے گا اسی طرح اگر کسی نے دیکھا کہ تلوار کی نوک

ٹوٹ گئی ہے تو اس کی دادی خواہ ماں یا خالہ کا انتقال ہوگا

یا کوئی عورت قریب رشتہ کی فوت ہوگی۔

صاحب خواب کے نفع کی راہ بند ہونے کی دلیل ہے۔

تلوار کا کند ہو جانا دیکھنا

غلبہ عزت و شرف کی دلیل ہے۔

تیر پر قابض ہو یا تیر پانا

کوئی کتاب یا تحریر ایسی جگہ لکھے گا جس سے لوگوں

تیر مارنا

کورنج ہوگا۔

دشمن پر غلبہ پائے۔

تیر معہ کمان کے پانا خواب میں



رویف "ٹ"

تعبیر

کہیں کا سردار ہو آمدنی کثیر ہو۔

عورت نیک بخت ہاتھ آئے۔

سفر تجارت کا کرے۔

حکومت یا سرداری کی دلیل ہے۔

رتبہ بلند ہو عزت بڑھنے کی دلیل ہے ایسی کسی بلندی پر

چڑھنا بھی رتبہ کی بلندی دلیل ہے۔

خواب

ٹڈی دیکھنا

ٹھلیا دیکھنا

ٹو پر سوار ہونا

ٹوپی کا دیکھنا

ٹیلوں پر چڑھنا



رویف "ٹ"

تعبیر

صاحب خواب کے لئے بہتر نہیں ہے۔

کوئی کام اختتام کو نہ پہنچنا، نا کام رہ جانا۔

خواب

ٹورنیل دیکھنا

ٹمر خام دیکھنا



ردیف "ج"

تعبیر

خواب

کہیں فریب میں پھنسنے کی اور نقصان کی دلیل ہے۔	جنات کے ساتھ آپکو دیکھنا
حلال روزی نصیب ہوگی مگر تھوڑی مصیبت کے بعد۔	جو کا دیکھنا
اللہ کی یاد میں مشغول ہونے اور مال ملنے کی دلیل ہے۔	جواہر کا دیکھنا
عالم ذی وقار ہو قوم کا سردار ہو خواہ خزانہ ملے۔	جھنڈا دیکھنا
تو انگر صاحب عزت ہونے کی دلیل ہے۔	جھنڈا سفید کا دیکھنا
کہیں جا کر مصیبت اٹھائے مگر سلامت گھر واپس آئے	جھنڈا سبز
نیک نام مشہور ہو اور خوشی حاصل ہو۔	جھنڈا سرخ
بیمار ہو کر صحت حاصل ہو۔	جھنڈا زرد
جدھر جائے نظر یاب ہو لوگ عزت کریں۔	جھنڈا سیاہ
ترقی مال اور زینت دنیا کی علامت ہے۔	جماع کرتے دیکھنا
جس کام میں مایوس ہو چکا ہے اس کا انجام ہو۔	جماع مردے سے کرنا
راحت و آرام سے زندگی بسر ہو عزیزوں سے نفع ہو۔	جماع مردے کو اپنے ساتھ کرتے دیکھنا
دافع رنج و الم ہو مسرت کا سامنا ہو اور خشک دیکھنا	جنگل ہرا دیکھنا
برعکس ہے۔	
دنیا و آخرت میں عزت ملنے کی دلیل ہے۔	جہاد کرنا
بیماری کی علامت ہے۔	جو تک دیکھنا

جوان دیکھنا

کمزوری کی علامت ہے۔

جوتا پہننا

کنیز خواہ حسینہ عورت سے وصل ہو۔

جوتا تنگ پہننا

اپنی عورت سے جنگ کرنے کی دلیل ہے۔ یعنی عورت تنگ کرے۔

جوتا پیر سے اتارنا

عورت کو طلاق دینے پر دلیل ہے۔

جوتا کا ٹوٹ جانا یا پھٹ جانا

صاحب خواب کی زوجہ کا انتقال ہو نہایت ملال ہو۔

جوتا ایک پھٹ جانا یا چھن جانا

برادر حقیقی کے مرنے کے آثار ہیں۔

جامہ فیروزی کا پہننا

صاحب خواب کیلئے نہایت مبارک ہو نصیبہ زور آور ہو۔

اسی طرح اگر کسی نے دیکھا کہ جامہ سیاہ رنگ کا پہنا ہے تو بھی اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔

جامہ سرخ کا پہننا

صاحب خواب کو حاکم خواہ بادشاہ سے خطرہ ہو۔

جامہ سبز

صاحب خواب کو نعمت زر حاصل ہونے کی دلیل ہے۔



رویف ”چ“

تعبیر

خواب

مال کثیر ہاتھ آنے کی دلیل ہے۔	چیونٹیوں کو گھر آتے دیکھنا
خیر و برکت اور نعمت پر دلیل ہے۔	چشمہ دیکھنا
کسی بزرگ سے رنج پہنچنے کی دلیل ہے یا کوئی بزرگ سفر سے گھر واپس آئے گا۔	چھت کو اپنے اوپر گری دیکھنا
مال حلال پر دلیل ہے۔	چاندی کا دیکھنا
اپنی ہی لیاقت کے موافق عزت و بزرگی ملے یا کسی عورت حسینہ سے عقد ہو یا فرزند پیدا ہو۔	چاندی کی انگٹھی پہننا
درازی عمر اور تندرستی سے دلیل ہے اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی بھی دلیل ہے اور مفلس ہو تو تو نگری اور بیکار ہو تو یا کار ہونے سے بھی دلیل ہے۔	چراغ روشن دیکھنا
بزرگی و عقلمندی خواہ حکیم حکمت کی دلیل ہے۔ یا عورت ملے یا اولاد سے بھی دلیل ہے۔	چاند دیکھنا
غلہ کی گرانی ہو یا عورت کا اسقاط حمل ہو تو روزی تنگ ہو یا حاکم وقت پر کوئی آفت آئے۔	چاند گہن دیکھنا
منفعت اور دولت ملے عزت سے زندگی بسر ہو افزونی نعمت اور دولت ہو۔	چاندنی کھلی دیکھنا
اولاد پیدا ہونے کی بشارت ہے۔	چاند کو آغوش میں لینا

چاند کا اپنے پاس آتے دیکھنا لڑکا پیدا ہونے کی بشارت ہے یا کہیں کا حاکم وقت ہو۔
 چوہا دیکھنا عورت بد سیرت اور بد صورت پائے تمام عمر رنج اٹھائے
 چوکھٹ چومنا عورت کا تابع ہو راہ سے بے راہ ہو یا کسی کی محبت میں
 ذلیل و خوار ہو۔

چھال درخت کی کھانا اقلای کی دلیل ہے۔
 چادر دیکھنا نیک بی بی ہاتھ آئے۔
 چھت دیکھنا رتبہ بلند ہو صاحب دولت ہو۔
 چاول دیکھنا بعد چندے مصیبت راحت حاصل ہو۔
 چھوٹے چھوٹے پرندوں کو دیکھنا خوش دلی کی دلیل ہے۔
 چھینکنا جس مطلب میں شک پڑ جائے وہ شک بے شک و شبہ
 پوری ہو۔

چھاگل دیکھنا صاحب خواب کیلئے بہتر نہیں۔
 چھڑی دیکھنا دشمن خود مارا جائے۔
 چھاتی دیکھنا شادی ہو کثرت اولاد لڑکیوں کی ہو۔
 چیتے کے مقابل سے فتح مندی اور مقصد حاصل ہونے کی دلیل ہے۔
 بھاگتے دیکھنا
 چوہے کو دیکھنا کہ کوئی چیز تو صاحب خواب کی عمر کے نقصان کی دلیل ہے۔
 گھر کی کھاتا ہے
 چیل کا دیکھنا درازی بیماری ہو۔
 چھاچھ لکر پیدا ہونے کی دلیل ہے۔

چھوٹی ہونا داڑھی کا عزت و آبرو کم ہونے کی دلیل ہے۔
چکور کا دیکھنا عورت خوبصورت اور پارہہ پارہہ دلیل ہے۔

ردیف "ح"

تعبیر

خواب

خیر و برکت و نعمت پر دلیل ہے۔

حوض کا دیکھنا

فکر و غم سے رہا ہونے کی دلیل ہے۔

حمام میں غسل کرنا

عورتوں سے رنج پہنچے۔

حمام بلا پانی کے دیکھنا

روزی حلال اور طریق پسندیدہ نیک کاموں پر دلیل ہے

حلال جانوروں

اور جن جانوروں کا گوشت حرام ہے۔ اس کا دودھ پینا

(گائے بکری وغیرہ)

بیاری اور فکر کی دلیل ہے۔

ہم چشموں میں توقیر و عزت ہو۔

حرم شریف دیکھنا

اگر بیمار ہے صحت کی دلیل ہے اور مغفرت کی دلیل ہے۔

حیض سے پاک ہو کر غسل کرنا

اس سے کوئی گناہ سرزد ہونے کی دلیل ہے۔

حیض سے نہ ہو اور حائض دیکھے

دشمن تباہ ہوں یا عورت نیک ہاتھ آئے۔

حمام بنانا

حاکم وقت سے نفع کی امید ہے یا کار خیر کرنے کی امید ہے

حلال کرنا جانوروں کا

جہالت سے دور ہو راحت حصول ہو۔

حلوہ کھانا

خاندان میں کوئی آفت آئے

حجامت بنوانا

اگر کوئی شخص قلعہ میں محصور ہو تو سردار قوم یا نئے یاروں

حصار یعنی قلعہ کا دیکھنا

سے ہم آغوش ہو یا دین کا محافظ ہو۔

حمام میں پیشاب کرنا
 حجام کو دیکھنا
 حمار یعنی گدھے کا
 خواب میں دیکھنا
 مریض ہو یا کوئی اور سختی اٹھائے۔
 مالدار کیلئے اچھا نہیں ہے مال کو نقصان ہو اور کوئی رنج ہو
 اگر حمار پر سوار دیکھے اور حمار کو اپنے قبضے میں دیکھے تو اس
 کی کوشش کامیاب ہے جو وہ کر رہا ہے اور تعبیر مال و زر
 سے بھی ہے۔



ردیف ”خ“

تعبیر

خواب

عیش حاصل ہونے پر اور درازی عمر پر دلیل ہے۔
 سفر کی دلیل ہے۔
 مال بہت ملنے کی دلیل یا تو معاش کی تکلیف اٹھانے کی
 نشانی ہے۔
 دولت مند ہونے کی دلیل ہے۔
 سخی ہو فقراء کو فائدہ پہنچے اولاد زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔
 تنگی معاش کی دلیل ہے۔
 گناہوں سے پاک ہونے کی دلیل ہے۔
 اور روپیہ و نعمت سے خوش ہونے پر۔
 عورت ملنے سے تعبیر ہے۔
 خراب عورت کا مال ہاتھ آئے اور بے جا صرف ہو جائے

خوان کھانے سے بھرا دیکھنا
 خچر کو خواب میں دیکھنا
 خاک کا کھانا
 خاک پر چلنا
 خمیر کا دیکھنا
 خچر کا دودھ پینا
 ختنہ کرنا یا کرتے دیکھنا
 خرگوش دیکھنا
 خچر کا گوشت کھانا

مالک خچر کی عورت سے خیانت کرنا۔	خچر پر سوار ہوتے دیکھنا
دولت ہاتھ آنے کی دلیل ہے لیکن جلد ہی صرف ہونے کی بھی سبیل ہے۔	خر بوزہ کھانا
حاجی ہونے کی دلیل ہے اور جو دُعا کرے قبول ہونے کی بھی اُمید ہے۔	خر ما کھانا
اگر کسی نے دیکھا کہ جسم سے خون یا پیپ جاری ہے اور تمام جسم آلودہ ہو گیا ہے تو مال حرام ملنے کی دلیل ہے۔ جس حیثیت سے خون یا پیپ جاری تھا کی بیشی۔	خون اپنے جسم سے بغیر زخم کے بہتا دیکھنا
رنج و غم کی نشانی ہے اور رنج و غم کا دیکھنا نہایت شادمانی ہے۔	خوش آپ کو دیکھنا



رویف ”و“

تعبیر

خواب

راحت و آرام اور عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔	دانت گرتے دیکھنا
پیماری کی علامت ہے۔	دانت سونے چاندی کا دیکھنا
نیکی فال پر دلیل ہے۔	دانتوں کو روشن یا خوبصورت دیکھنا
کوئی عزیز مر جائے یا کوئی رنج کا سامنا ہو۔	دانت اپنا گرتے دیکھنا
مرنے کی دلیل ہے۔	دانت سیاہ دیکھنا
صاحب خواب کی وفات کی نشانی ہے یا باعث ہلاکت و	دانت پتھر یا موم یا

لکڑی کے دیکھنا

مصیبت ہے۔ صدقہ دینا چاہئے واضح ہو کہ دانتوں کا دیکھنا گھر کے آدمیوں پر دلیل ہے جیسے دو اوپر کے دو نیچے کے سامنے والے ان چاروں کو دیکھنا بیٹوں اور بھائیوں اور بہنوں سے منسوب ہے اور جوان چاروں کے متصل ہیں۔ ان دانتوں کا دیکھنا ماموں اور چچا سے نسبت رکھتا ہے اور واڑھیں جن سے کھانا کھایا جاتا ہے اوپر کی باپ کے عزیزوں سے منسوب ہیں اور نیچے کی واڑھیں ماں کے عزیزوں سے منسوب ہیں اسی طرح دانتوں کا نفع نقصان جو جس کے طرف منسوب ہے تعبیر سمجھ لینا چاہئے رنج و مصیبت کی دلیل ہے۔

دانت چاندی کا دیکھنا

اگر عالم ہے دولت آخرت پاوے گا اگر دنیا کا عالم ہے تو مال دنیا سے مالا مال ہے۔

درس دینا

عورت مالدار ہاتھ آئے یا کسی امیر سے عزت ملے۔

دو شالادیکھنا یا پانا

عورت دیکھے مرد جوان سے عقد ہو۔

دیگ دیکھنا

مرد دیکھے عورت حسینہ ملے۔

دسترخوان خالی دیکھنا

پریشانی کی دلیل ہے۔

ترقی نعمت کی دلیل ہے۔

دسترخوان کھانے سے بھرا دیکھنا

عورت مالدار سے عیش نصیب ہو یا زن کے حاملہ ہونے کی دلیل ہے۔

دوات دیکھنا

مصیبت یا پریشانی اٹھانے کی دلیل ہے۔

دودھ کھانا یا دیکھنا

غم و الم کی دلیل ہے۔	دہی کھانا
روپیہ ملے حاکم سے عزت ملے۔	درخت کے پتے دیکھنا
رتبہ بلند ہو بے حد نفع ہو اور اترتے وقت دیکھنا ذلت و خواری کی دلیل ہے۔	درخت پر چڑھتے دیکھنا
بیماری اٹھائے یا کسی بلا میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔	درخت آلو کا دیکھنا
گھر ویران ہو یا قرض میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔	دروازے کا جل جانا
اگر دو لڑکیاں ہیں دونوں مرجائیں گی شوہر کے گھر سے نکل جائیں گی۔	دروازے کے پٹوں کا گر جانا
جس حال میں ہے اس سے گر جائے گا۔ ذلیل و خوار ہونے کی دلیل ہے۔	دیوار سے گر پڑنا
عورت صاحب خانہ کے مرجانے کی دلیل ہے۔	دروازہ کا کھد جانا
اپنے مکان کے بیچنے کی دلیل ہے۔ یا صاحب کی زوجہ دوسرے سے نکاح کرے۔	دروازہ دوسرا بنانا
اپنے دین کو بیچتا ہے اور دنیا کو خریدتا ہے۔	درزی کو دیکھنا
مرتبہ بڑھ جائے حاکم وقت سے روپیہ ہاتھ آئے۔	دریا سے پانی پینا
موت کی دلیل ہے۔	دریا کے پار ہونا
بیمار ہے تو صحت ہو گناہوں سے پاک ہو کوئی خوشی کی بات سننے کی دلیل ہے۔	دریا خواہ نہر میں غسل کرنا
صاحب خواب کی موت کی نشانی ہے۔	دانت پتھر یا لوہے خواہ لکڑی کے دیکھنا

دانت سونے کے دیکھنا	مرض میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔
دریا یا نہر کی دلدل میں پھنسنا	رنج و غم کی نشانی ہے۔
دریا دیکھنا	دولت و ترقی جاہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔
دریا کی موج دیکھنا	مشقت اٹھانے کی دلیل ہے۔
دریا کو تاریک دیکھنا	سختی کی نشانی ہے۔
دو پٹہ زناتہ دیکھنا	عورت کو شوہر نیک ملے عزت سے بسر ہو۔
داڑھی نوچی دیکھنا	عورت سے جنگ ہو نہایت تنگ ہو۔
ڈول دیکھنا	اگر خالی ہے تو پریشانی ہے اور بھرا دیکھے تو شادمانی ہے۔
داڑھی گھنی دیکھنا	اگر مفلس ہے تو پریشان حال ہو اور تو نگر ہے تو اور خوشحال ہو۔
داڑھی سفید دیکھنا	عزت و وقار کی دلیل ہے۔
داڑھی سیاہ دیکھنا	ہمیشہ دولت اقبال گھر کا غلام رہے۔
داڑھی نکلی ہوئی عورت دیکھے	اگر بیوہ ہے شادی ہوگی اگر شوہر سفر میں ہے واپس آئے گا اور اگر موجود ہے سفر کرے گا اور جو حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا قوم کا سردار ہوگا۔
داڑھی کا دراز ہونا	عزت و مرتبہ زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔
داڑھی کا چھوٹا دیکھنا	عزت و آبرو کم ہونے کی دلیل ہے۔
داڑھی لڑکے کو اپنی نکلی ہوئی دیکھنا	قبل بلوغت انتقال ہو جائے گا۔
داڑھی و سر کو منڈا دیکھنا	رنج و مصیبت شدید اٹھانے کی دلیل ہے۔
دہنی و نہبہ کا دیکھنا	اگر دہنی کا مالک ہوا ہے یعنی اس کے ہاتھ آئی ہے تو اس

کو عورت نیک معہ مال ملنے کی دلیل ہے۔

صاحب خواب کیلئے اس کی بیوی سے کوئی بات درمیان

میں ہوگی جس سے بے حد ناخوشی درمیان پیدا ہوگی۔

اگر دلہن صاحب خواب کو پہچانتی ہے تو گویا اسی سے عقد

ہوگا اور اگر عروس صاحب خواب کے نامزد ہوئی بدون

پہچان و معرفت کے تو صاحب خواب کی موت آئے گی،

دلیل ہے شہید ہو کر واصل الی اللہ ہوگا۔

مال ملنے کی دلیل ہے لیکن بے جا صرف ہوگا۔

فکر و غم کے پیدا ہونے کی دلیل ہے۔

دولت و عزت سے مراد ہے۔

نیک عمل کرنے کی دلیل ہے۔

بغض و عداوت اور معاصی کی دلیل ہے۔

دینی کا گھر سے نکل جانا

دولہا اپنے آپ کو دیکھنا

دیوانہ اپنے آپ کو دیکھنا

وہی چھا چھ وغیرہ دیکھنا

دستار یعنی پگڑی

دھننے کو دیکھنا

دھوئی کو دیکھنا



ردیف ”ذ“

تعبیر

مرشد یا عابد خواہ موحد ہونے کی دلیل ہے۔

کثیر اولاد ہوگا، اگر عورت نہیں تو زن جمیلہ سے نکاح

کرنے کا، عورت دیکھے لڑکا پیدا ہو۔

اولاد مر جائے گی یا خود صاحب خواب کی موت کی دلیل ہے

خواب

ذکر خدا کرتے دیکھنا

ذکر یعنی اعضائے تناسل

کا دراز دیکھنا

ذکر کا کٹنا ہوا دیکھنا

رویف ”ر“

تعبیر

خواب

نیک صالح ہونے کی دلیل ہے اور حکومت آنے کی دلیل ہے۔

روزہ رکھنا

راہ دین ہاتھ آئے دوسروں کو بھی راہ حق دکھائے۔
خوشی کی علامت جاگنے پر ہے۔

رسی دیکھنا

رونا خواب میں

روزی حلال ملے یا غلام خیر خواہ سے دلیل ہے۔

رکابی دیکھنا

غیبت و برائی سے روزی ملے تنگی معاش کی دلیل ہے۔

روپیہ ہاتھ میں لینا

دولت کی تمنا میں عرضائع ہونے کی اور نیکی نہ کرنے کی دلیل ہے۔

روپیہ بنانا

کسی جاہل سے رنج اٹھائے اور روپیہ صرف ہونے کی دلیل ہے۔

روپیہ ضائع کرنا

مال حلال ملنے پر دلیل ہے۔

روغنی روٹی کا دیکھنا

بیماری سے شفاء قرض داری سے ادائے قرض کی دلیل ہے

رعد کی کڑک ہمراہ بارش دیکھنا

حاکم کے غضب ناک ہونے کی دلیل ہے۔

رعد مع ہوا کے دیکھنا

تکلیف و مصیبت سے رہائی ہو بیماری سے شفاء قرض داری

رعد اور پانی کا ہمراہ دیکھنا

سے ادا ہونے کی دلیل ہے۔

شادمانی و خوشحالی کی دلیل ہے۔

رس کا دیکھنا

مرشد اچھا ہاتھ آئے راہ ضلالت سے چھڑائے۔

روشنی دیکھنا

رات کا دیکھنا	صدمہ اٹھائے اور چھپے راز کے کھلنے کی نشانی ہے۔
روٹی دیکھنا	تجارت میں فائدہ ہونے کی نشانی ہے۔
راکھ دیکھنا	بعد تھوڑی مصیبت کے راحت و آرام کی نشانی ہے۔
روباہ دیکھنا	(لومڑی) مکاری کی علامت ہے۔
رخسارہ دیکھنا	قدر بڑھے یا معشوق اچھا ہاتھ آئے۔
روغن سیاہ دیکھنا	سفر سے سلامت گھر واپس آنے کی علامت ہے۔
روغن زرد دیکھنا	رنج و غم کی نشانی ہے۔
ریگ دیکھنا	یعنی اڑتی ہوئی خاک مال بکثرت ملنے کی امید ہے۔
ریگ پر چلنا یا خاک اڑانا دیکھنا	بعد مصیبت کے راحت نصیب ہو یعنی کوشش کے بعد مال ہاتھ آئے فراغت سے اڑائے۔
روغن سر پر ملنا دیکھنا	اگر روغن اندازے کے موافق ہے تو سارے کام زیب و زینت پانے کی دلیل ہے اور جو اندازے سے زائد ہے تو فکر لاحق رنج و غم کی دلیل ہے۔
رونا خواب میں یا اپنے تئیں دیکھنا	خوشی کی دلیل ہے۔
ریگ و خاک آسمان سے برستے دیکھنا	جس جگہ یہ خواب دیکھے وہاں نعمت اور روزی فراخ ہونے والی ہے۔
روشنی چاند کی زمین پر پھیلی دیکھنا	وہاں کے باشندوں کو حاکم وقت سے نفع ہو، نیکی دلیل ہے
راستہ سیدھا دیکھنا	دین و اسلام پر دلیل ہے اور ٹیڑھا راستہ دیکھنا بے دینی پر دلیل ہے۔
روٹیاں بکثرت دیکھنا	دوستوں کے بکثرت ہونے کی دلیل ہے۔

رویف ”ز“

تعبیر

خواب

فکر و تردد جاتا رہے اور تجارت میں نفع کی نشانی ہے۔

زکوٰۃ دینا

زہد و تقویٰ کی نشانی ہے۔

زمزم پینا

کوئی مصیبت پیش آئی ہے یا مرض کی نشانی ہے۔

زبان سے لعاب گرتے دیکھنا

آفت رنج کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے زبان کو دراز یا

زبان پر بال جمے دیکھنا

کسی چیز سے بندھی ہوئی دیکھنا بھی رنج کی دلیل ہے۔

زینہ پر چڑھنا

ترقی کی نشانی ہے یا مرتبہ بلندی کی دلیل ہے۔

زنجیر دیکھنا

صاحب خواب کیلئے پریشانی آئی ہے اور یہی تعبیر خواب

میں زنجیر کے پکڑنے کی ہے۔

زمین پر بنا ڈالنا

دنیا میں نام ہو یا فرزند نیک تولد ہوا انجام نیک ہو۔

زمین میں آپ کو گڑتے دیکھنا

موت آئے یا زیادہ مصیبت اٹھائے یا سفر پیش آنے کی

دلیل ہے۔

حاکم وقت پر مصیبت آئے۔

زلزلہ دیکھنا

عمر دراز ہو۔

زندہ کو مردہ دیکھنا

نیک اور نیک نامی کی دلیل ہے۔

زاہد و عالم کو دیکھنا

خوشی و خرمی کی دلیل ہے۔

زندہ مردے کو دیکھنا

نہایت خیر و خوبی کی دلیل ہے۔

زمین کا بات چیت کرنا

دختر نیک اختر پیدا ہونے کی دلیل ہے۔

زمر و خواہ یا قوت کا دیکھنا یا پانا

زنجیر گردن میں بندھی دیکھنا عورت بد ذات سے سابقہ پڑنے کی دلیل ہے۔
 زینہ خواہ سیڑھی پر چڑھتے دیکھنا ترقی دین اسلام کی دلیل ہے اور کبھی ترقی دنیا سے بھی
 دلیل ہے۔

زرد سرخ بیل پر از بار کو کسی شہر اگر ایسے بیل کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس جگہ مرض آنے
 یا موضع میں داخل ہوتے دیکھنا کی دلیل ہے ورنہ بہتری کی سبیل ہے۔
 زنبور یعنی بھڑ اور شہد کی مرد سفلہ پن اور سخن چین کی دلیل ہے۔

مکھی دیکھنا

زمین کو طے کرنا

زہر کھانا

موت آنے کی دلیل ہے۔

غصہ کی دلیل ہے جو کام نہایت ذلیل ہے۔

زعفران یا جو شے خوشبودار ہو ان سب کا دیکھنا تعریف و ثنا اور نیک اور شریف دین
 اس کا دیکھنا پاک اور مال نیک زبان پارسا اور نیک خصلتوں کی نشانی
 ہے اور بد بو کی چیزیں اس کے برعکس جاننا چاہئے۔

زرد سرخ کا دیکھنا اگر زرد سرخ کسی صورت سے ہاتھ آئے تو فرحت و
 خوشی کی دلیل ہے اور کسی صورت سے اپنے سے دوسری
 جانب کو جاوے تو صدقہ دے ورنہ مصیبت آنے کی
 نشانی ہے۔

زمین دیکھنا نعمت دنیا حاصل ہونے کی دلیل ہے۔

زمین کھودنا مٹی کھانا تکلیف سے بسر اوقات ہونے کی دلیل ہے۔

زمین کو ہلتے دیکھنا اگر عورت حاملہ دیکھے اسقاط حمل ہو اور مرد دیکھے تو عتاب
 حاکم میں گرفتار ہو۔

زمین کو برابر دیکھنا	دولت ملنے کی دلیل ہے۔
زمین کو بولتے دیکھنا	تمام مقاصد دین و دنیا ملنے کی دلیل ہے۔
زعفران دیکھنا	مال ملنے یا نیک عورت ملنے کی دلیل ہے۔
زیور دیکھنا	عزت و آبرو پانے کی دلیل ہے۔
زرہ دیکھنا	رتبہ بلند ہو اور آفات سے بچنے کی دلیل ہے۔
زبانی لمبی دیکھنا	فحش گویائی کی دلیل ہے۔
زبان منہ سے باہر نکلی دیکھنا	تہمت لگنے یا شرمندگی اٹھانے کی دلیل ہے۔



رویف ”س“

تعبیر

خواب

سورۃ الحمد کا پڑھنا دعا قبول ہونے کی اور شاد و مسرور ہونے کی دین و دنیا میں دلیل ہے یا عقد کی سبیل ہے۔	سورہ فاتحہ کا پڑھنا
تمام عمر رزق سے آسودہ رہنے کی دلیل ہے۔	سورۃ بقرہ کا پڑھنا یا سننا
اس کے تلاوت کرنے والے سے بروز حشر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔	سورۃ حشر کا پڑھنا

دونوں جہاں میں خیر کثیر کی دلیل ہے۔	سورۃ کوثر
تمام امور آسان ہونے اور کشمکش ہونے کی اور اسلام کی فرمائندگی کی دلیل ہے۔	سورۃ لہب

سورۃ الم نشرح
توحید پر قوی ہونے کی اور پاک زندگی بسر ہونے کی
دلیل ہے۔

سورۃ فیل
دین اسلام کے ہاتھ پر فتح ہونے کی دلیل ہے۔

سورۃ اخلاص
زندگی میں ترقی ہو۔ یہاں تک کہ اس کے سامنے سب

اعزہ و گھروالے مرجائیں اور یہ صاحب خواب تہارہ جائے
برائیوں سے بچنے کی نشانی ہے۔

سورۃ بقرہ کا پڑھنا

جملہ بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دلیل ہے۔

سورۃ ناس کا پڑھنا

اگر عقد نہیں ہوا ہے عقد عورت زردار سے ہو اور رزق

سورج کا دیکھنا

روزی میں افزونی کی نشانی ہے۔

مرض یا کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔

سورج پر اندھیرا دیکھنا

ترقی رزق اور رتبہ بلندی کی دلیل ہے۔

سورج کی روشنی خوب دیکھنا

ماں باپ کے مرنے کی دلیل ہے۔

سورج کو گہن میں دیکھنا

خانہ آبادی ہو یا حاکم وقت سے خاص فائدہ پہنچے۔

ستاروں کو روشن دیکھنا

شہادت کا درجہ نصیب ہو یا غنی مالدار ہو۔

ستاروں کو ٹوٹے دیکھنا

فتنہ فساد برپا ہونے کی دلیل ہے۔

ساگ دیکھنا

غنی مالدار ہونے کی یا جنتی ہونے کی دلیل ہے۔

سفید لباس پہننا

مال مفت ہاتھ آئے۔

سونے کی انگلی پہننا

سرداری ملے تنگی دور ہو جائے مال سے مالا مال ہونے

سونا پاتے دیکھنا

کی دلیل ہے۔

اچھا نہیں ہے صاحب خواب کیلئے بہتر نہیں ہے۔

سونا گلانا

سوتی میں دھاگہ ڈالنا	صاحب کیلئے تنگی معاش کی دلیل ہے۔
سراپنا جدا دیکھنا	حاکم کے عتاب میں مبتلا ہونے اور اپنے اقارب سے جدا ہونے کی دلیل ہے۔
سراپنے ہاتھ سے مونڈتے دیکھنا	خلق کی نظروں سے گرنے اور بے عزتی کی دلیل ہے۔
سر کے بال کھلے دیکھنا	اگر مسافر ہے تو وطن کو واپس آئے، عورت اگر کنواری ہے تو شادی ہونے کی دلیل ہے۔
سرسوں دیکھنا	تجارت میں نفع کثیر کی دلیل ہے۔
سرکا دیکھنا	نقصان کی دلیل ہے۔
سانپ گود میں لینا	لڑکا شیر پیدا ہو جس سے ہمیشہ تکلیف کا سامنا ہو۔
سانپ سے بات خوش سننا	دشمن سے نفع ہو اور رنج و غم دور ہو۔
سورد دیکھنا	نوکری کافر کی کرے، فسق و فجور میں مبتلا رہے۔
سانپ کا گوشت کھانا	دشمن سے مال ملے لیکن بے جا صرف ہو جائے۔
سرنگاد دیکھنا	نقصان مال کی دلیل ہے۔
سرمہ لگانا	مژدہ غیبی کی بشارت ہے یا مال پانے کی بشارت ہے۔
سانپ کا بچہ دیکھنا	ضرر ہے لیکن کم ضرر ہونے کی دلیل ہے اور کنبہ سے دشمنی بڑھنے کی دلیل ہے۔
ستاروں کا دیکھنا	تولد فرزند کی دلیل ہے۔
سر بلند اپنا دیکھنا	دولت اور مرتبہ اور بزرگی کی دلیل ہے۔
سر کے بال تراشے دیکھنا	اور سر چھوٹا دیکھنا اس کے برعکس ہونے کی دلیل ہے۔
	اگر فقیر ہے تو افلاس سے چھوٹنے کی دلیل ہے۔

سر کے بال اپنی عورت کے موٹنا اولاد نہ ہونے کی دلیل ہے۔

سیڑھی دیکھنا یا اس پر خواہ ترقی دین و اسلام پر دلیل ہے۔

زینہ پر چڑھنا

سر کے بال جھڑتے دیکھنا

سبزہ دیکھنا

خوشی حاصل ہونے اور قرض ادا ہو جانے کی دلیل ہے۔

اگر وہ نامعلوم جگہ ہے یا ایسی جگہ اگا ہے جہاں جنمے کی

عادت نہیں ہے جیسے رہنے کا گھر یا مسجد وغیرہ تو مرد خواہ

بطور مشارکت وغیرہ کے یا بطریق دامادی کے داخل

ہونے کی دلیل ہے۔

حق تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اسلام میں ترقی کرنے

سے دلیل ہے۔

سیر و تفریح کرنا باغ یا

پھلواری میں دیکھنا

سروریش میں روغن ملنا

اور تمام بدن میں ملنا

اگر موافق ملنے کے ہے تو خیر و برکت کی نشانی ہے۔

اور اگر اندازے سے زائد ملتا لگتا ہے مثل ٹمکنے یا بہنے

کے تو رنج و غم پہنچنے کی دلیل ہے۔

کسی مفسد قتنہ انگیز کی طرف سے بدی کی دلیل ہے۔

سوئی کا دیکھنا

سانپ کا دیکھنا دشمن سے دلیل ہے چنانچہ جس قدر

سانپ کا دیکھنا

سانپ قوی ہوگا دشمن بھی قوی ویسا ہی ہوگا اور جو سانپ

کو فرمانبردار دیکھے دولت کمانے کی دلیل ہے۔

حاکم یا بادشاہ سے کوئی رنج پہنچنے کی دلیل ہے۔

سانپ کو اپنے اوپر گرتے دیکھنا

اگر ان سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے تو سرداری

سانپوں کو اپنے اوپر گرتے دیکھنا

کی دلیل ہے۔

سمرغ کا دیکھنا	مرد عابد زاہد کی دلیل ہے۔
سونا جا بجا پڑا ہوا دیکھنا	آفت اور ہلاکت کی دلیل ہے۔
سیاہ علم دیکھنا	سرداری کی دلیل ہے۔
سبز علم دیکھنا	سفر کرنے اور نیکی پانے کی دلیل ہے۔
سنان دیکھنا یا بھالا	درازی عمر کی دلیل ہے۔
سرکہ دیکھنا	مال میں خیر و برکت پر دلیل ہے۔



رویف ”ش“

تعبیر

کچھ تکلیف پہنچنے یا فتنہ برپا ہونے یا موت آنے کی دلیل ہے۔

دشمن پر فتح یابی کی دلیل ہے یا روزی حاصل ہونے کی یا برکت گھر کی دلیل ہے۔

جان و مال کا نقصان ہو، مال حرام اور خصومت کی دلیل ہے۔

گناہوں کی علامت ہے۔

دینداری کی نشانی ہے۔

دولت حرام پانے کی دلیل ہے۔

خواب

شیر کو حملہ کرتے دیکھنا

شیرنی کا دودھ پینا

شراب کا دیکھنا

شیطان کا دیکھنا

شکر دیکھنا

شیطان کو اپنا فرمانبردار دیکھنا

شربت پینا
دل سے توبہ کرنے اور مرید ہونے یا کسی معشوق سے ملنے
پر دلیل ہے۔

شہد ویکھنا یا کھانا
اگر مریض ہے تو شفا پائے ورنہ ایمان داری کی دلیل ہے۔
شعلہ آتش دیکھنا
خواری یا گرفتاری کی دلیل ہے۔
شتر بے مہار دیکھنا
بدکاری کی علامت ہے۔

شمع دیکھنا
کسی کا ہادی ہونا یا سردار ہونے کی دلیل ہے۔
شیطان کو بہ شکل زن دیکھنا
دن رات عورتوں کی صحبت میں رہنے اور کاروبار سے
غفلت کرنے کی دلیل ہے۔

شمشیر خواہ تلوار چھری تیز دیکھنا
صاحب خواب کیلئے خوب ہے۔
شاہہ کرنا یعنی کنگھی کرتے دیکھنا
اگر سرداڑھی میں کنگھی کرتے دیکھا ہے تو اس کے سب
رنج و غم دور ہونے کی دلیل ہے۔

شیر پر آپ کو دیکھنا اور قابو پانا
غلبہ اور بدبہ ورتبہ عظیم کی دلیل ہے۔
شیر کا گوشت کھانا
کسی حاکم زبردست جابر سے مال حاصل ہونے کی
دلیل ہے۔

شیر کا گھر میں داخل ہونا
اس کی وہی تعبیر ہے یعنی رتبہ عظیم کا پہنچنا ہے۔
اور ضرر کا نہ پہنچانا
کسی زبردست سے مقابلہ ہونے کی نشانی ہے۔

شیر سے لڑنا
اپنے دین میں کامیابی کی دلیل ہے۔
شیر جانور نامعلوم کا پینا
یہ سب خیر و صلاح و رزق صباح اور برکت کی نشانی ہے۔
شیر و حشیان بیابان کا پینا مثل آہو
وغیرہ جن کا گوشت حلال ہے

شیرسگ یعنی کتے مادہ کا پینا خوف شدید دشمن سے اور ضرر کی دلیل ہے۔

شیر گاؤ اور بھینسوں کا اور یہ سب خیر و برکت ہونے کی دلیل ہے۔

اونٹنیوں کا پینا

شیر مادہ خر کا پینا

شیر عورت کو اپنی پستان میں

اُترادیکھنا

شادی کا دیکھنا

مرض شدید ہے کہ زائل ہوگا اور بہتری کی دلیل ہے۔

اس کیلئے مال میں خیر و برکت کی دلیل ہے۔

تعبیر ماتم داری سے ہے اور ماتم داری کا دیکھنا شادی

سے تعبیر ہے۔

شیر کا مقابلہ سے بھاگ جانا فتح مندی اور مقصد حاصل ہونے کی دلیل ہے اور چیتے

کی بھی یہی تعبیر ہے۔

مال کا گنجینہ ہونے پر دلیل ہے یا حکم قرآن و نکاح یا شفاء

سے تعبیر ہے۔

شہد معہ چھتے کا دیکھنا

بیمار کو صحت کی دلیل ہے۔

شور باکھانا

صدقہ دینے کی دلیل ہے۔

شیشہ دیکھنا

عورت کیلئے صالح اور نیک ہونے کی دلیل ہے مرد کیلئے بد ہے

رنج و غم اور تکلیف اٹھانے کی دلیل ہے۔

شوہر کا لباس عورت کو پہننا

شبہ نم گرتے دیکھنا

مالدار ہونے یا کسی قوم کا سردار ہو کر ذلت اٹھانے کی

دلیل ہے۔

شراب پی کر مدہوش ہو جانا

جنتی ہونے کی دلیل ہے۔

شراب کی نہریاں میں جاری دیکھنا

بہتری و ترقی کی دلیل ہے۔

شریفہ دیکھنا خواہ کھانا

رویف "ص"

تعبیر

خواب

نیک نامی و خوش خرمی کی دلیل ہے۔	صندل کو خواب میں پانا یاد رکھنا
جملہ بلا و مصیبت کی صفائی ہونے کی دلیل ہے۔	صدقہ دینا
مریض کیلئے صحت کی دلیل ہے۔ اور تندرست کو صفائی	صابون کا دیکھنا
قلب ہونے کی۔	
دولت دنیا سے مسرور ہونے کی دلیل ہے۔	صراحی کا دیکھنا
نیک رائے نیک صلاح ہونے معاملگی میں کامل ہونے	صراف کو دیکھنا
کی دلیل ہے۔	
امید برآنے کی دلیل ہے۔	صاحب مال کو خواب میں
	دیکھنا یا صحبت میں جانا
دیوانہ ہونے یا سفر کرنے کی دلیل ہے۔	صحرا دیکھنا بمعنی جنگل
برے کام کرے اور دوسروں کو بھی برا بتانے کی دلیل ہے	صیا کو دیکھنا
غلام یا کنیر ہاتھ آنے کی اور عیش و آرام اٹھانے کی دلیل ہے	صندوق دیکھنا
دوسروں کو نیک راہ دکھلانے و بتلانے کی دلیل ہے۔	صومعہ دیکھنا
مال دنیا ملنے کی اور عیش و عشرت سے بسر ہونے کی	صوف پہننا یعنی اون کا کپڑا
دلیل ہے۔	
دین دنیا میں دولت و نعمت و کرامت کی دلیل ہے۔	صحرا میں کچھ کھانا پینا دیکھنا
دین کی ترقی اور اسلام پر مستقل ہونے کی دلیل ہے۔	صحرا میں راستہ طے کرتے دیکھنا

صحرا میں رستہ بھول بھٹک دین اسلام میں اس کے شک آنے کی دلیل ہے۔
جاتے دیکھنا



رویف ”ض“

تعبیر

خواب

خوش نصیبی اور نیک کوشش کی دلیل ہے۔ یا جیسی خوبی و
زشتی کی صورت ضعیف کی ہوگی ویسی ہی تعبیر ہے۔

ضعیف کو خواب میں دیکھنا

اگر فریبہ اور تازہ رو دیکھے تو زوال دنیا کی دلیل ہے اور

ضعیفہ کو دیکھنا

صاحب خواب کو دنیا حاصل ہونے کی دلیل ہے اور اگر

اس کے برعکس ہے تو تنگی معاش اور پریشانی کی دلیل ہے

اسی طرح اگر وہ ضعیفہ نامعلوم ہے یعنی جان پہچان کی نہیں

ہے تو یہ حال سے تعبیر ہے یعنی حسب حال خوبی و فریبی ہوگی

جس کے یہاں کھائے اس سے فریب اٹھانے کی دلیل ہے۔

ضیافت کھانا خود

سچی ہونے کی اور کامرانی کی دلیل ہے۔

ضیافت کھلانا



رویف ”ط“

تعبیر

خواب

صاحب خواب کیلئے صلاحیت دین حاصل ہونے اور استغفار کرنے کی دلیل ہے۔

طواف کعبہ کرنا

باعث دفع رنج و غم و الم و موجب فرحت و صحت کی دلیل ہے۔

طہارت کرنا خواب میں

زن حسینہ و نازنین معشوقہ سے دلیل ہے۔ اور اگر طاؤس کریہہ منظر و بد شکل و شائل ہے تو تعبیر برعکس پر دلیل ہے کثیر و غلامان سے دلیل ہے یا صاحب فلاح و صلاح سے تعبیر ہے۔

طاؤس کا دیکھنا خواب میں

طوطا دیکھنا یا پانا

اہل و عیال و بال جان ہوں یا نقصان مال ہونے کی دلیل ہے۔

طوفان دیکھنا

اگر اس طفل سے واقف ہے تو بشارت کی دلیل ہے اور اگر اس طفل سے آشنا نہیں ہے تو کوئی فکر یا غم لاحق ہونے کی دلیل ہے۔ اور دیکھنا پیدا ہونا دختر کا بہتر ہے۔ فرزند نرینہ ہے۔

طفل کو دیکھنا

صاحب خواب جس مرتبہ پر ہے اس سے گر جانے کی دلیل ہے۔

طلاق اپنی عورت کو دینا



ردیف ”ظ“

تعبیر

رنج و غم و بدنام ہونے کی دلیل ہے۔
برے کاموں کی پاداش میں مبتلا ہو، غم کا سامنا۔

خواب

ظلم کرنا کسی پر خواب میں
ظالم کو دیکھنا



ردیف ”ع“

تعبیر

اگر عالم خواہ زاہد خواب میں نظر آئے تو صاحب خواب
کیلئے نیک نامی اور نیک بختی کی دلیل ہے۔
رفعت و عزت حاصل ہونے اور مالدار ہونے کی دلیل ہے۔
مال اور دولت اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے اور
عورت پاکیزہ یعنی کنواری عورت کو اگر خواب میں دیکھے
تو پیشہ اور تجارت سے فائدہ اٹھانے کی دلیل ہے۔
زیادتی جاہ و مال اور ترقی و درازی عمر کی دلیل ہے۔
اگر شوہر اس کا غائب ہے تو آنے کی امید ہے اور اگر اس
عورت کا شوہر نہیں تو اس کے عقد ہونے کی دلیل ہے۔
تو اس کی تعبیر ہے اس کا شوہر طلاق دے گا۔

خواب

عالم کو خواب میں دیکھنا
علم کا پڑھنا خواب میں
عورت حسینہ جوان کا دیکھنا
عورتوں اور لشکر والوں کو دیکھنا
عورت کو اپنے سر کے بال
پریشان دیکھنا
عورت اگر دیکھے کہ اس کے

سر کے بال تراشے ہیں

عطر و عنبر اور جملہ کافور

و صندل خوشبودار کا دیکھنا

عورت کو پاکیزہ لباس

پہنے دیکھے

علم شریف اور دین پاک اور مال پاکیزہ اور زبان پارسا
اور نیک خصلتوں کی نشانی ہے۔

اگر کوئی عورت اپنے کو پاکیزہ لباس سے آراستہ دیکھے تو
کسی نیک مرد سے نکاح کرنے کی دلیل ہے اگر نکاح

شدہ ہے تو نیک عمل کی بشارت ہے۔

دشمن سے فتح یاب ہونے اور مقصد دنیا و نعمتیں ملنے کی
دلیل ہے۔

جس سے مباشرت کی ہے اس کے راز مخفی سے خبردار
ہونے یا کسی فاحشہ عورت سے ملاقات کی دلیل ہے۔

اگر کسی نے دیکھا کہ عضو تناسل قطع ہو گیا ہے تو تعبیر یہ ہے
کہ یا تو صاحب خواب کا لڑکا مر جائے گا یا خود کو مرنے

کی دلیل ہے۔

چنانچہ جتنے خواب میں دیکھے گا اتنی ہی اولاد ہونگی کی
دلیل ہے۔

درازی عمر کی دلیل ہے۔

اگر چہتے میں شہد کو دیکھا ہے تو مال مجموعی کی دلیل ہے اور
اگر اس میں سے کچھ نوش کیا ہے تو علم قرآن و نکاح پر

اور شفاء مرض ہر ایک کی دلیل ہے۔

عورت باکرہ سے مباشرت کرنا

عورت سے عورت کو

مباشرت کرنا

عضو تناسل کا کٹ جانا دیکھنا

عضو تناسل کا دو یا زائد دیکھنا

عضو کوئی سا ہوسر سے پیر تک

اپنا آہنی دیکھنا

عسل یعنی شہد کا دیکھنا

عورت کا اپنے جسم کا آلہ تناسل	اگر حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا سرداری پائے گا
کا پیدا ہونا دیکھنا	اور جو حاملہ نہیں ہے تو اولاد کبھی نہ ہوگی۔
عورت حیض سے نہ ہو اور	تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہونے کی دلیل ہے۔
دیکھے کہ حیض سے ہو۔	
عورت کو اپنے کپڑوں پر	شہوت زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔
پیشاب دیکھنا	
عورت کو خون کا پیشاب	فرزند کا شکم میں مرجانے کی دلیل ہے۔
کرتے دیکھنا	
عورت کو اپنی طلاق دیتے دیکھنا	دولت ملنے کی دلیل ہے۔
عورت کی خواستگاری کرنا	جس کی خواستگاری کی ہے اس کے حسن و جمال کے
خواب میں	موافق دولت ملنے کی دلیل ہے بلکہ فراغت کلی کی دلیل ہے
عورت کو چاند آغوش میں	شوہر اس کا عزت پائے گا اور اگر شوہر نہیں ہے تو خود اس
لیتے دیکھنا	کو بزرگی ہونے کی دلیل ہے۔
عقیق کا دیکھنا	عزت اور نعمت پر دلیل ہے۔
عیدین یعنی فطر اور ضحیٰ	جس شخص نے دونوں میں سے جس عید کو دیکھا تو اس کے
کا دیکھنا	لئے تمام رنج و غم سے نکلنے کی دلیل ہے۔
عروس یعنی شادی دیکھنا	رنج و غم کی دلیل ہے اور ماتم دیکھنا کھیل کو دوسے دلیل ہے
عورت کو اپنی طرف مائل دیکھنا	افلاس اور فکر و ترود کی دلیل ہے۔
عمارت دیکھنا	خوشی و خرمی کی دلیل ہے۔
عرق بدن سے ٹپکتا دیکھنا	بیماری سے صحت کی علامت ہے یا کوئی کام بد کرنے پر

ندامت کی دلیل ہے۔

عوام سے فائدہ اٹھائے یا امام ہو کر امامت کی دلیل ہے

عمامہ باندھنا



ردیف ”غ“

تعبیر

سفر رنج و غم اور دوستوں سے ملال کی دلیل ہے۔
فکر و اندیشہ سے نجات ہونے اور عیش و عشرت اٹھانے
کی دلیل ہے۔

بیماری سے صحت پانے یا سفر سے گھر واپس آنے کی
دلیل ہے۔

موت آنے کی دلیل ہے۔

فکر اہل و عیال میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔

حکومت و سرداری کی دلیل ہے۔

نفس امارہ پر غالب ہو دولت دنیوی کی دلیل ہے۔

فتنہ فساد برپا ہونے کی دلیل ہے۔

خواب

غلہ دیکھنا

غوطہ لگانا

غسل کرنا

غسل خانہ دیکھنا خواب میں

غربال دیکھنا

غول جانوروں کا دیکھنا

غالب آپ کو دشمن پر دیکھنا

غبار زمین و آسمان کے

درمیان دیکھنا



رویف "ف"

تعبیر

خواب

مرتبہ بلند ہونے اور خلق سے مستفید ہونے کی دلیل ہے

فرشتگان مقرب کو دیکھنا

مال سے نقصان ہونے اور پریشانی و حیرانی کی دلیل ہے

فرشتوں کو جوق در جوق

آتے دیکھنا

دین و دنیا میں عزت اور مرتبہ پانے کی دلیل ہے۔

فرشتگان مقرب یعنی

اور درازی علم و حکمت کے کشادہ ہونے اور آفتوں سے

حضرت جبرائیل، میکائیل

محفوظ رہنے اور بیماری سے شفا پانے کی دلیل ہے اور اگر

اسرائیل، عزرائیل وغیرہ

کوئی خوف و غم میں مبتلا ہے تو رہائی کی دلیل ہے۔

کو خوش دیکھنا

موت کی علامت ہے توبہ کرنی چاہیے۔

فرشتوں کے ساتھ دشمنی

کرتے دیکھنا

دین و دنیا میں عزت حاصل ہونے کی دلیل ہے۔

فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنا

وہاں پر کسی عابد یا عالم کی وفات کی دلیل ہے یا کسی شخص

فرشتوں کو کسی جگہ بہت سے

کو جور و ظلم سے نجات پانے کی دلیل ہے۔

جمع ہونا

غم و الم کی دلیل ہے یا زن جمیلہ ہاتھ لگے۔

فرج کا دیکھنا

ہر کام کرنے سے پشیمانی اور ذلت و خواری اٹھانے کی

فرج کو ذکر کی جگہ دیکھنا

دلیل ہے۔

عورت بے دین سے صحبت اٹھانے اور رنج و غم کی

فاختہ دیکھنا

دلیل ہے۔

فیل سفید دیکھنا
حاکم وقت سے مال ملنے یا فرزند تولد ہونے کی دلیل ہے
فرشتوں کے ساتھ آپ کو
دنیا کی حیرانی و پریشانی سے نجات ملنے اور درجہ شہادت
اڑتے دیکھنا
پانے کی دلیل ہے۔
فانوس دیکھنا
علم آخرت حاصل ہونے کی اور بدافعالی سے بچنے کی
دلیل ہے۔

فیروزہ پانا یا دیکھنا
فرزند پیدا ہونے یا دشمن پر فتح پانے کی دلیل ہے۔
فاختہ دیکھنا
امیری سے فقیری کی نشانی ہے۔
فوارہ دیکھنا
غیب سے روزی پانے اور امیر کہلانے کی دلیل ہے۔
فصد کھلوانا
مرض سے شفا پانے اور تندرست ہونے کی دلیل ہے۔
فرج اور ذکر کا ہمراہ دیکھنا
رنج و غم سے رہائی پانے کی دلیل ہے۔
فیل کو حملہ کرتے دیکھنا
کسی آفت میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔
فیل عماری دار پر سوار دیکھنا
مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔
فیل کا گوشت کھانا
مال و غلبہ حاصل ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح فیل کے
اعضاء سے حاصل ہوگا وہ مال و غلبہ پر دلیل ہے مثل
کھال و بال و ہڈی وغیرہ۔



رویف ”ق“

تعبیر

خواب

روزِ حلال پانے اور پرہیزگاری کی دلیل ہے۔	قرآن شریف لکھنا خواب میں
نیک کام کرنے کی دلیل ہے۔	قرآن شریف کا تلاوت کرنا
دنیا میں بدنامی یا موت آنے کی دلیل ہے۔	قرآن کا ورق کھانا
عدل و انصاف کرنے کی دلیل ہے یا فن خوشنویسی کی نشانی ہے۔	قلم کا کھانا
جدید مکان کی تعمیر کی نشانی ہے۔	قبر کھودنا
ملک الموت کے آنے کی دلیل ہے۔	قصائی کا دیکھنا
فتنہ و فساد کے مٹنے کی دلیل ہے۔	قبر کو بند کرنا
تجارت میں نقصان اٹھانے یا کسی معاملہ میں سچنے کی نشانی ہے۔	قبر کا بنانا
کسی بلا میں مبتلا ہونے یا رنج اٹھانے کی دلیل ہے۔	قبر میں جانا
خیانت کی دلیل ہے۔	قسم کھلوانا
میت کے دین کی پیروی کرنے یا شریعت میں کوئی نیا امر جاری کرنے کی دلیل ہے۔	قبر سے کفن نکالنا
روزِ کم ہونے اور مصیبت اٹھانے کی دلیل ہے۔	قسم کھانا خواب میں
دولت زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔	قبا پہننا
ترقی زندگی کی سلامت ہے۔	قربانی کرتے آ پکودیکھنا

عمر قلیل کی نشانی ہے اگر مریض ہے تو طول عمر کی نشانی ہے
غلہ کی ارزانی کی دلیل ہے۔

قبر کا دیکھنا

قوس قزح دیکھنا

علم سیکھنے اور سکھانے اور خیر و برکت کی نشانی ہے۔ یا تولد
فرزند کی دلیل ہے۔

قرآن شریف کا دیکھنا

دشمن سے نجات پانے کی دلیل ہے۔

قلعہ دیکھنا

امید بر آنے کی دلیل ہے۔

قفل دیکھنا یا کھولنا

امیری کی دلیل ہے۔

قلمدان دیکھنا

دوست سے ملاقات ہو۔

قینچی دیکھنا

اس کی تعبیر رویت خدائے عزوجل ہے۔

قاضی نامعلوم کا دیکھنا

ایسے کام کرنے سے دلیل جو قابل عزت ہو۔

قبرستان جانا، قبرستان دیکھنا

اپنی ثنا و صفت کسی سے سننے کی دلیل ہے۔ یا مرض سے

قتل ہونا یا اپنا سر جدا دیکھنا

شفا حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ یا حج کعبہ کرنے کی یا

کشائش کی بشارت ہے۔

مقتول پر ظلم کرنے کی دلیل ہے یا قاتل سے مقتول کو کسی

قتل دوسرے شخص کو کرنا

امر میں فائدہ پہنچے گا۔

خواب میں

راہِ حق کی طرف ہدایت کی دلیل ہے۔

قبلہ رو ہونا یا قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا

راہِ ضلالت کی نشانی ہے۔

قبلہ سے پھرنا

عدالت و داد رسی کی دلیل ہے۔

قوم کی امامت کرنا



رویف "ک"

تعبیر

صلاحیت دین حاصل ہونے و تصرف و رفعت ہونے یا خدمت والدین و سعادت کی دلیل ہے۔

فسق و فجور کی دلالت ہے۔

علم و فضل حاصل ہونے اور جہل سے اجتناب کرنے کی دلیل ہے۔

بدنامی و پریشانی بلکہ زیادتی عصیاں کی نشانی ہے۔

حکومت یا بادشاہت کی دلیل ہے۔

بولتا دیکھے تو مسافر آنے اور خاموش دیکھنا رنج اٹھانے کی دلیل ہے۔

عہدہ سرداری کی علامت ہے۔

مصیبت اٹھانے اور تکلیف کی دلیل ہے۔

آپس میں ترشروئی یا جوڑو سے لڑائی کی دلیل ہے۔

سفر کی نشانی ہے لیکن دولت بے شمار پائی ہے۔

خرابی آنے کی نشانی ہے یا قرضداری کی دلیل ہے۔

دختر نیک اختر تولد ہوئے یا ہم چشموں میں عزت پائے

اگر عورت حاملہ ہے فرزند تولد ہونے یا عورت ملنے کی

دلیل ہے۔

خواب

کعبہ دیکھنا یا کعبہ کا طواف کرنا

گرتا پہننا

کمبل اوڑھنا

کونکہ دیکھنا

کوہ قاف کی سیر کرنا

کواد دیکھنا

کلاہ دیکھنا

کوڑیاں دیکھنا

کمر رکھ دیکھنا

کمر باندھنا

کیچڑ میں گرنا یا پھنسا

کسم دیکھنا

کمان بنانا

کنیر یا غلام کو فروخت کرنا رنج و غم سے آزاد ہونے کی دلیل ہے۔

کتاب یا خطوط کھلے ہوئے نہایت خیر و برکت کی نشانی ہے۔

پانا یا دیکھنا

کتاب علم و فقہ وغیرہ کا دیکھنا موجب تحصیل و حکمت پر دلیل ہے۔

اور صالحہ علم کی کتاب کا دیکھنا

کلیات دیوان وغیرہ کا دیکھنا

کتاب الہی یعنی کلام پاک

کا دیکھنا

صاحب خواب کیلئے بہتر نہ ہونے کی دلیل ہے۔

دین اور علم اور مال حاصل کرنے اور لوگوں کو نفع پہنچانے

کی دلیل ہے اور اگر کلام پاک کو پھاڑ ڈالا ہے تو احکام

خداوندی کے انکار کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر اقوال کو

کھایا ہے یا چبا لیا ہے تو خدا کے کلام سے ہنسی کی

دلیل ہے۔

کڑوم بمعنی بچھو کا ڈنک مارنا کوئی دشمن ہے جو کہ غیبت اور برائی سے ضرر پہنچانے کی

تدبیر کرتا ہے۔

کشتی سے خشکی میں اترنا دشمن پر فتح پانے اور مال کثیر پانے کی علامت ہے۔

فراخی دولت و نعمت کی دلیل ہے۔

کھیت کا دیکھنا

زراعت کے ذریعہ روپیہ ملنے کی دلیل ہے۔

کھیت میں چلنا

افلاس اور قحط و تکلیف کی دلیل ہے۔

کھیت میں جنگل کا ہو جانا

کمی غلہ و خشک سالی کی دلیل ہے۔

کھیت کا خشک ہو جانا

اپنی عورت کو طلاق دینے یا کسی کو قتل کرنے کی دلیل ہے

کھیت کا ٹٹنا

غیبت کرنے کی صریح دلیل ہے۔

کچا گوشت کھانا

دشمن سے ضرر پہنچنے اور مصیبت اٹھانے کی دلیل ہے۔	کتیا کا دودھ پینا
نعمت میں افزونی کی دلیل ہے۔	کھانا کھاتے دیکھنا
پشیمانی کی دلیل ہے۔	کھانا دوا کا
دین و دنیا کی دولت ملنے صاحب باطن ہونے کی دلیل ہے	کملی کا دیکھنا
اچھی خبر آنے یا خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کی دلیل ہے۔	کبوتر کا دیکھنا
تنگی و دشواری کی دلیل ہے۔	کنگن پہننا
رنج و الم کی دلیل ہے۔	کنگھی بالوں میں کرنا
خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے۔	کنگھی دیکھنا
اپنی بیوی سے ملاقات کرنے یا دشمن پر غلبہ پانے کی دلیل ہے۔	کمان معہ تیر پانا
نیک عورت ملنے اور عیش سے گزرنے کی دلیل ہے۔	کوزہ دیکھنا
نعمت روزی زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔	کرم کلہ دیکھنا
دولت ملنے کی دلیل ہے یا مرض سخت اٹھانے کی دلیل ہے	کانور دیکھنا
بیماری کی علامت ہے۔	کھجڑی کھانا
رنج و غم دور ہو حاصل سرور ہو۔	کشتی دیکھنا
مصیبت آنے کی دلیل ہے۔	کشتی ڈوبتے دیکھنا
رنج و غم کی نشانی ہے۔	کشتی خشکی میں دیکھنا
تکلیف و رنج دفع ہو۔	کباب کھانا
ولی مراد ملنے کی دلیل ہے۔	کشتی پار ہوتے دیکھنا

گناہوں سے پاک ہونے کی دلیل ہے۔	کیڑا دھوتے دیکھنا
دشمن زیر ہونے اور عروج پانے کی دلیل ہے۔	کائی کا پھٹتے دیکھنا
راحت و آرام کی نشانی ہے۔	کرن آفتاب دیکھنا
اول مصیبت آتی ہے بعدہ شادمانی ہے۔	کفن پہننا
رنج و غم و صدمہ اٹھانے کی دلیل ہے۔	کنویں میں گرنا
کشائش و فیروزی کی دلیل ہے۔	کنویں سے نکلنا
کتے کو حملہ کناں یا بھونکتے دیکھنا غیب سے زیاں پیدا ہونے کی دلیل ہے۔	کتے کو بھونکتا دیکھنا
اگرچہ مکروہ ہے لیکن دشمن سے نفع ہو۔ آپ خوش دشمن رنجور ہو۔	کتے کا گوشت کھانا
تجارت میں نفع ہونے اور مال کی افزونی کی دلیل ہے۔	کنواں دیکھنا
غریب غرباء کا فائدہ کرنے اور راہ خدا میں دینے دلانے کی دلیل ہے۔	کنویں سے پانی کھینچنا
غرباء اور یتیموں کی مدد و پرورش کرنے کی دلیل ہے۔	کنویں سے پانی کھینچ کر درخت کو سینچنا
حاجیوں کی مدد کرنے کی دلیل ہے۔	کنویں سے پانی پلانا
مال کے تلف ہونے اور رنج اٹھانے کی دلیل ہے۔	کنویں سے پانی نکل جانا
حق تعالیٰ کی طرف سے مال پاکیزہ ملنے کی دلیل ہے اور مال میں قوت و برکت ہونے کی دلیل ہے۔	کنویں سے پانی کا جوش کرنا
حاکم وقت یا بادشاہ کے عتاب میں گرفتار ہونے کی دلیل ہے۔	کشتی میں سوار ہوتے دیکھنا

کشتی سمیت ڈوبنا بادشاہ یا حاکم وقت کے محاسبہ میں گرفتار ہونے و قید ہونے کی دلیل ہے۔

کڑوم کو اپنے ہاتھوں میں دیکھنا اور کسی کو کھانا کڑوم کا گوشت کھانا کڑوم کو اپنے کپڑے یا بستر اور چیزوں میں گھسا ہوا دیکھنا

صاحب خواب کے کسی کی غیبت کرنے سے دلیل ہے یعنی صاحب خواب خود غیبت دوسروں کی کرے گا۔ دشمن سے مال پانے کی دلیل ہے۔

کوئی دشمن ہے جو پاس رہ کر صاحب خواب کے حالات دشمنوں پر جا کر ظاہر کرتا ہے اس کی غیبت میں۔ دشمنوں کے درپے آزاد ہونے کی دلیل ہے۔

صاحب خواب سے وہ مال میں بہتر ہوگا جس کو بچھاڑا ہے کسی کو اپنی مدد پر تیار ہونے کی دلیل ہے۔ صاحب خواب کیلئے بہتر و خوشتر ہونے کی دلیل ہے۔

صاحب خواب کے لئے بد کی دلیل ہے۔ کمر بند کا ٹوٹ جانا یا چھن جانا اور کوئی نقص ہو جانا کیکر دیکھنا کھیرہ گکڑی شلجم وغیرہ کا خواب میں دیکھنا کاتب کو دیکھنا کان میں چیونٹیاں گھستے دیکھنا

کنجشک یعنی گھروالی چڑیا	بزرگی اور مال اور عیش و عشرت کی دلیل ہے۔
کاد بکھنا	
کسی کو خواب میں ذبح کرنا	اس کی تعبیر کسی پر ظلم کرنے سے ہے۔ یعنی جس کو ذبح کر رہا ہے اس پر ظلم کرے گا۔
یعنی انسان کو	
کو الٹکا ہوا نیچے دیکھنا گردن کا	رزق کی کمی یا موت کی دلیل ہے۔
کان کو جدا دیکھنا	لڑکی کے مرنے کی دلیل ہے یا عورت کو طلاق دے گا۔
کان کی صفائی دیکھنا	خوشخبری سننے کی دلیل ہے۔



رویف ”گ“

خواب	تعبیر
گلاب کا پھول دیکھنا	دنیا میں ذی مرتبہ اور نیک نام ہونے کی دلیل ہے۔
گھوڑے کا دیکھنا	راحت و خوشی و دولت یا نیک حسین عورت ملنے کی دلیل ہے۔
گھوڑے کو اپنے قابو میں	شریف و عزت و غلبہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔
پانا اور سوار ہونا	
گھوڑے کا شیون یا شور	کسی معصیت کے مرتکب ہونے کی دلیل ہے۔
کرتے دیکھنا	
گھوڑی کا مالک و قابض ہونا	کسی زن شریفہ کے ملنے پر دلیل ہے۔ اگر شادی شدہ
یا سوار ہونا	ہے تو لد و ختر کی دلیل ہے۔
گھوڑے کا گوشت کھانا	روزی حلال اور مرد نیک نام اور فراخی کی دلیل ہے۔

گھوڑے کو اپنے مکان یا محلہ سے نکلنے دیکھنا
صاحب خواب کو مکان یا محلے سے نکلنے خواہ موت آنے کی دلیل ہے۔

گھوڑے نامعلوم کا خواب میں دیکھنا
عزت و شرافت کی دلیل ہے واضح ہو کہ تعبیرات گھوڑوں کی بہت ہے لہذا اگر گھوڑا نیک اور سیدھا اپنے قابو میں ہے تو صاحب خواب کیلئے بہتری اور اچھائی کی صورت ہے اور اگر اس کے برعکس ہے تو برائی اور بدی ہونے کی دلیل ہے۔

گھر کو کشادہ دیکھنا
دنیا کی کشادگی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے برعکس کی دلیل برعکس ہے۔

گدھا دیکھنا
اجمقی اور مغروری کی دلیل ہے۔

گدھے کا گوشت کھانا
بیوقوف کا مال کھانے اور بعدہ بیوقوف بننے کی دلیل ہے۔

گدھی کا دودھ پینا
پیماری سے صحت ہونے اور تجارت میں نفع ہونے کی دلیل ہے۔

گدھی کا دودھ پینا
پیماری سے صحت ہونے اور تجارت میں نفع ہونے کی دلیل ہے۔

گود دیکھنا
مال مفت ملنے کی دلیل ہے۔

گھی کا گپا دیکھنا
تجارت میں فائدہ ہونے اور طراری زبان کی دلیل ہے

گاجر کھانا
جسمانی قوت کی دلیل ہے۔

گوز مارنا
ہم چشموں میں ذلت کی دلیل ہے۔

گورستان دیکھنا
قلیل آمدنی کی دلیل ہے یا عبرت و پریشانی کی دلیل ہے

تولد فرزند ہونے یا تو دختر ہونے یا اور کوئی نیک کام کرنے کی دلیل ہے۔	گھر زمین پر دیکھنا
حاکم یا سردار سے نفع قلیل حاصل ہونے کی دلیل ہے۔	گوہر دیکھنا
گھر میں آگ لگنے کی علامت ہے۔	گھر سونے کا دیکھنا
جس کے گھر داخل ہو اس کی خیانت کرنے اور ذلت اٹھانے کی دلیل ہے۔	گھر میں غیر کے داخل ہونا
اگر منہ طرف مغرب ہے حج کرے یا نیک مشہور ہونے کی دلیل ہے اور اگر اس کے برعکس دوسری طرف منہ ہے تو پاچی مشہور ہونے کی دلیل ہے۔	گدھے پر سوار ہونا
بے وقوفی دور ہونے اور دولت مند ہونے کی دلیل ہے۔	گدھے پر سے اترنا
اگر فریبہ ہے دولت سے مالا مال ہونے کی دلیل ہے اور لاغر ہے تو سراسر پریشانی کی سبیل ہے۔	گانے کا دیکھنا
صاحب خواب کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو سب کو اچھی معلوم ہو۔	گناہ دیکھنا یا کھانا
قربت سلطانی یا ترقی عمر کی دلیل ہے۔	گھر لوہے کا دیکھنا
موت آنے یا بد اعمال سے دنیا تباہ ہونے کی دلیل ہے۔	گھر کا گر جانا
گناہوں سے پاک ہونے یا موت آنے کی دلیل ہے۔	گھر کو کھودنا
مال ملنے کی نشانی ہے یا بیماری سے صحت کی دلیل ہے۔	گھر میں آتشکدہ دیکھنا
موت آنے کی نشانی ہے۔	گھر کو بیچ ڈالنا
قبر کی دلیل ہے یا کسی عورت سے کام پڑے گا۔	گھر میں غیر معلوم کے بند ہونا

جنگ و خصومت کی علامت ہے۔	گلدستہ باندھنا
مال حرام ملے رنج و غم اٹھانے کی دلیل ہے۔	گوشت خام دیکھنا
صاحب خواب کیلئے خوب نہیں ہے۔	گیہوں کا دیکھنا
عزت و حرمت میں فرق آنے کی دلیل ہے۔	گیہوں کا کھانا
بد اعمالی سے نجات کی دلیل ہے۔	گھر کسی نامعلوم کا گرانا
دنیا میں فراخی نعمت ہونے کا م انجام بخیر ہونے کی دلیل ہے	گائے کا دودھ پینا
بقدر گھر بنانے کی بہ حیثیت کسی کے مال دنیا سے مستفید ہوگا	گھر اپنا یا کسی غیر کا بنانا
اگر کسی چیز سے بھرا ہے تو موت کی نشانی ہے۔	گلاس یا کٹورا دیکھنا
مال حرام کی دلیل ہے۔	گوشت خام کھانا یا دیکھنا
مال حاکم یا بادشاہ سے ملنے کی دلیل ہے۔ جو ساتھ سوار	گوشت بھنا ہوا یا پختہ
ہے اس کی سعی و کوشش سے حاکم یا حکومت ملنے کی دلیل	گھوڑے پر اپنے ساتھ کسی
ہے۔	کو سوار دیکھنا
کسی بڑے شخص کی میراث کا مالک ہونے کی دلیل ہے۔	گوشت شیر کا کسی بھی کوئی
	اعضاء سے کچھ کھاتا ہے
دولت و اقبال مندی کی دلیل ہے۔	گوسفند کا دیکھنا
صاحب خواب سے گالی کھانے والا بہتر ہوگا۔	گالی دینا کسی کو
اگر غلام ہے تو آزاد ہو جائے گا مریض ہے تو شفا پائے	گردن کٹی اپنی دیکھنا یعنی
گا اور قرض ادا ہوگا اور کبھی یہ تعبیر بھی ہوتی ہے کہ صاحب	تن سے سر جدا
خواب حج کعبہ شریف کرے گا اور اگر سختی میں ہے تو کشائش	
ہوگی اگر خائف ہے تو ایمن سے ہونے کی دلیل ہے۔	

رویف "ل"

تعبیر

خواب

غنی و معنی ہونے کی دلیل ہے یا فرزند تولد ہونے یا زن
• حسنہ ملنے سے تعبیر ہے۔

لعل و جواہر کا دیکھنا

کسی امیر کی ملازمت کرنے لیکن ذلت ملازمت سے
دلیل ہے۔

لباس خواہ پیاز ملنا یا خریدنا

خواب میں

عورت فسادی ملنے کی دلیل ہے۔ رات و دن جنگ
کرنے کی نشانی ہے۔

لومڑی دیکھنا

عورت سے نفرت ہونے کی دلیل ہے۔

لیزم ہلانا

دشمن سے مقابلہ اور مجادلہ ہونے کی دلیل ہے۔

لوہا دیکھنا

کثرت معصیت میں گرفتار یا غم فرزند اٹھانے کی دلیل
ہے یا مال ضائع ہونے سے بھی تعبیر ہے۔

لباس سیاہ خواب میں پہننا

گناہوں سے پاک ہونے اور صلاح و فلاح کی دلیل ہے

لباس سفید پہننا

زندگی میں نیک نام ہونے کی یا شہادت کی دلیل ہے۔

لباس سرخ پہننا

کار خیر کی اور مقدس ہستی ہونے کی دلیل ہے۔

لباس دھانی پہننا

حاجی ہونے کی بشارت ہے۔

لباس نیلا پہننا

تہمت دنیا میں چھننے کی دلیل ہے۔

لباس گیروا پہننا

مرتبہ بلند ہونے کی یا نیک عورت ملنے کی اور اگر عورت
دیکھے نیک مرد ملنے کی دلیل ہے۔

لباس پاکیزہ پہنے دیکھنا

لڑکے کا آئینہ دیکھنا	بھائی کے پیدا ہونے کی اور اگر لڑکی دیکھے تو لڑکی پیدا ہونے کی دلیل ہے۔
لوہے کی انگوٹھی دیکھنا	رتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔
لاٹھی کا دیکھنا	بلند مرتبہ عالی رتبہ ہونے کی دلیل ہے۔
لکڑی خشک دیکھنا	اگر تصویر بنی ہے تو نفاق کی دلیل ہے۔
لڑکے خوب رو کو دیکھنا جو صورت آشنا ہو۔	کسی بشارت نیک کی دلیل ہے۔
لڑکے کا نام معلوم کا دیکھنا	فکر و غم لاحق ہونے کی دلیل ہے۔
لڑکے معلوم کو آغوش میں لینا	کسی جگہ کا حاکم ہونے کی دلیل ہے۔
لوٹڈی کا خرید کرنا	تمام مقصد برآنے کی امید ہے۔
لوہار کو دیکھنا	کسی اجنبی زور آور سے ملاقات ہونے کی دلیل ہے۔
لعاب منہ سے جاری دیکھنا	کسی اجنبی زور آور سے ملاقات ہونے کی دلیل ہے۔
لباس کہنہ پہننا	صاحب خواب کی موت شباب آنے کی دلیل ہے۔
لباس پیوند کا پہننا	فقر و تنگی کی دلیل ہے۔
لہو و لعب یعنی کھیل کود کا	غم و الم کی دلیل ہے۔
اپنے تئیں خواب میں دیکھنا	دین اور علم اور مال حاصل ہونے کی دلیل ہے۔
لکھنا قرآن شریف کا خواب میں	



ردیف "م"

تعبیر

خواب	تعبیر
مسجد دیکھنا	خیر و برکت کی دلیل ہے اور کامل الایمانی کی نشانی ہے۔
ممبر پر چڑھنا	اپنا مرتبہ بلند ہونے یا کسی رشتہ دار کا رتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔
مرد نیک کا دیکھنا	نیک نامی کی دلیل ہے۔
مردے کو زندہ دیکھنا	غم و اندوہ سے نجات ملنے کی دلیل ہے۔
مروارید کا دیکھنا	دختر خواہ پسر تولد ہونے کی دلیل ہے۔
مویز منقی کا دیکھنا (کشمکش)	اپنوں کی عزت اور توقیر ہونے کی دلیل ہے۔
مسواک کرنا	نیکی اور راستی کی دلیل ہے۔
مسہری دیکھنا	گناہ سے توبہ کرے اپنے لئے پریشان ہو موت آنے کی دلیل ہے۔
میخ دیوار میں گاڑنا	مالک یا حاکم کے دل میں جگہ ہونے اور کام بہتر ملنے کی دلیل ہے۔
مرغ کو آواز کرتے دیکھنا	ذی کمالوں کی معدومی و خواری ہونے اور بے کمالوں کی گرم بازاری کی دلیل ہے۔
موتی کی لڑی دیکھنا	حافظ قرآن ہونے کی دلیل ہے۔
مکتب خانہ دیکھنا	حاکم کی خدمت حاصل ہونے کی دلیل ہے۔
مینہ بکثرت برسا	خدا کی رحمت نازل ہونے کی دلیل ہے۔

مرغابی دیکھنا	فائدہ پہنچنے اور خود سندی کی دلیل ہے۔
مسجد میں جانا	دین و دنیا میں امن پانے اور خیر و برکت کی نشانی ہے۔
مسجد میں نماز پڑھنا	خانہ کعبہ کے حج کرنے کی دلیل ہے۔
مسجد میں بغیر قبلہ کے یعنی	گناہوں سے توبہ کرے کیونکہ دین میں نقصان ہونے کی
دوسری طرف نماز پڑھنا	دلیل ہے۔
موتگ ماش مسور کا دیکھنا	حرام مال ملنے اور رنج و غم سے بسر ہونے کی دلیل ہے۔
میدہ کا دیکھنا	تجارت میں نفع ہو عزت بڑھنے کی دلیل ہے۔
مٹھائی دیکھنا یا کھانا	عزت بڑھنے کی دلیل ہے۔
ملائی کھانا	رنج اٹھانے اور ہلاکت کی نشانی ہے۔
مشک لگانا یا دیکھنا	اگر فقیر دیکھے غنی ہووے اور امیر دیکھے بلند رتبہ ہونے
	کی دلیل ہے۔
موزہ پائنا بہ دیکھنا	رزق میں فراخی ہونے یا عورت حسین ملنے کی دلیل ہے
	اور اگر عیب ہو یعنی نوچے پھٹے ہوں تو پریشانی کی نشانی ہے
مرد کو اپنی جور و کالباں پہننا	عورت کی جانب سے کچھ گزند پہنچنے کی دلیل ہے۔
موتی دیکھنا	قرآن اور دیگر علم خواہ فرزند پر دلیل ہے۔
موتیوں کا گچھا دیکھنا	قرآن پاک حفظ کرے یا پرہیزگار ہونے کی پاکیزہ اولاد
	کی دلیل ہے۔
منہ سے کوئی چیز نکلنے دیکھنا	اگر وہ چیز نیک ہے تو نیک اس سے صادر ہوں گی اور جو
	بد یا بری ہے تو بری باتیں اس سے وقوع میں آنے کی
	دلیل ہے۔

امور خیر کی یا علم تفسیر کے سیکھنے کی دلیل ہے۔	موتیوں کو کان میں دیکھنا
بہت تسبیح کرنے والا ہو یا علم دین سکھلانے کی دلیل ہے	موتیوں کا منہ سے جھڑتے دیکھنا
بہتری کی علامت ہے۔	مرد معلوم کا دیکھنا
بہتری کی علامت ہے یا کسی دوست سے ملاقات کی	مردنا معلوم کا دیکھنا
دلیل ہے۔	
اگر غنی ہے تو فقیر ہونے کی اور اگر فقیر ہے تو غنی ہونے کی	مردے سے مباشرت کرنا
دلیل ہے۔	
قیدی ہے تو رہائی پائے اور اگر مسافر ہے وطن نصیب	مردے کو دیکھنا
ہونے اور اگر مقیم ہے تو سفر کی دلیل ہے۔	
امیدیں پوری ہونے اور مراد حاصل ہونے کی دلیل ہے	مردے سے سلام کرنا
مال تلف شدہ ہاتھ آئے خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے	مردے کو زندہ دیکھنا
وباء آنے والی ہے یا گمراہی وغریبی کی نشانی ہے۔	مردوں کی جماعت دیکھنا
موت آنے کی نشانی ہے توبہ کرنی چاہیے۔	مردے کو پکارنا
کسی بے دین کو دین پر لانے اور گمراہی سے بچانے کی	مردے کو نہاتے دیکھنا
دلیل ہے۔	
گناہوں سے دور ہونے کی دلیل ہے۔	مردے کو زندہ دیکھنا
اگر اس مکان میں ٹھہر جائے موت کی دلیل ہے اور اگر	مردے کے پیچھے کسی مکان
اگر نکل جائے تو بھی رنج اٹھانے کی دلیل ہے۔	میں جانا
یہ بہتر ہے موت کی نشانی ہے۔	مردے کا کچھ مانگنا زندہ سے
حاجتیں روا ہونے کی دلیل ہے۔	مردے کا کچھ دینا زندہ کو

مردے سے مباشرت کرنا جس کام سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کام کا انجام ہونے کی دلیل ہے۔

مردے کے ساتھ کھانا

راحت و آرام کی دلیل ہے۔

مردہ آپ کو دیکھنا

بیماری سے صحت ہونے کی یا سفر سے گھر آنے کی دلیل ہے

مردے کو اپنے بستر پر

مقصد پورا ہونے کی اور عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔

سوتے دیکھنا

مرد عابد کی نشانی ہے۔

مینڈک کا دیکھنا

ہجو کرنے والے اور پردہ فاش کرنے والے سے دلیل ہے

موچی کو دیکھنا

لہذا توبہ کریں۔

ملاح کو دیکھنا

معالجات سلاطین سے ماہر ہونے کی دلیل ہے۔

معلم کو دیکھنا

عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔

معمار کو دیکھنا

راہ ہدایت بتانے والے کی دلیل ہے۔

مصور کو دیکھنا

صاحب خواب کیلئے بہترین علامت ہے۔

مچھلی کو دیکھنا

اگر ایک یا دو ہوں عورت پر دلیل ہے۔

مچھلی چھوٹی کا دیکھنا

رنج و غم کی دلیل ہے۔

مشعلچی کا دیکھنا

زن و شوہر میں تفرقہ پڑنے کی دلیل ہے۔

ماہی گیر کا دیکھنا

سر داری سے تعبیر ہے۔

مکان کا جل جانا دیکھنا

نکبت و خواری پہنچنے یا طاعون و آزادی سے دلیل ہے۔

مکان کا دروازہ کھد جانا

مالک مکان کی موت آنے کی دلیل ہے اور اگر دروازہ

یا گر پڑنا دیکھنا
جس جگہ رہتا ہے اس کا کھد گیا ہے تو صاحب خانہ کی زوجہ
کے مرنے کی دلیل ہے۔

مکان کا دروازہ کھد جانا اور
دوسرا دروازہ لگانا یا بنانا
صاحب خواب کی زوجہ کو کسی دوسرے سے عقد کرنے کی
دلیل ہے۔

مکان کا کھلا ہوا دروازہ بند کرنا
مکان معلوم کا دروازہ بند
زوجہ کو طلاق دینے سے تعبیر ہے۔
نکاح کرنے سے دلیل ہے۔
مقتل کھولنا

مکان کو زلزلہ میں دیکھنا
جس کو زلزلہ میں دیکھا ہے اس میں زنا واقع ہونے کی
دلیل ہے۔

مکان کا سارا یا کچھ حصہ
گرا دیکھنا
موت کی دلیل ہے۔

مکڑی دیکھنا
توبہ کرنے والے اور عبادت گزار پر ہیزگاری کی دلیل ہے
کسی بد خو عورت کو حاصل کرنے کی دلیل ہے۔

موٹ یعنی چوہا دیکھنا
مکھیوں کو بکثرت دیکھنا
بے فائدہ باتیں سننے اور کہنے پر دلیل ہے۔
ممبر پر خطبہ پڑھتے دیکھنا
شرف اور مرتبہ حاصل ہونے کی دلیل ہے۔

ماہتاب کو گہن لگا ہوا یا
گردوغبار سے ڈھکا دیکھنا
نقصان ہونے صاحب خواب کی دلیل ہے۔

مینہ کا برستے دیکھنا
رحمت کی دلیل ہے اگر ہر جگہ ہے اور اگر کسی ایک جگہ یا
کسی مکان یا کسی ایک مقام پر ہے تو درد و تکلیف کی
دلیل ہے۔ جہاں پر ہوئی ہے۔

مینہ کا سر پر کسی کے خاص برسنا گناہوں کی کثرت اور معصیت و خطا کے گھیرنے کی دلیل ہے۔ توبہ کرنی چاہیے۔

مکان اپنا گرا یا خراب خواہ ویران دیکھنا

مکان نامعلوم کا دروازہ دعا کے قبول ہونے کی دلیل ہے۔

بند مقفل کو کھولنا

مال میں خیر و برکت و منفعت پر دلیل ہے۔

مال غیر طیب و غیر حلال ہیں جس سے رنج و غم کی دلیل ہے

فارع البالی کی دلیل ہے۔

اگر وہ جوان ہے تو دشمن ہونے کی نشانی ہے اور اگر مرد پیر

ہے تو اس کی سعی و کوشش اور بہرہ مندی کی دلیل ہے اور

اگر اس مرد پیر نے کچھ باتیں کیں یا کچھ دیا ہے حسب حال

دینے کے ہوگا۔

غیر کی کمائی کھانے کی دلیل ہے۔

کسی مصیبت میں پڑنے اور توبہ و آبروریزی کی دلیل ہے

مردہ اپنے حال سے یا غیر کے حال کی جو خبر دے اس کے

سچ ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ وہ دارالحق میں پہنچ چکا ہے

اگر میت کو شاداں و خنداں دیکھنے یا لباس سفید خواہ سبز

پہنے ہے تو اس کے اصلاح حال کی دلیل ہے۔ اور اگر

میت کو زنجیدہ خواہ برہنہ دیکھے یا جامہ کہنہ پہنے دیکھے تو

مغز انسان یا حیوان کا کھانا

مونڈنا حجام کا سر و داڑھی کا

میت سے سوال کرنا اور اس

کا جواب دینا

میت کی حالت کا دیکھنا

یہ حال بتلائے غضبناک کی دلیل ہے۔

جس نے مردہ سے کوئی چیز پائی خواہ دنیاوی کیوں نہ ہو تو صاحب خواب کو روزی و بہتری ایسی ملنے کی جس کی اُمید نہ تھی دلیل ہے۔

میت کا کچھ دیتے دیکھنا

اگر زندہ شخص نے میت کو کچھ دیا لباس وغیرہ ہے اور مردہ نے لے کر پہن لیا تو دینے والا مرجائے گا اور میت سے فر کر ملنے کی دلیل ہے۔

میت کو کچھ دینا زندہ کا

طول عمری کی دلیل ہے۔ ان تمام وجہوں کی طول حیات صاحب خواب کی دلیل ہے اور مردے کو قتل کرنے کی بھی یہی دلیل ہے۔

میت سے معانقہ کرنا خواہ بدن سے بدن ملانا دیکھنا یا گلے لگانا

صاحب خواب کے مرنے اور میت سے ملنے کی دلیل ہے۔

میت کے ساتھ کسی مکان نامعلوم میں جانا

صاحب خواب کی اولاد کے مرنے یا مال کے ضائع ہونے کی دلیل ہے۔

میت کا صاحب خواب کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا خواہ انگوٹھی کا لینا

اگر موزہ درست ہے پھٹا نہیں ہے تو معاش کی فراخی کی دلیل ہے۔ اور برعکس اس کے پریشانی کی دلیل ہے۔

موزہ دیکھنا

اگر صاحب خواب کی عورت حاملہ ہے تو پسر جننے کی دلیل ہے اور اگر عورت نے یہ خواب دیکھا تو لڑکی جننے کی دلیل ہے۔ اور یہ اولاد بہ شبیہ پدر یا مادر ہوگی اور مرادیں

مراة یعنی آئینہ دیکھنا

حاصل ہونے کی دلیل ہے۔

دشمن پر غالب آنے کی دلیل ہے۔

دشمن کے غالب آنے کی دلیل ہے۔

دشمن سے کوئی امر سخت پیش آنے کی دلیل ہے۔

دشمن پر ظفر یا ب ہونے کی دلیل ہے۔

دشمن کا صاحب خواب کے گھر ہی میں خواہ عورت ہے یا

مرد موجود ہونے کی دلیل ہے۔

صاحب خواب کے عیال سے کوئی دشمن تھا جس کے نکل

جانے کی دلیل ہے۔

گنہگارے عظیم ملنے کی دلیل ہے جو شاہی خزانہ سے ہوگا۔

کسی نیک مرد سے علم فقہ حاصل کرنے کی دلیل ہے۔

کسی کے قتل کرنے کی دلیل ہے۔

ماز بمعنی سانپ کو مارنا یا

اس پر غالب آنا

مار کا غالب آنا

مار کا ڈسنا

مار کا مار ڈالنا

مار کو اپنے گھر میں داخل

ہوتے یا گھر نہیں دیکھنا

مار کا جسم کے کسی عضو مثلاً

کان یا مقعد سے نکل جانا

مار سفید کو مطیع و فرمانبردار

دیکھنا یا ملنا اور اس میں کوئی

برائی کا نہ ہونا

مصطکی خواہ کندر کا دیکھنا

مہندی لگانا



ردیف "ن"

تعبیر

خواب

یہ خواب بالکل صحیح اور سچا ہوتا ہے کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آسکتا اور تمام مرادیں دینی و دنیاوی ہاتھ آنے اور انجام بخیر ہونے کی دلیل ہے۔	نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنا
صاحب صفت نیک خصلتیں ہونے اور گناہ معاف ہونے کی دلیل ہے۔	نماز راست پڑھنا
راحت و سرور حاصل ہونے اور فرض سے سبکدوش ہونے کی دلیل ہے۔	ناخن تراشنا
شہوت زیادہ ہونے اور بدکار عورت سے فائدہ پہنچنے کی دلیل ہے۔ یا شرف عزت حاصل ہے۔	ناک اپنی بڑی دیکھنا
ذلت و خواری کی نشانی ہے بلکہ افلاس کی نشانی ہے۔	ناک کا کٹ جانا
غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔	نہریا دریا کے وادوں میں پھنسا دیکھنا
مرض میں پھنسنے کی دلیل ہے۔	نہریا دریا سے گدلا پانی پینا
تمام مصیبتوں سے نجات ہونے اور خوشی کی دلیل ہے۔	نہر کو دوسری طرف سے کاٹ کر جاری کرنا
دشمن پر فتح پانے کی دلیل ہے۔	نیزہ مارنا
بہتری کی علامت ہے۔	ناخن دیکھنا

سفر کرنے یا عورت ملنے یا لڑکا پیدا ہونے کی دلیل ہے۔	نیزہ دیکھنا
مال حرام ملنے اور عمر ذلت سے بسر ہونے کی دلیل ہے۔	ناک سے خون بہنا
بڑا نامور ہونے رُتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔	نشان دیکھنا
دشمن پر مظفر اور منصور ہونے کی دلیل ہے۔	ناخن بڑا یا قوی دیکھنا
عزیز یا دوست سے فساد ہو یا تجارت میں نقصان ہونے کی دلیل ہے۔	ناخن ٹوٹا دیکھنا
حکومت ہاتھ آنے کی دلیل ہے۔	نقارہ بجانا
رنج دور ہونے راحت و سرور حاصل ہونے کی دلیل ہے	ناچ دیکھنا
عورت سے فتنہ ہونے زندگی ضیق میں پھنسنے کی دلیل ہے	ناچ خود ناچنا خواب میں
مال مشقت سے ملنے اور جلد خرچ ہو جانے کی دلیل ہے	ناک سے خون بہتے دیکھنا
نہایت خوشی کی خواہ شادی سے یا پیدائش اولاد سے ہونے کی دلیل ہے۔	ناریل دیکھنا
راحت خلق کو پہنچانے اور نام آوری کی نشانی ہے۔	ندی دیکھنا
صحت کی نشانی ہے۔	نیم کا درخت خواہ کچھ حصہ دیکھنا
تعین پہننے سے کسی عورت سے ملنے کی دلیل ہے اور	تعین کا پہننا
اتارنے سے اپنی جو رو کو طلاق دینے کی دلیل ہے۔	اور اتار تے دیکھنا
بیمار ہے تو صحت پانے گناہوں سے پاک ہونے یا اور	نہریا دریا میں غسل کرنا
کوئی خوشی کی بات ہونے کی دلیل ہے۔	
عزت و آبرو سے رہنے اور مال بکثرت ملنے کی دلیل ہے	نکاح کرنا
بیمار ہونے کی علامت لیکن جلد صحت ہونے کی بھی نشانی ہے	نیولا دیکھنا

دشمن پیدا ہونے کی دلیل ہے۔	نوجوان نامعلوم کا دیکھنا
مقصد حسب وخواہ برآنے کی دلیل ہے۔	نشانیہ پر تیرا لگنا دیکھنا
دین خیر صلاح کی خاص دلیل ہے۔	نوش کرنا دودھ جانور
	ان نامعلوم حلال کا
ان سب کے دودھ سے روزی خیر حلال کی نشانی ہے ان	نوش کرنا خواہ پانا دودھ
میں بھیڑ بکری کے دودھ کی کمتر تعبیر ہے۔	گائے بھینس اور اونٹوں کا
صاحب خواب جس مقصد کیلئے مایوس ہو چکا تھا اس کے	نکاح کرنا زن مردہ سے
پورا ہونے کی دلیل ہے۔	خواب میں
تو صاحب خواب کیلئے شرف زیارت خانہ کعبہ کی دلیل یا	نکاح کرنا اپنی مادر یا خواہر
اپنے قرابت داروں سے نیکی اور صلہ رحمی کی نشانی ہے۔	یا اور کسی زن ایسی سے جس
	سے نکاح کرنا ہمیشہ کیلئے حرام
	تھا یعنی محرمہ سے
بے دینی و بے مذہبی کی دلیل ہے۔	ناہموار و کج کار راستہ دیکھنا



رویف ”و“

تعبیر

خواب

بدکاروں کو نصیحت کرنے اور نصیحت کرنے کی دلیل ہے
عنایت رب جلیل اور نیک کرداری کی دلیل ہے۔

وعظ کہنا خواب میں
وضو کرنا

برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی دلیل ہے
دنیا کے رنج و مصیبت کی دلیل ہے۔

وظیفہ پڑھنا
وباورنج یا دوزخ کے مبتلا دیکھنا



رویف ”ه“

تعبیر

خواب

دختر کے پیدا ہونے کی یا کوئی حسین کثیر ہاتھ آنے کی
دلیل ہے۔

ہرن دیکھنا

جہاں پر دیکھے وہاں کے باشندوں اور اس سرزمین پر آفت
آنے کی دلیل ہے۔

ہوائے تند کا دیکھنا

الفت و محبت خالق سے ہونے کی دلیل ہے۔

ہدیہ بھیجنا

بے دین و بے کار ہونے کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ

ہاتھوں کو بندھے دیکھنا

ہاتھ خشک یا ست ہو گئے ہیں تو اس کے یار و آشنا کنارہ

کریں گے۔

ہاتھ کئی ایک دیکھنا اپنے اگر نیک ہے نیکی میں ترقی ہوگی اور جو مفسد ہے تو فتنہ بہت کرے گا۔

ہاتھ میں مہندی لگانا کسی کے قتل پر آمادہ ہونے کی دلیل ہے۔
ہرن کا خواہ گو سفند کا بچہ دیکھنا کوئی مراد حاصل ہونے کی دلیل ہے۔



رویف الف

تعبیر خواب

کسی بڑے کام میں پیش ہو جس کام یا عہدہ پر مقرر ہو ترقی ہو۔

جلدرنج میں مبتلا ہو قید فرنگ کا سامنا ہو۔

بزرگ آدمی کی صحبت سے فائدہ ہو اور فتنہ و فساد بند ہو۔

مرتبہ بلند ہو یا فرزند ارجمند ہو۔

بے شمار نفع ہو فضول خرچ سے بچے۔

ذلت و خواری کا سامنا ہو مرتبہ سے گرے گا۔

عزت و آبرو میں ترقی ہو حاکم وقت مہربان ہو۔

گردش قسمت میں مبتلا ہو حکام سے فائدہ نہ ہو۔

مرد بزرگ کی زیارت سے محروم ہو جائے۔

علم و حکمت حاصل ہو دنیا میں مشہوری ہو۔

خواب

آب جاری دیکھنا

آب شور دیکھنا

آب مصفا دیکھنا

آسمان دیکھنا

آگ جلا کے کچھ پکانا

آسمان سے گرنا

آفتاب دیکھنا

آفتاب پر آبرو دیکھنا

آسمان نہ دیکھ سکنا

آسمانی فرشتوں کو اپنے

پاس سے گزرتے دیکھنا

آسمانی فضا میں اڑنا
برکت و نعمت حاصل ہو اور جات میں ترقی ہو۔
آسمان پر سیدھا اڑ کر پہنچنا
نقصان یا رنج ہو کسی دوست سے تکلیف ہو۔
آفتاب طلوع ہونا
کوئی نیا کاروبار شروع کرے نئی امیدوں کی جھلک دیکھے
آفتاب غروب ہونا
ناگہانی صدمہ ہو یا مشہور شخص یا خاندان کے بزرگ کی
فوتیگی ہو۔

آگ سے کپڑا جلنا
رنج اور نقصان ہو مصیبت آئے۔
آسمان سے ندا سننا
برکت و سلامتی حاصل ہو خیر کی خبر ہو۔
آسمان سے شہد کی بارش دیکھنا
نعمت حاصل ہو رزق زیادہ ملے خیر و برکت میں اضافہ ہو
آسمان سے خاک کی بارش
کم ہو تو نیک اور زیادہ مقدار ہو تو بد قال ہے نیک شگون
دیکھنا
نہیں۔

اجوائن چبانا
اولاد کی پیدائش دشمن پر فتح پانا۔
ادرک کھانا
صبح کے قریب یہ خواب مبارک رات کے ابتدائی حصہ
میں نخس ہے ناقص ہے۔
اذان دینا
کوئی نیک کام سرزد ہو دین کی تبلیغ کرے نیک کام
باعث برکت ہو۔

آسمان دیکھنا
مرتبہ بلند ہو امیدوں کے بند دروازے کھل جائیں۔
آسمان تک پہنچنا
عیش و عشرت کا مہیا ہو دوستوں میں عزت بڑھے۔
آباد مکان گرتے دیکھنا
گھر کے مالک کی موت واقع ہو مصیبت پیش آئے۔
آگ روشن کرنا
مبارک خواب ہے کوئی نیک کام سرزد ہو۔
آگ بجھانا
نخس خواب ہے دین کے کام میں رخنہ اندازی ہو۔

سفر در پیش آئے رتبہ اور عزت بڑھے نوکری کا تباہ ہونا	اڑنا ایک جگہ سے دوسری جگہ
سفر سے جلد نفع ہو بشرطیکہ اس کے پر ہوں۔	اڑنا قبلہ کی طرف اور
	واپس آنا
بیماری اور تکلیف کی نشانی ہے۔	آنکھ میں سرمہ لگانا
مالی فوائد سے محروم رہے سفر میں تکلیف ہو پریشانی آئے	آنکھ ضائع ہو جانا
مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے چند روز سخت پریشانی رہے	آنکھ دیکھنا
بیوی سے جدائی ہو خانہ داری کے معاملہ میں رنج ہو۔	انگوٹھی گم ہو جانا
بیماری اور تکلیف کی نشانی ہے۔	آنکھ میں سرمہ لگانا
خیر و برکت اور زیادتی رزق کا سبب ہو آرام آسائش عام ہو	ابر برستا دیکھنا
باعث پریشانی ہے توبہ کرے نیک ہو خوف خدا دل میں	ابر گر جتا دیکھنا
پیدا ہو۔	
اگر کسی کو آئینہ دیتا دیکھے تو علم سکھائے مال متاع کسی کو	آئینہ دینا
دیدے۔	
سرداری ملے باعزت و توقیر ہو شہرت پائے دولت ہاتھ آئے	آئینہ چمکتا دیکھنا
مال و دولت ملنے کی بشارت ہے لڑکی پیدا ہو۔	اڑو کا درخت دیکھنا
قید ہو تو رہائی پائے غلامی سے نجات حاصل ہو گناہوں	آزاد ہونا دیکھنا
سے توبہ کرے۔	
دنیا میں وبا پھیلے۔	آسمان سفید دیکھنا
ملک میں خوزریزی ہو جنگ چھڑنے سے تکلیف درپیش آئے	آسمان سرخ دیکھنا
دوست سے راحت ملے شادی ہو۔	انڈا کھانا

اونٹ پر سوار ہونا	سفر پیش آئے کسی مقدس مقام کی زیارت کرے۔
اونٹ سے گرنا	دین کے کاموں میں خلل پڑنے بیماری اور نقصان ہو۔
آلود دیکھنا	گمراہی کی دلیل ہے، مصیبت پیش آئے۔
امام بننا	قوم کا سردار ہو قبیلہ کا امیر مقرر ہو عزت حاصل ہو۔
امام لوگ بنائیں	شہر کا حاکم مقرر ہو بادشاہ سے عہدہ ملے لوگوں میں مشہور ہو
انار کا درخت دیکھنا	شادی ہو خوشی کے کام میں روپیہ صرف کرے۔
انجیر کھانا	بیماری سے شفا ہو۔
انگور ملنا	اچانک روپیہ حاصل ہو۔
انگور کھانا	جسمانی امراض سے صحت ہو۔
اڑدہا پر بیٹھنا	دشمن سے صلح ہو رنج و الم دور ہو۔
اڑدہا کو مار ڈالنا	دشمن کو ہلاک کرے اندیشہ دور ہو۔
استاد بننا	اگر بچوں کو پڑھائے تو دنیا میں راست گو ثابت ہو عزت حاصل ہو۔
اپنے آپ کو اندھا دیکھنا	نیک کاموں سے دور بھاگے برے کاموں کی طرف راغب ہو۔
اپنے آپ کو قتل کرتے دیکھنا	لمبی عمر پائے اور صحت حاصل ہو۔
اذان بے وقت دینا	ظلم و ستم کرے اور ہر ایک پر بداندیشہ کرے۔
اونٹ کو ذبح کرنا	کوئی کار خیر انجام دے بارگاہ الہی میں درجہ بلند ہو۔
اولیاء اللہ کی زیارت	مبارک خواب ہے دین و دنیا کے مقاصد پورے ہوں۔

اولیاء اللہ کو ناراض دیکھنا گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اللہ کے عتاب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

آئینہ دیکھنا بیوی سے ملال کا اندیشہ ہے درجہ اور مرتبہ کم ہو، اولاد پیدا ہو مال بے حساب ملے، انجام بے خیر ہو، حج و زیارت نصیب ہو عقل و دولت میں ترقی کا باعث ہے۔

اذان اقامت نماز سننا اجوائن کسی کو دینا خلق خدا کی خدمت کرنے پر ہیزگار ہو غم و اندوہ سے نجات حاصل ہو اور اگر ہاتھ سے گرتی دیکھے تو غم سے بچے۔

اولیاء ابدال کو دیکھنا اقبال مندی کا باعث ہے نیک کاموں میں زیادتی ہو۔ رتبہ بلند ہو نہایت خوشی ملے۔

دنیا میں دولت ملے عاقبت میں بیڑا پار ہو۔ مال و دولت ملے بارش کی علامت ہے۔ نقصان ہو۔

اونٹ دیکھنا ترقی و دولت ملے۔ آسمان پر اڑنا آسمان سے گرنا

تکلیف درپیش ہو۔ بزرگان دین سے فیض پہنچے دعا قبول ہو۔

مبارک خواب ہے بیٹی پیدا ہو۔ بے حساب نعمت ملے کاروبار میں ترقی ہو۔

مبارک خواب ہے فائدہ پہنچے۔ ترقی اور فائدہ کا موقع سے نکل جائے۔

آم کھانا

آم خریدنا

آم فروخت کرنا

اذان مکان کے گوشے میں	حق میں خیانت کرے، امانت ضائع ہو۔
انگوٹھی ملنا	خوشی ہو اچانک کوئی اچھی خبر سے۔
انگوٹھی پہننا	بزرگوں سے فائدہ پہنچے، عزت دیرینہ حاصل ہو۔
انگوٹھی پہنتا دیکھنا	حکومت مرتبہ بزرگی کی نشانی ہے، جلد مسرت ثروت ہاتھ آئے۔
انگوٹھی گرتا دیکھنا	قدر و منزلت زائل ہو، پریشانی حاصل ہو، مشکلات میں مبتلا ہو۔
انگوٹھی ٹوٹا دیکھنا	اہل و عیال سے مفارقت کا باعث ہو۔
انگور کی بیل دیکھنا	نیک اور خوش خوی عورت سے شادی کرے، آرام پائے۔
انگور کی بیل سوکھی دیکھنا	تکلیف و پریشانی اٹھائے، رنج و بلا میں گرفتار ہو۔
اوپر چڑھنا یا جانا	پہاڑ یا چھت یا کسی بلند مقام پر چڑھنا، کامیابی کی دلیل ہے۔ عزت و بزرگی پائے، بلند مرتبہ ہو، باعث خوشی ہو۔
انگور سفید کھانا	نعمت و برکت حاصل ہو۔

☆☆=====☆☆

ب

تعبیر خواب

دین سے بے بہرہ ہو دنیا میں مشغول ہو۔
 دولت ملنے پر خوشی ہو رنج و تکلیف دور ہو۔
 غم و اندیشہ کی نشانی ہے، قسمت قدرے پریشانی ہے۔
 غلہ ارزاں ہو خدا کی رحمت و مہربانی ہو۔
 بھائی یا عزت کا رنج اٹھائے ملال و غم پیش آئے۔
 رنج میں مبتلا ہو پریشانیاں دامن گیر ہوں۔
 اگر سبز دیکھے دولت ملے، اگر خشک دیکھے تو پریشانی ہو۔
 عمر اور عزت بڑھے اور مال و اسباب میں زیادتی ہو۔
 قرض ادا ہو جائے یا سفر حج پیش آئے۔
 کہیں سے اوپری آمدنی اور مال پائے مگر جلد وبال سامنے آئے۔

اندیشہ کی نشانی ہے باعث پریشانی ہے۔
 دشمن قید ہو۔

عورت کو خوشی حاصل ہو مرد دیکھے تو رنج پہنچے۔
 خوف و آفت پیش ہو رنج و مصیبت میں زیادتی ہو۔
 خیر و برکت حاصل ہو خدا تعالیٰ کی عنایت حاصل ہو۔
 بیماری اور کم عمری کی نشانی ہے۔

خواب

باجا بجانا یا سننا
 باوام کھانا یا دیکھنا
 بادشاہ کو غصہ میں دیکھنا
 بارانِ رحمت برستے دیکھنا
 بازو کٹا دیکھنا
 بادل چھانا
 باغ دیکھنا
 بال اپنے سفید دیکھنا
 بال سر کے کٹے دیکھنا
 بالائی کھانا

بانسری بجانا
 بازو دیکھنا

برات دیکھنا

برج دیکھنا

بزرگان دین کو دیکھنا

بندریابی کا بچہ

علم دین میں نقصان ہو بہت حیرانی ہو۔	بہرہ اپنے آپ کو دیکھنا
فرزند تولد ہو رنج و غم دور ہو۔	بیضہ مرغ دیکھنا
مصیبت کے بعد راحت ہو۔	باول میں چاند دیکھنا
اچھا خواب ہے دلی مراد پوری ہو۔	بارش میں بھیگنا
خوشی کی علامت ہے۔	باغ سبز دیکھنا
رنج و غم کا سامنا کرنا پڑنے امیدوں میں مایوسی ہو۔	باغ خشک دیکھنا
بادشاہ سے ظلم ظاہر ہو یا حاکم وقت سختی کرے۔	باول گرے بجلی چمکے
دشمن سے لڑائی ہو بالآخر غالب آئے۔	بچھو کو مارنا دیکھنا
دشمن سے گزند اٹھائے۔	بچھوڑ ستاد دیکھنا
لڑکا پیدا ہو باعث راحت و آرام ہو لڑکا کٹکھام ہو۔	باغ میں پودا لگانا
کاروبار میں تنزل آئے تکلیف اور رنج و ملال میں مبتلا ہو	باغ پر موسم خزاں دیکھنا
مال دولت جمع کرنے کاروبار وسیع ہو یا عزت ہو۔	باغ سے پھل توڑنا
عورت دیکھے تو زینت و حسن میں یکتا ہو مرد دیکھے تو آرزوہ	بال سر کے لمبے دیکھنا
وطلول ہو۔	
مال و زرع جمع کرنے عقل مند و انا ہو عزت پائے۔	بالوں سے گنجا سرد دیکھنا
نفع حاصل ہو راست بازی فہم عقلمند ہو۔	بالوں میں کنگھی کرنا
تندرستی اور درازی عمر کی دلیل ہے۔	سخت آپ کو دیکھنا
بادشاہ سے نفع ہو یا حاکم وقت مہربان ہو۔	بادشاہ کے قریب بیٹھنا
حالم باعمل متقی بے بدل ہو عوام میں عزت و حرمت پائے	بہشت دیکھنا
اولاد صالح پیدا ہو اعمال نیک کی وجہ سے دین و دنیا میں	بہشت کا پھل کھانا

عزت پائے۔

جنتی ہونے کی دلیل ہے دیندار ہو بزرگوں میں شامل ہو
عبادت میں خلل ہو یا قصد سفر باطل ہو ملال حاصل ہو۔
اگر موسم ہے تو اندیشہ و ملال ہو بے موسم دیکھنا فائدہ مند ہو
عورت سے فائدہ حاصل ہو اولاد میں ترقی ہو گھر آباد ہو
برکت فتح یابی امداد کرنے کی دلیل ہے کسی کو دوست بنائے
مال و منال اور منافع روزگار کثیر ہو صاحب تدبیر ہو۔
اگر موسم بہار دیکھے تو حکومت یا بادشاہ و تبدیل ہو۔
بادشاہ وقت سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور آرام پائیں
رنج و غم میں مبتلا ہو کسی بیماری میں گرفتار ہو۔

تنہیدی اور تنگی روزگار کا باعث ہے۔

مرد دیکھے تو رنج و غم کا سامنا ہو عورت دیکھے تو خوشی ہو۔
عزت و مرتبہ حاصل ہو۔

ذلت و خواری کا سامنا ہو۔

بیماری کی نشانی ہے صحت خراب ہو۔

کوئی خوشی ہو۔

کسی دوست یا رفیق سے ملاقات ہو۔

صلح ہونے کی دلیل ہے دشمن دوست بن جائے۔

عورت ملے یا دولت ہاتھ آئے فراخی رزق ہو۔

مال و دولت نعمت پائے خوشی نصیب ہو۔

بہشت میں داخل ہونا

بیمار آپ کو دیکھنا

بینگن دیکھنا یا کھانا

بوریاد دیکھنا

بوسہ لینا

بوسہ عورت کا لینا

بہار دیکھنا

بہار خوش گوارد دیکھنا

بھاگتا دشمن سے دیکھنا

بہرہ پن پانا

بارت دیکھنا

بلندی پر چڑھنا

بلندی سے گرنا

برف گرتے دیکھنا

برف کھانا

بغل گیر ہونا

بغل گیر دشمن سے ہونا

بکری پانا یا خریدنا

بکری کا گوشت کھانا

سرپرستی نصیب ہو سردار یا امیر مقرر ہو۔	بلبلیں دیکھنا
خوشی خلق ہر عزیز اور بزرگی کی دلیل ہے آرام و راحت پائے	بلبل پکڑنا
بیماری سے شفا پائے رنج و تکلیف سے نجات پائے۔	بلی کو مارنا دیکھنا
سخت بیمار ہو یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔	بلی کو حملہ آور دیکھنا
آفت میں مبتلا ہو گرفتار بلا ہو۔	بلی کالی دیکھنا
سخت آفت آئے بیماری میں مبتلا ہو۔	بندر کو چھٹا دیکھنا
بھائی کی جانب سے صدمہ ہو۔	بازو کٹ جانا
بھائی سے فائدہ پہنچے۔	بازو کا زیادہ طویل ہو جانا
خوف و آفت پیش آئے مگر جلدی نجات پائے۔	برج دیکھنا
درازی عمر کی نشانی ہے جتنا بزرگ دیکھے اس قدر بلند	بوڑھا آدمی دیکھنا
مرتبہ پائے۔	
عورت ملے آرام پائے بیمار ہو تو شفا پائے۔	بستر دیکھنا
کسی عزیز کا صدمہ ہو یا بھائی بیمار ہو جائے۔	بازو کمزور
بھائی کی موت یا کسی عزیز کی ناگہانی موت۔	بازو بند ٹوٹ جائے
فرزند صالح پیدا ہو یا نیک عورت سے نکاح ہو۔	باغ سرسبز کی سیر کرنا
فکر اور غم ہو مگر بجانے والا دوسروں کی بھلائی کرے۔	بانسری بجانا یا سننا
اگر عمدہ کھانا پکائے تو نیک فال ہے بہتری کی امید ہے۔	باورچی کا کام کرنا
غم دور ہو طبیعت میں سرور ہو۔	بائیسکوپ دیکھنا
تجارت میں فائدہ ہوا قبیل بلند ہو۔	بائیسکوپ چلانا
اگر روشن دیکھے تو کامیابی کی دلیل ہے یا لڑکا پیدا ہو۔	بجلی کا ققمہ دیکھنا

ملازم ہو تو برخواست ہو روزگار بند ہو جائے پریشانی اٹھائے
 بنا بنایا کام بگڑ جائے پریشانی ہو یا بیوی سے مفارقت ہو۔
 مال حرام پائے جس کی وجہ سے پریشان ہو، بخیل بد انجام ہو
 ترقی دین میں حاصل ہو اگر مسجد باغ، قبرستان وغیرہ کی
 بنیاد رکھے تو دین دار نیک اور دولت مند با عزت ہو سخاوت
 اختیار کرے۔

خیر و برکت کا سبب ہے کمال عنایت رب ہے۔
 بزرگی کی علامت ہے باعث ترقی و دولت ہے۔
 مرتبہ گھٹنے کی اور تنزیلی عہدہ کی علامت ہے باعث نکبت
 و مولاکت ہے۔

نیک قال ہے بہتری ہو اور ہر کام میں فائدہ ہو۔
 بیماری اور ہلاکت کی دلیل ہے۔
 نفع اور بھلائی اور کسی دوست سے نفع کی امید
 کاروبار میں ابتری ہو یا وجہ کو خوش دیکھے تو دولت دنیا
 حاصل ہو۔

دین کے کاموں میں ترقی ہو گناہوں سے بچے۔
 غیبت کا گناہ سرزد ہو۔

کوئی بگڑا ہوا کام بن جائے ناخوش دیکھے تو تعبیر برعکس
 اولاد یا ملازموں سے نقصان اٹھائے یا عزت میں فرق آئے
 اگر کام کرنا دیکھے تو عزت و قارمے دولت ہاتھ آئے۔

باز پکڑ کر مارتا دیکھنا
 باز ہاتھ سے اڑ جانا
 بنیاد پختہ اینٹ کی دیکھنا
 بنیاد ہکی اینٹ کی دیکھنا

بندگان دین کو دیکھنا
 بازار دیکھنا
 بلندی سے اترتا دیکھنا

بارش موسمی
 بارش سخت محدود مقام میں
 بارش دھیمی
 بھاوج سے لڑنا

بھائی کو قتل کرنا
 بھائی کا گوشت کھانا
 بہن کو خوش دیکھنا
 بیل سینگ مارتا دیکھنا
 بیچہ یا کدال دیکھنا

نفع اور کامیابی کی دلیل ہے۔	بیلنا دیکھنا یا پانا
مصیبت میں مبتلا ہو بیماری آئے۔	بھینسا دیکھنا
اگر ایک دیکھے تو عزت و دولت پائے اور زیادہ دیکھے تو	بھینس دیکھنا
غربی و ذلت پائے۔	
پریشان حال دیکھے تو خوشی ہو خوش حال دیکھے تو تعبیر	بہار کا موسم دیکھنا
برعکس ہو۔	
دنیاوی پریشانیوں سے نجات ملے۔	بہشت کی سیر کرنا
کسی بڑے آدمی کا عتاب نازل ہو۔	بھوکا شیر دیکھنا
عورت خاوند دونوں کے درمیان جدائی ہو۔	بنفشہ کا دستہ لینا یا دینا
دنیاوی فائدہ مگر نامعلوم جگہ ہو تو نقصان دارین ہو۔	بنیاد رکھنا



پ

تعبیر خواب

بہت سارے روپیہ ملے مگر جلد خرچ ہو جائے۔
اپنے ساتھیوں میں عزت بڑھے نہایت سرخرو ہو زرے ملے
بادشاہ ہو یا حاکم وقت سے فائدہ ہو۔
رنج اور سفر پیش ہو۔
رنج و مصیبت میں مبتلا ہو۔

خواب

پارہ ہاتھ میں دیکھنا
پان کھانا
پانی دریا کا پینا
پاؤں دیکھنا
پاؤں زمین پر مارنا

پرانی عورتوں کو اپنی طرف شہوت زیادہ ہو عورت تا بعد از ہو محبت کا سبب ہے۔

مائل دیکھنا

سفر پیش آئے کسی کام میں ترقی رک جائے۔

پاؤں پر درد ہونا

دلی مقصد پورا ہو کسی دوست سے فائدہ پہنچے۔

پانی پینا

غیر ضروری کام میں روپیہ صرف ہو۔

پانی زمین پر بہانا

روپیہ آسانی سے کمائے حکام خوش رہیں۔

پانی کا مزہ شیریں ہونا

سختی اور پریشانی کی علامت ہے۔

پانی میں غرق ہو جانا

کسی دشوار کام میں آسانی ہو بغیر ظاہری امداد کے کام

پانی پر چلنا

پورا ہو۔

مال ضائع ہونے کا سبب ہے پامال و خستہ حال ہو۔

پاؤں کٹا دیکھنا

جان جانے کا خطرہ لاحق ہو مصیبت و پریشانی اٹھائے۔

پاؤں ٹوٹے دیکھنا

عورت نیک خصال با کرہ ملے مجامعت سے لطف اندوز ہو

پاؤں میں نیا جوتا پہننا

عورت بد خصلت ملے اگر جوتا نیا پہنتے دیکھے تو با کرہ ملے

پاؤں میں تنگ جوتا پہننا دیکھنا

اگر جوتا پرانا ہو تو بیوہ یا مطلقہ سخت اور بد مزاج عورت ملے

مال و دولت ملے رحمت الہی شامل حال ہو نیک خصال ہو

پتے درخت سے اتارنا

سعادت و عظمت پائے بے اندازہ روزی ہاتھ آئے۔

پتے پھل دار درخت سے اتارنا

عزت مرتبہ اور ہنر سے تنزلی ہو (کچھ لوگوں کا خیال یہ

پاخانہ کرنا

ہے کہ یہ خواب دیکھے تو قرض ادا ہو میرے خیال میں پہلی

تعبیر صحیح ہے)

فرزند کو راحت ملے رنج و غم دور ہو۔

پیشاب کرنا

روزگار میں ترقی ہو عزت و مرتبہ حاصل ہو۔	پہاڑ پر چڑھنا
وبائی امراض کا اندیشہ شہر میں بد امنی ہو۔	پہاڑ کا ہلنا
حاکم کے غضب میں مبتلا ہو پریشانی کا سامنا ہو۔	پروانہ دیکھنا
علم معرفت حاصل ہو یا شاہی دربار میں جانا پڑے۔	پری یا پرستان دیکھنا یا پڑھنا
عورت ملے یا اولاد ہو دولت کی خوشی ملے۔	پستان دیکھنا
نیک کاموں کی طرف طبیعت مائل ہو دنیوی دولت ملے	پل صراط دیکھنا
قید میں گرفتار ہو رنج کا سامنا ہو۔	پنجرہ دیکھنا
تنگ دستی اور پریشانی و حیرانی ہو۔	پنچہ کٹا دیکھنا
رنج و مصیبت اور پریشانی کی علامت ہے۔	پنیر کھانا یا پتھر برسنا
غربت اور پریشانی کی علامت ہے۔	پہننے کا پرانا کپڑا دیکھنا
پیٹ میں لڑکا مر جائے یا سخت تکلیف ہو مگر تدبیر سے اچھا ہو جائے۔	پیشاب خون کا کرنا
غم اور پریشانی حاصل ہو۔	پیسہ پڑا پانا
کسی خوبصورت عورت پر عاشق ہو برا فعل کرے دولت ملے	پھول دیکھنا
خوف اور غم لاحق ہو مگر نجات ملے۔	پردہ دار دروازہ کا
بیوی کو طلاق دے عورت دیکھے تو بیوہ ہو۔	پردہ ضائع ہو جائے
اپنے ہم پیشہ سے دولت مند ہو۔	پروازی کرنا
حاجت پوری ہو اور فرزند پیدا ہو۔	پرندہ کا اڑ کر آنا
ہلاکت اور دولت کا نقصان	پروانہ کو مار ڈالنا
عربی سردار سے ملاقات یا کسی مسجد کا امام ہو۔	پتھر سیاہ لینا

رکس ہمسایہ سے فائدہ ہو یا کسی عورت سے مال ملے۔

پتھر سرخ

اگر وہ سیاہ یا سفید ہوں تو منافقت کی دلیل ہے۔

پتھر پہاڑ سے لینا

دولت چلی جائے یا پیغام موت ہے یا دوستوں سے۔

پٹھے جسم کے خشک

ترقی مراتب کی دلیل ہے حاملہ دیکھے تو فرزند ہو۔

پیشانی بلند دیکھنا

بیوی اور بچوں کو تکلیف ہو۔

پیٹ میں درد ہونا

بھائی کو تکلیف ہو۔

پٹھے میں درد ہونا

دشمن سے نجات ملے قرض ادا ہو۔

پیر پر چڑھنا

دین و دنیا کے مقاصد پورے ہوں۔

پتھروں کی زیارت

مرتبہ بلند ہو سفر میں آرام ملے۔

پری سے گفتگو کرنا

رنج کی نشانی ہے افلاس بڑھے۔

پیسہ ہاتھ سے گرنا

عیش و آرام حاصل ہو قرضداری سے نجات ملے۔

پیسہ پانا

جھوٹے افسانے تراشے دوستوں میں ہوا خیزی ہو۔

پتنگ اڑانا

پیار ہو تو شفا پائے اگر تندرست دیکھے تو کامیابی ہو۔

پانی میں نہانا دیکھنا

درازی عمر پائے نیک بختی نصیب ہو۔

پانی میٹھا پینا

بلا محنت و مشقت روزی کا سامان ہو۔

پانی نلکا سے نکالنا

دوستوں اور عزیزوں سے نفع پہنچے۔

پانی پمپ سے کھینچنا

شدید مصائب نازل ہوں۔

پہاڑ کا پھٹ جانا

شادی ہو گناہوں سے محفوظ رہے۔

پاجامہ پہننا

کسی شخص کو تہمت لگائے۔

پتھر مارنا

رنج و غم کی نشانی ہے۔

پتھر چباننا

کسی دشوار معاملہ میں ہمت اور استقلال سے کامیابی ہو	پتھر توڑنا
روپیہ کا فائدہ ہوا چھی خبر سے۔	پستہ کھانا
مقاصد پورے ہوں دوستوں سے راحت ملے۔	پھول چننا
رنج و غم سے نجات پائے پوشیدہ راز آشکار ہو۔	پردہ ہوا سے اڑنا دیکھنا
بادشاہ کیلئے اچھا ہے اور رعایا کیلئے کسی حالت میں اچھا نہیں	پردہ نیا دیکھنا
دلی مراد پوری ہو باعث مسرت ہے۔	پردہ اتارنا
رنج و الم میں مبتلا ہوا اگر فروخت کرنا دیکھے تو افلاس و تنگی	پرانا کپڑا دیکھنا
و غریب ہو۔	
عورت فوت ہو یا مال و زر میں کمی واقع ہو۔	پسلی کی ہڈی ٹوٹی
غم و اندوہ میں مبتلا ہو۔	پسود دیکھنا یا مارنا
مصیبت میں گرفتار یا کوئی آفت آئے۔	پسوکو کاٹتے دیکھنا
مال حلال کمائے اور اگر بیمار دیکھے تو شفا پائے۔	پسینہ آنا دیکھنا
دولت و نعمت حاصل ہو۔ اگر خریدے یا گھرائے تو نعمت	پشم پاس دیکھنا
و دولت پائے۔	
دولت ضائع کرے یا نقصان ہو بہر حال باعث پریشانی ہے	پشم ضائع کرنا دیکھنا
دلی مراد بر آئے حکومت سے فیض حاصل ہو مال و زر	پل دیکھنا یا گزرنا
جمع کرے۔	
بادشاہ پر مصیبت پڑنے کا باعث ہے۔	پل شکستہ دیکھنا
راحت و آرام پائے دولت و حکومت ہاتھ آئے۔	پل بناتے دیکھنا
کسی مصیبت میں گرفتار ہو پردہ فروش بنے یا قید ہو۔	پنجرہ دیکھنا

دکھو درد سے رہائی پائے، مصیبت ٹل جائے۔	بجبرہ ٹوٹا ہوا دیکھنا
جنگ اور دشمنی کے مترادف ہے۔	پن چکی دیکھنا
مال و نعمت پائے، عورت و فوادار ہے۔	پیر دیکھنا
سفر و پیش ہو تجارت میں نفع پائے مگر کم حاصل ہو۔	پیر خشک دیکھنا
سفر میں محنت و مشقت سے مال و دولت ملنے پر مبنی ہے۔	پیر کھانا دیکھنا
راحت پائے دین دار پر ہیز گار ہو۔	پودینہ سبز دیکھنا
رنج و غم میں مبتلا ہو بے قرار و بے مددگار ہو۔	پودینہ خشک دیکھنا
مال حرام حاصل کرنے بدنام ہو، غیبت چغلی اختیار کرے	پیاز دیکھنا
حرام کھانے سے توبہ کرنے گناہوں پر پشیمان ہو۔	پیاز پختہ کھانا
دین کے کاموں میں خالی ہو مال دنیا بکثرت جمع کرے	پیاس لگنا
مال دنیا اکٹھا کرے، بخیل و کنیزور ہو۔	پیپ دیکھنا
رنج و غم، بیماری، مصیبت و نگافاد میں مبتلا ہو۔	پھٹکڑی دیکھنا
محبت الفت و ادااری پیدا ہو کامیابی کی پیش خیمہ ہے۔	پھٹکڑی کھانا
جسم پر زیادہ دیکھے تو مال و دولت جمع کرے۔	پھنسی پھوڑا دیکھنا
جس قدر خون نکلتا دیکھے اس قدر نقصان اٹھائے۔	پھوڑے سے خون نکلنا
فرزند دوست ملے کم ہمت ہو مگر خوشی نصیب ہو۔	پھول دیکھنا
لڑکازی و قار پیدا ہو۔ اہل و عیال سے آرام پائے یا دختر	پھول گلاب کا دیکھنا
بیاہ لائے۔	
اگر بادشاہ خود کو پہلوان بنا دیکھے تو قوت عظمت سلطنت	پہلوان بنا دیکھنا
زیادہ ہو۔	

پیشانی دیکھنا
 فرزندار جہند پیدا ہو نیک اور با تو قیر ہو بزرگی و تو نگری پائے
 پیشانی کشادہ دیکھنا
 سخاوت اختیار کرے متقی و پرہیزگار ہو عزت و مرتبہ پائے
 پیشانی پر پسینہ دیکھنا
 محنت رنج و تکلیف اٹھائے اگر سانپ چھو دیکھے رنج و الم
 زیادہ ہو۔


پنجمبر بننا دیکھنا
 اگر خود کو پنجمبر بننا دیکھے تو گمراہ بے دین ہو بلا و مصیبت
 میں پھنسے۔

پیالہ شیر و شربت کا پینا
 عورت نیک کردار یا خدمت گار خوش اطوار حاصل ہو۔
 خیر و برکت پائے۔

پیٹ انتڑیوں سے خالی دیکھنا
 اقارب سے مفارقت دوست سے مہاجرت ہو ملال
 شدت ہو۔

پیٹ پر بال دیکھنا
 خواہشات نفسانی حاصل ہوں۔ دین سے نفرت دنیا سے
 پیار ہو۔

پیٹھ تنگی دیکھنا
 بے یار و بے مددگار ہو تکلیف میں کوئی ساتھی نہ ہو۔
 پیسہ پانا یا دیکھنا
 تکلیف رنج و الم میں مبتلا ہو یا بیمار ہو۔



ت

تعبیر خواب

خواب

نو کر فرار ہو جائے باعث پریشانی ہے۔	تازیا نہ دیکھے
کمزوری یا بیماری کی علامت ہے۔	تالکھانہ کا درخت دیکھنا
اگر صاف پانی کا دیکھے تو خوشی نصیب ہو۔ پانی گندلا ہو تو بیماری آئے۔	تالاب دیکھنا
بیمار ہو تو شفا پائے اگر تندرست دیکھے تو دنیا سے کنارہ کش ہو	تالاب میں نہانا
مال و منال حاصل ہو دولت دنیا ہاتھ آئے۔	تانبہ دیکھنا یا پانا
نکاح و شادی ہو باعث عیش و طرب ہو۔	تانبے کا برتن دیکھنا
جس شخص کی تصویر کھینچے اس سے فائدہ ہو۔	تصویر کھینچنا
رنج و غم کا سامنا ہو دین کی جانب سے بے رغبتی ہو۔	تماشہ دیکھنا
کسی اہم واقعہ سے عبرت حاصل ہو۔	تھیٹر دیکھنا
کوئی دشوار کام آسان ہو۔	تیزاب پینا
کسی مقصد میں کامیابی ہو اگر خواب میں تعویذ لے اور باندھے نہیں تو رنج و غم کا سامنا ہو۔	تعویذ باندھنا
تالاب اگر صاف ہو تو عزت و مرتبہ حاصل ہو۔ گدلا اور کثیف ہو تو اولاد سے تکلیف ہو۔	تالاب میں غسل کرنا
دشمن مغلوب ہوں کسی اہم معاملہ میں کامیابی ہو۔	توپ سر کرنا
ولی مقصد پورے ہوں عزت و مرتبہ حاصل ہو۔	تخت شاہی پر بیٹھنا

تخت شاہی دیکھنا

کسی افسر کی مہربانی شامل حال ہو۔

تربوز کھانا

کسی معاملہ میں ناکامی ہو رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے۔

تار کھینچنا

پریشانی کا باعث ہے مہربانی کی نشانی ہے۔

تکلیہ پانا

بزرگوں میں شامل ہوگی بزرگی حاصل ہو۔

تل چبانا

چوری میں مبتلا ہو گرفتاری کا سامنا ہو۔

تنبورہ بجانا

پلٹن کا عہدہ پائے یا شادی کا سامان پیش آئے۔

تنور دیکھنا

نعمت کی دلیل ہے دولت میں ترقی ہو۔

توپ دیکھنا

دنیا میں نیک نامی پائے دشمن پر غالب آئے۔

تیر دیکھنا

اقبال حاصل ہو دولت حاصل ہو۔

توپ چلانا

شاہی خدمت ملے یا مرتبہ بلند ہو۔

توت و شہوت

نفع کثیر ہو طیب مال ملے۔

تار دیکھنا

درازی عمر کی نشانی ہے۔

تار خیر آنا

پریشانی کی دلیل ہے صدقہ دو۔

تار کسی کو لکھ کر دینا

کسی خوش خبری کے ملنے کی نشانی ہے۔

تخت لتا دیکھنا

بادشاہ کو تنزل ہو یا سخاوت میں یکتا ہو۔

تابوت دیکھنا

دلی مراد بر آئے دینہ مال ہاتھ آئے۔

تاج دیکھنا

مرد دیکھے تو عزت و توقیر حاصل ہو عورت دیکھے تو شوہر پائے

تاج ملنا یا پانا

اگر بادشاہ دیکھے تو سلطنت وسیع ہو اگر اور پائے تو عزت

مرتبہ بلند ہو۔

تاج عورت کے سر پر دیکھنا بلند مرتبہ پائے صاحب عزت تو قیر ہو۔

تاج چمکدار دیکھنا	اگر عورت دیکھے تو صاحب عزت دولت مند سے شادی کرے
تاج ٹوٹا دیکھنا	تنزل کا باعث ہو، غربت آئے افلاس ذلت اٹھائے۔
تاج گرتا دیکھنا	عورت دیکھے تو شوہر فوت ہو، اگر بادشاہ دیکھے تو سلطنت میں زوال آئے۔
تخم گندم بونا	کام میں برکت ہو، خوشی و مسرت ہو۔
تخم جو بونا	مال جمع کرے، عیش و آرام پائے، نیک زندگی بسر ہو۔
تخم باجرہ بونا	غم و اندوہ میں مبتلا ہو، گرفتار رنج و بلا ہو۔
ترازو دیکھنا	قاضی بادشاہ حاکم کے برابر ہے۔ اگر پلڑے برابر دیکھے تو عدل و انصاف ہو۔
ترازو ٹوٹا دیکھنا	قاضی یا بادشاہ عادل حاکم فوت ہو جائے۔
تربوز دیکھنا	دولت ہاتھ آئے، عظمت و عزت پائے۔
تربوز کھاتا دیکھنا	مال و دولت اور نعمت پائے، مسرت حاصل ہو۔
تسبیح پڑھتا دیکھنا	متقی و پرہیزگار ہو، صبح و شام عبادت میں رہے دنیا سے نجات پائے۔
تصویر دیکھنا یا پانا	عورت ملے، مال حرام اکٹھا کرنے کی کوشش کرے۔
تصویر خریدنا	عورت خریدے مگر باعث پریشانی ہو۔
تصویر ٹوٹی دیکھنا	عورت سے جدا ہونے کا باعث ہے۔
تصویر اپنی بد صورت دیکھنا	سختی نازل ہو، کسی آفت میں گرفتار ہو، مشکل درپیش ہو۔
تصویر اپنی خوب صورت	عزت پائے، دولت ہاتھ آئے، آرام و آسائش ہو۔
ترش چیز کھانا	کاروبار میں کمی اور مال میں نقصان ہو۔

تکبیر کہتا دیکھنا دشمن سے محفوظ رہے۔ بلائے آسمانی سے خلاصی پائے خیر و برکت ہو۔

تکلا دیکھنا لڑکی باکرہ سے نکاح کرے۔

تکلا ٹوٹا دیکھنا لڑکی یا بہن فوت ہونے کی دلیل ہے۔

تکواردیکھنا لڑکایا لڑکی پیدا ہو دولت پائے۔

تکواری کو نیام دیکھنا عورت ملے نعمت و برکت پائے۔

تکواری زنگ آلود دیکھنا عورت فوت ہو باعث تکلیف ہو۔

تلی دیکھنا حلال جانور کی پائے تو مال پاکیزہ طیب ملے حرام جانور

کی دیکھے تو مال مشکوک و حرام پائے۔

بزرگ اور حاکم ہونے کی نشانی ہے۔

تنوردیکھنا

تور گرم روشن دیکھے گھر کی خوشحالی کا باعث ہو اہل و عیال خوشحال ہوں

نعمت ملے۔

تور شکستہ دیکھنا گھر کی بربادی ہو یا تنگی رزق ہو جائے کلفت مونج اٹھائے

رزق حلال و پاکیزہ ملے نعمت بے اندازہ پائے۔

رنج و غم سے نجات پائے ولی مقصد پورا ہو۔

تور میں روٹی پکانا

تیر نشانہ پر لگانا

گھر کے خادم یا منتظم سے تعبیر ہے نعمت برکت آسودہ

حال ہو۔

توانیادیکھنا

گھر کا خادم صالح اور نیک ملے آسائش رزق ہو۔

منتظم یا خدمت گار جاتا رہے یا تنگی رزق ہو جائے۔

تو اگم جاتا دیکھنا

عزت و حشمت حاصل ہو موجب خیر و برکت ہے۔

تورات شریف پڑھنا

غم و الم میں مبتلا ہوا اگر پھول توڑے تو فرزند پیدا ہو۔	توڑنا کسی چیز کو
رزق میں برکت ہو خوشحال ہو عمر دراز پائے۔	تو شک فراخ
نیک نیت راست باز ہو حکومت انصاف کرے۔	تول پورا تولنا
بخیل و عا باز مکار فریبی ہو ذلالت اٹھائے۔	تول کم تولنا
سخاوت اختیار کرے نیک و متقی اور دلعزیز ہو۔	تول زیادہ تولنا
بے دین بے حیا ہو اسلام سے گمراہ ہو۔	تھو کنا مسجد میں
بدنام و بے لگام ہو برائی اختیار کرے۔	تھو کنا مجلس یا گھر میں
خوبصورت عورت ملے باعث مسرت ہو۔	تیر و یکھنا
عورت کا مال کھائے یا ملال حلال آئے۔	تیر کا گوشت کھانا
کنیز یا خادم پائے دولت ہاتھ آئے راحت آرام میسر آئے	تیر پکڑنا
اگر گم ہو یا اڑ جائے تو عورت سے جدائی ہو یا کنیز جاتی رہے۔	تیر اڑنا دیکھنا
نیک نام اور بلند مرتبہ حاصل ہو۔	تیل خریدنا
مرتبہ بلند ہو بزرگی حاصل ہونا مور ہو۔	تکیہ دیکھنا
پھل دیکھے تو عورت ملے یا اولاد پیدا ہو۔	توت شہوت دیکھنا
مال طیب ملے منفعت پائے آرام سے زندگی بسر ہو۔	توت کا درخت دیکھنا

☆☆=====☆☆

ٹ

تعبیر خواب

دیانت داری اور دینداری حاصل ہو نیک صحبت اختیار کرے
 دولت بے اندازہ پائے آخرت نیک ہو۔
 عورت پاکیزہ ملے مال طیب و ظاہر ہاتھ آئے۔
 باعث تنزل و خواری ہے نقصان پائے پریشان ہو۔
 مہمان نوازی کی وجہ سے خرچ زیادہ ہو۔
 کسی سفر کے درپیش آنے کی علامت ہے۔
 کسی کی شرکت کے باعث نقصان ہو۔
 غم و اندوہ میں مبتلا ہو۔
 رنج و غم سے نجات حاصل ہو مسرت کا باعث ہو۔
 محنت و مشقت سے رزق حاصل ہو۔
 تجارت یا کاروبار میں ترقی ہو۔
 اولاد سے کوئی فوت ہو یا کاروبار میں خسارہ ہو۔
 لڑائی جھگڑا کرنے برے کاموں میں مبتلا ہو۔
 عوام میں عزت ہو لوگ اطاعت کریں۔
 اگر دشمن کو ٹھوکر مارے تو وہ مغلوب ہو کسی اچھی چیز کو
 ٹھوکر مارے تو رنج و غم کا سامنا کرنا پڑے نعمت زائل ہو
 توقعات میں ناکامی ہو افلاس و اسفیر ہو۔

خواب

ٹاٹ (جام) دیکھنا
 ٹاٹ زیادہ خریدنا
 ٹاٹ نیا دیکھنا
 ٹاٹ پھٹا دیکھنا
 ٹانگا خریدنا
 ٹانگے پر سوار ہونا
 ٹانگہ جوتے دیکھنا
 ٹانگہ سے گرنا
 ٹانگہ سے اترنا
 ٹٹو پر سوار ہونا
 ٹٹو خریدنا
 ٹٹنہ ٹوٹا دیکھنا
 ٹٹنہ سے کھیلنا
 ٹڈی کا جھنڈ دیکھنا
 ٹھوکر مارنا
 ٹوٹا برتن دیکھنا

گناہوں سے توبہ کرے خدا اس کا بیڑا پار کرے۔
 ٹڈیاں دیکھنا
 لشکر کی سرداری پائے، تنخواہ کافی ملے، حکومت ملنے کی
 ٹڈی دیکھنا
 دلیل ہے۔

عزت و توقیر بڑھے اور مرتبہ بلند ہو۔
 شرام دیکھنا یا سوار ہونا
 سفر کی نشانی ہے، باعث رنج و کلفت ہو۔
 ٹکٹ خریدنا ریل کا
 عزت و مرتبہ بلند ہونی ایجاد کرنے، شہرہ آفاق حاصل ہو
 ٹکٹ ہوائی جہاز کا
 اگر صالح دیکھے توجیح کرے، اگر گنہگار دیکھے تو مصیبت و
 ٹکٹ سمندری
 موت آئے۔
 جہاز کا خریدنا

کسی کا خط ملے یا خط لکھے۔
 ٹکٹ ڈاک کا دیکھنا
 گمشدہ عزیز یا دوست کو پائے یا سفر سے واپس آئے۔
 ٹمٹم دیکھنا
 باعث عزت ناموس ہے، جس قسم کی ٹوپی دیکھے، اس کے
 ٹوپی دیکھنا
 مطابق تعبیر ہے یعنی اگر جناح کیپ دیکھے تو مسلم لیگ
 کا لیڈر ہو۔

عادات مسکین پیدا کرے، غرور و تکبر سے نفرت ہو یا د
 ٹوپی درویشانہ پہننا
 خدا میں رہے۔

بہادر دلیر ہو دشمن پر غالب آئے، فاتح ملک ہو نام پیدا کرے
 ٹوپی مجاہد کی پہننا
 عزم استقلال ہمت جرات، عزت پائے، دولت ہاتھ آئے
 ٹوپی ترکی پہننا
 دنیاں چالباز، فریبی، مکار، دھوکہ باز ہو مال حرام پائے۔
 ٹوپی لمبی نوک دار پہننا
 بے عزت و نگ و ناموس ہو قلاش ہو جائے۔
 ٹوپی پھٹی پرانی پہننا

جاسوس ہو یا ڈاکو راہزن چور بنے، لوگوں کو نقصان پہنچائے
 ٹوپی سیاہ پہننا

ٹھوڈی دیکھنا عظمندی و سرداری ملے صاحب تو قیر ہو۔
 ٹھوڈی لمبی دیکھنا اہل و عیال میں ذلیل و خوار ہو۔
 ٹھوڈی سے خون بہتا اپنے خاندانی بزرگوں سے نقصان اٹھائے۔

☆☆=====☆☆

ث

تعبیر خواب

خواب

روز کی کشادہ ہو راحت بے انداز ہو۔
 خوبصورت عظمند خوش قسمت اولاد پیدا ہو۔
 اولاد کی طرف سے تکلیف اٹھائے پریشان حال ہو۔
 کاروبار میں تنزل آئے یا اولاد بد مزاج پیدا ہو۔
 عیش و عشرت، عزت و مرتبہ بلند ہو۔
 اس قدر تنزل آئے عزت و دولت اور بزرگی میں کمی پیدا ہو۔

ثرید دیکھنا

ثمر بیٹھا کھاتا دیکھنا

ثمر ترش کھانا

ثمر کڑوا کھانا

ثریاد دیکھنا

ثریاماند ہوتے دیکھنا

☆☆=====☆☆

ج

تعبیر خواب

خواب

صحت مند ہو، نیک نصیب پیدا ہو، خوشی ہو، دولت و حشمت زیادہ ہو۔

جنازہ دیکھنا

رنج رنج ہو، خوشی کا سامنا ہو، اگر خشک جنگل دیکھے تو رنج ہو پیوی جنگ کرے اور پریشان کرے۔

جنگل ہرادیکھنا

ضعیف ہو، لوگوں کی نظر میں حقیر اور بے توقیر ہو۔

جوتا تنگ پہننا

کسی عارضہ میں مبتلا ہو، رنج و تکلیف کا سامنا ہو۔

جوں دیکھنا

علم حاصل ہو، جہالت دور ہو۔

جونک دیکھنا

دنیا میں عزت ملے، عاقبت میں بیڑا پار ہو، پرہیزگاری کی دلیل ہے۔

جوہر دیکھنا

جہاد کرنا (جنگ)

دولت و نیا جمع کرنے کی علامت ہے۔

جال سے شکار کرنا

مال ضائع ہو، غریب و مفلس ہو جائے، پشیمانی اٹھائے۔

جال پھٹا پرانا دیکھنا

اگر گھر میں جانماز دیکھے تو خیر و برکت ہو، یادِ الہی میں

جانماز مصلا دیکھنا

مشغول ہو۔

ملک حجاز کا سفر درپیش ہو، حج کرے۔

جانماز مسجد میں دیکھنا

لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، یعنی تلقین و عطا و نصیحت کرے

جانماز کسی کو دینا

لوگوں کو اپنے ماتحت کرے۔

جادو کرنا دیکھنا

فتنہ و فساد برپا ہو، باعث حیرانی ہے۔

جادوگر دیکھنا

جادو گر سے لڑنا دیکھنا	فتنہ و فساد کو مٹانے، صلح محبت پیار کی تعلیم دے۔
جَبَّہ پہننا دیکھنا	نیک بخت خوش سلیقہ عورت سے شادی کرے۔
جَبَّہ اُتارنا دیکھنا	عورت سے مفارقت ہو۔
جنوں کی ہمراہی	فریب میں پھنس کر نقصان اُٹھائے۔
جبرائیل فرشتہ	خوش ہوں تو دشمن پر فتح ہونا خوش دیکھے تو غم ہو۔
جبرائیل کا کچھ دینا	شاہ وقت قدر کرے، رتبہ بڑھے یا خوف لاحق ہو۔
جعفر صادق کو دیکھنا	حج اور جہاد کرے، لوگوں میں باعزت ہو۔
جادو کرنا	کار باطل دے ہو وہ کرے، معمول کے واسطے فتنہ ہے۔
جَبَّہ کسی کو پہنانا	اپنی لڑکی کی شادی کرے، عزت و عظمت پائے۔
حج یا منصف دیکھنا	کسی نیک شخص سے منفعت حاصل ہو۔
حج خود کو بنا دیکھنا	عزت و بزرگی کی دلیل ہے، منصف مزاج دولت مند ہو
جراب دیکھنا	مال و دولت حاصل ہو۔
جراب پہننا	بیابان کا سفر تہوار پیش ہو، مال و دولت حاصل ہو۔
جراب فروخت کرنا	مال و منال ضائع کرے۔
جسم رنگا دیکھنا	غم و اندوہ اور تنگ رزق کا باعث ہے یا بیماری آئے۔
جسم فریبہ دیکھنا	غربت، تنگدستی اور بیماری کی علامت ہے۔
جگر دیکھنا	مال پوشیدہ ملے، عیش و عشرت میں عمر بسر ہو۔
جھنڈا سرخ رنگ کا دیکھنا	دشمن مغلوب ہو، حکام سے فائدہ پہنچے۔
جھنڈا سیاہ رنگ کا دیکھنا	قوم میں عزت ہو، احکام دینی بجالائے۔
جھولا جھولنا	عورت سے آرام ملے، مگر خیالات پریشان رہیں۔

روپیہ غیر ضروری طور پر صرف ہو، مقروض ہو جائے۔	جھاڑودینا
مصیبت سے نجات حاصل ہو، پریشانیوں کا دور ختم ہو جائے	جنگل میں دوڑنا
اگر غالب آئے تو خیر و برکت ہو، عزت و توقیر پائے۔	جھگڑا کرنا حاکم سے
لوگوں کو ستائے ظالم و جفا کار ہو۔	جھگڑا کرنا بے سبب
مہربان عورت اور خوبصورت کنیز ملے، دولت آرام و راحت پائے	جھولا میں بیٹھنا
کاروبار میں بے پناہ ترقی ہو، شادی کا انتظار کرے۔	جھولا تیار کرنا
امام وقت عالم یا فقیر روشن ضمیر ہو یا صاحب عزت و توقیر ہو	جھنڈا سفید دیکھنا
پیماری آئے یا تکلیف اٹھائے مگر جان سے بچ جائے۔	جھنڈا از رو دیکھنا
سخت سفر درپیش ہو، مگر عاقبت پیش ہو۔ مراجعت کرنے	جھنڈا سبز دیکھنا
سلامت رہے۔	
حکومت سرداری، عزت جاہ و حشمت پائے۔	جھنڈا ہاتھ میں دیکھنا
عہدہ سے تنزل ہو باعث پریشانی و حیرانی ہے۔	جھنڈا ہاتھ سے گرنا
اگر عورت خواب دیکھے تو لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری ہے	جھولی میں پھول ڈالنا
اگر آدمی خواب دیکھے تو بزرگی ملے، دولت دین و دنیا پائے	
عورت ترقی دین درازی عمر مال و نعمت خیر و برکت پائے	جھولی دیکھنا
باعث رنج و تکلیف و پریشانی ہے، لڑکی کی موت واقع ہو۔	جھولی خالی دیکھنا
رنج و الم اٹھائے، کسی بہتان میں بدنام ہو۔	جیل خانہ دیکھنا
معمولی تکلیف ہو خیالات پریشان رہیں۔	جھینگر کا شور
کوئی بڑی نعمت حاصل ہو۔	جنت کی سیر
عیش و عشرت، دولت مندی حاصل ہو، بزرگوں میں داخل ہو	جنت دیکھنا

عصیاں سے تائب ہو، راہ ہدایت پائے، نیکیوں میں شامل ہو	جنگل توڑنا دیکھنا
دشمن پر غالب آئے، آرام و راحت پائے۔	جنگل دیکھنا
بادشاہ یا حاکم ہو یا سرداری پائے۔	جنگل میں شکار کھیلنا
غم و اندوہ سے نجات پائے، آرام سے زندگی بسر ہو۔	جنگل میں سیر کرنا
خیر و برکت کا باعث ہے، اگر روٹی کھائے تو بزرگی حاصل ہو	جو خشک دیکھنا
مال جمع کرے، عزت حاصل ہو، دولت مند ہو، خوشی نصیب ہو	جو بونا
اگر بوڑھا آدمی اپنے تئیں جوان دیکھے تو نقصان اٹھائے	جوان ہونا
دنیاوی تفکرات دامنگیر ہوں۔	جال میں پھنس جانا
کوئی دشمن پوشیدہ طور سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے	جال مکڑی کا دیکھنا
دلی مقاصد پورے ہوں، کاروبار میں ترقی ہو، دولت ملے	جال میں مچھلی پھانسا
اگر حلال جانور کو ذبح کرے یا گوشت کھائے تو فائدہ ہو	جانور ذبح کرنا
حرام جانور کی تعبیر برعکس ہے۔	
اچھی خبر سنے، کشائش کار ہو۔	جاسید اوتلف ہونا
کاروبار میں خوشگوار تبدیلی ہو۔	جہاز پر سوار ہونا
عورت سے رنج ہو، سفر پیش آئے۔	جہاز دیکھنا
لوگوں کو علم سکھائے، معلم و اتالیق بے بدل ہو، سخاوت	جواہرات فروخت کرنا
کمال ہو۔	
بخیل حاسد ہو، لالچی عالم ہو، ریا کاری پیشہ اختیار کرے۔	جواہرات گم جانا
بزرگوں کا ہم نشین ہو، علم ظاہری باطنی سے فائز، للرام ہو	جوہری دیکھنا
فرمانِ الہی کی متابعت کرنے، صالحین میں شمار ہو، نیک	جہاد کرنا

کردار ہو۔

جہاد پر تیار ہونا ترقی دین ہو پر ہیزگار عادل متقی ہو دولت حاصل ہو۔

☆☆=====☆☆

بج

تعبیر خواب

خواب

بادشاہ یا وزیر ہو عالم یا تو قیر ہو عورت جمیلہ یا دولت ملے
فرزند سعادت مند پیدا ہو عورت جمال ملے مگر عورت
دیکھے تو شوہر ذی رتبہ و ذی کمال ملے۔

چاند دیکھنا
چاند گویا گھر میں دیکھنا

نکبت و فلاکت ہو اسقاطِ حمل ہو جائے کچھ نہ کچھ خلل آئے
غم و اندوہ میں مبتلا ہو جان و مال کے نقصان کی علامت ہے
اس زمین کے رہنے والوں کو حاکم سے منفعت ہو۔

چاند کو دھندلا دیکھنا
چاند گرہن لگنا دیکھنا
چاند زمین میں دیکھنا

راحت پائے۔

مال و دولت سے گھر بھرے مگر آنکھوں کو قدرے نقصان ہو
کنیز خوبرو سے وصلت رہے دن رات مسرت رہے۔
کسی عورت سے مکر کرے یا دھوکہ دے کر کام میں لائے
رنج و غم دور ہو حاصلِ راحت و سرور ہو دولت پائے۔
خفیف جلال ہو دولت کا زوال ہو۔

چاندنی دیکھنا
چاندنی کا ٹکڑا دیکھنا
چاندنی کان سے نکالنا
چاندی کا زیور پہننا
چاندی کھوٹی دیکھنا

چادر دیکھنا خریدنا	عورت ملے شاد و آباد ہو سکھ و آرام پائے۔
چادر اوڑھنا	عورت دیکھے تو شادی کرے۔
چادر سے گم جانا	شوہر کے فوت ہونے کی علامت ہے۔
چادر پھٹی دیکھنا	پردہ درمی ہو جائے یا بے عزت ہو۔
چاہ و کنواں کھودنا	عورت حاصل کرے، مشقت سے مال ہاتھ آئے۔
چاہ کا پانی پینا	مال حاصل ہو، اگر بیمار پیے تو تندرستی پائے، خوشخبری ملے
چائے پینا	فتح و کامرانی اور تندرستی حاصل ہو، ولی مراد پائے۔
چبوترہ دیکھنا	والدین کی درازی عمر ہو، صحت و سلامتی کا باعث ہے۔
چبوترہ میں آرام کرنا	والدین کے زیر سایہ رہے، ان کو مہربانی پائے۔
چٹائی خریدنا	نکاح کرے، زیب و زینت سے گھر آراستہ ہو۔
چٹی شیریں کھانا	خیر و برکت کا باعث ہے، کسی دولت سے تحفہ ملے۔
چنبیلی کا پھول سوگھنا	بیٹی پیدا ہو، کنوارا دیکھے تو شادی ہو۔
چرس پینا	کوئی حیرت انگیز خبر سنے۔
چارپائی پر لیٹنا	ولی خواہش پوری ہو۔
چمڑا دیکھنا	پوشیدہ دشمن یا بد صورت عورت سے تکلیف ہو۔
چیل اڑتی دیکھنا	ناگہانی مصیبت نازل ہو۔
چھین مار کر رونا	مصیبت اور رنج و پریشانی کا سامنا
چلم بھرنا	عزت مرتبہ اور ہنر سے تنزل ہو۔
چین گھڑی کی ٹوٹنا	روزگار میں خلل پڑنے، صحت خراب ہو۔
چچک میں مبتلا ہونا	دولت ملے، دنیاوی معاملات میں آسانی ہو۔


کسی کام میں خلل پڑے دشمن روڑا اٹکائے۔	چھلکے پر پیر پھسلنا
کام میں ترقی ہو باعث کامیابی ہے۔	چھٹی لکھنا
عورت سے فائدہ بے اندازہ پائے راحت و آرام پائے	چراغ جلا گھر میں دیکھنا
اگر کنوارا ہو تو شادی کرے اولاد سے بھی تعبیر ہے۔	چراغ روشن کرنا
کوئی مصیبت درپیش آئے رنج اندوہ میں مبتلا ہو۔	چراغ گل کرنا
نعمت دولت کامیابی حاصل ہو خیر و برکت پائے۔	چربی دیکھنا یا کھانا
قدر و منزلت بڑھنے کا موجب ہے۔	چڑیا دیکھنا
کسی عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔	چڑیا پکڑنا
رنج و غم میں غرقاب ہو ملامت پائے۔	چڑیا کو گھونسلے سے اڑانا
مشکلات سے نجات حاصل کرے سفر میں ہو تو واپس آئے	چیونٹیاں مارنا
نیک عورت سے شادی ہو گھر کی آبادی ہو۔	چوکھٹ دیکھنا
جس سے محبت رکھے اس سے شادی ہو آرام پائے۔	چوکھٹ چومنا
گمراہ و بے دین ہو کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔	چلنا روشنی سے تاریکی کی طرف
جنگی رزق ہو فلاکت و خربت کا سبب ہے۔	چلنا ویران میں دیکھنا
وکیل یا اردلی سے ملاقات ہو حصول مقصد ہو۔	چمچہ دیکھنا
مقدمہ درپیش ہو وکیل یا اردلی کو ہمنوا بنائے فائدہ اٹھائے	چمچہ استعمال کرنا
آرائش اور زینت مکان ہو برکت مال و زیادتی سامان ہو	چمڑا آدمی کا دیکھنا
مال ورثہ کا ہاتھ آئے عیش و آرام پائے۔	چمڑا اونٹ کا دیکھنا
ترقی دولت و رزق ہو گائے کا چمڑا دیکھنا بھی نعمت کا	چمڑا بکری کا دیکھنا
باعث ہے۔	

چمڑا رنگنا
چنے خشک دیکھنا
چنے پختہ کھانا
وراشت کا مال بانٹے یا تحریر کرے یا ورثہ پر قابض ہو۔
غم و مصیبت میں گرفتار ہو یا بیمار ہو۔
رنج و غم میں کمی ہو اگر وال چنے کی کھائے تو تکلیف سے
نجات ہو۔

چنبیلی کا گلہ ستہ دیکھنا
چھال دیکھنا
چھاؤں دیکھنا
چھاؤں میں بیٹھنا
چھاؤں درختوں کی دیکھنا
دوست یا بیوی سے مفارقت پائے۔
گمشدہ چیز حاصل ہو جائے اور مفلسی و تنگدستی دور ہو۔
چھت کی چھاؤں دیکھنا بزرگی سرپرستی ہیبت سے تعبیر ہے
موت قریب ہونے کی علامت ہے۔
فتنہ و فساد کی دلیل ہے اگر درخت سبز کی چھاؤں ہو تو
نہایت اچھی ہے۔

چھت پر چڑنا
چھت دیکھنا
چوری کرنا
چوہہ پاکیزہ پہننا
چوہہ اتارنا
چوہہ ناپاک پہننا
چولہا دیکھنا
چولہا ٹوٹنا
چوناد دیکھنا یا خریدنا
چھندر کھانا
امارت بزرگی سرداری پائے کسی حاکم سے فیض حاصل ہو
کسی بزرگ کی محبت ہو بلند مرتبہ عزت و ولت پائے۔
گرفتار ہو بیماری پائے پریشانی اٹھائے۔
عورت نیک سیرت خوب رو پائے آرام حاصل ہو۔
عورت کو علیحدہ کرے یا جدائی پائے۔
عورت ناپسندیدہ اخلاق و بد مزاج ملے۔
باعث زیادتی رزق ہے آرام و راحت پائے۔
باعث ویرانی گھر ہو پریشانی حد سے زیادہ ہو۔
لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو باعث فساد ہے سختی و رنج اٹھائے
رنج و مصیبت پیش آئے پریشانی اٹھائے۔

دکھ تکلیف مصیبت سے نجات حاصل ہو آرام پائے۔	چندر پھینکنا
خوبصورت عورت یا خوشحال کثیر حاصل ہو۔	چکور مادہ دیکھنا
کنواری عورت ملے یا دولت و عزت پائے فرحت حاصل ہو	چکور کا گوشت کھانا
فرزند حسین و خوبصورت پیدا ہو۔	چکور زد دیکھنا
عزت حکومت مرتبہ رفعت بزرگی پائے۔	چھتری خریدنا
فرزند نیک پیدا ہو۔	چھری خریدنا
عورت ملے یا عزت سے زندگی بسر کرے۔	چھری کا غلاف دیکھنا
خیر و برکت کا باعث ہو دولت و نعمت پائے۔	چھری سے کچھ کاٹنا
خادم یا نوکر ہاتھ آئے آرام پائے۔	چھلنی دیکھنا
نوکر یا خادم کے فرار ہونے یا فوت ہونے کا سبب ہے۔	چھلنی ٹوٹی دیکھنا
بیمار ہو تو تندرست ہو ولی مراد پوری ہو خوشی حاصل ہو۔	چھینک آنا
دشمن کے ساتھ جھگڑا ہو پریشانی زیادہ ہو۔	چیتا دیکھنا
بہادر و بار عقل مند ذی قوت حوصلہ مند ہو۔	چیتے سے جنگ کرنا
دشمن پر فتح و نصرت پائے مرتبہ بلند ہو عزت و بزرگی ملے	چیتے پر سوار ہونا
روحانی فیض حاصل ہو عمدہ خوراک ملے۔	چالیسویں کی نیاز



ح

تعبیر خواب

خواب

اگر بیمار ہے تو صحت کلی ہے، مغفرت ہو۔	حیض سے پاک ہو کر غسل کرنا
خدا سے خطاؤں کی معافی مانگے ہم چشموں میں عزت بڑھے	حرم شریف دیکھنا
مقصد حاصل ہو امید پوری ہو۔	حج کرنا
گناہ معاف ہو۔	حق تعالیٰ کو حساب کیلئے دیکھنا
مرض سے نجات ہو، معشوق سے ہم کلام ہو، انجام نیک ہو	حقہ پینا
زنا میں مبتلا ہو، رسوائی حاصل ہو۔	حکم عورت کا ماننا
نیک کام زیادہ کرے، حاکم وقت سے فائدہ حاصل ہو۔	حلال کرنا جانور کا
علم حاصل ہو، جہالت دور ہو، درازی عمر کی نشانی ہے۔	خلوہ کھانا (یا لینا)
عورت نہایت خراب اور بدترے۔	حمام سرد اور بے آب دیکھنا
مصیبت دور ہو اور صحت حاصل ہو۔	حمام میں جانا اور غسل کرنا
جنت نصیب ہو، دعا قبول ہو۔	حور دیکھنا
خیر و برکت کی علامت ہے، خوشی حاصل ہو۔	حوض دیکھنا
بیمار ہو تو شفا پائے، عزت و بزرگی پائے، رحمت خدا ہو جائے	حج یا طواف کرنا
عادل بادشاہ کی زیارت ہو، افعال نیک کرے، علم دوست ہو۔	حج پر جانا
بیمار ہو تو صحت پائے، قرض دار ہو تو خلاصی پائے۔	حجامت بنوانا
دُکھ رنج دور ہو۔	
بزرگ دین سے یا حاکم وقت سے فیض حاصل ہو۔	حجر اسود چومنا

دین میں کامل ہو۔

دنیاوی رنج و الم دور ہو، عیش و مسرت پائے، غم غصہ کا فور ہو۔

دشمنوں سے محفوظ رہے، مشیت ایزدی شامل حال ہو۔

دلی مراد پوری ہو، عزت بلند مرتبہ حاصل ہو۔

رنج و غم میں مبتلا ہو، تکلیف اٹھائے۔

کسی آوارہ اور بدکار عورت سے ذلیل۔

فکر اور غم و اندوہ میں مبتلا ہو، محنت و مشقت اٹھائے۔

دشمن دوست بن جائے، دین کا حامی ہو، مرتبہ بلند ہو۔

سرکشی اور آزادی پائے، بے فکر اور بہادر ہو۔

خلق خدا میں بدنام ہو، دنیا سے ہمکنار ہو، درویشوں میں شمار ہو۔

گناہوں سے تائب ہو، پارسا، نیک ذی وقار ہو۔

عیش و خوشی حاصل ہو، تکلیف کے بعد راحت ملے۔

کاروبار میں ترقی ہو، آرام ہو، روپیہ کا فائدہ ہو۔

امیدوں میں ناکامی ہو، قرض ادا نہ ہو سکے۔

رنج و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، کاروبار میں ابتری ہو۔

فکر و تشویش کی علامت ہے۔

رنج و غم کی نشانی ہے۔

حرم کعبہ دیکھنا

حرم کعبہ میں اندر دیکھنا

حرم پاک کا طواف کرنا

حرام کھانا

حرام کاری کرنا

حساب و کتاب کرنا

حسن، حسین سے بات کرنا

حکومت کرنا

حکومت سے محروم رہنا

حکیم دیکھنا

حکیم کھانا

حوض میں مچھلیاں کا تیرانا

حمام سرد دیکھنا

حوض میں گرنا

حراست میں دیکھنا

حمام میں پیشاب کرنا

☆☆=====☆☆

خ

تعبیر خواب

خواب

ناگہانی مصیبت کا سامنا ہو کسی زشتہ دار کے مرنے کی خبر سننے۔	خاک اڑانا
شہر پر تباہی آئے، فتنہ و فساد کی گرم بازاری ہو۔ اگر صرف اپنے گھر پر خاک برستی دیکھے تو روپیہ کا فائدہ ہو۔	خاک برسنا
درم و دینار سے تعبیر ہے، ولی مقصد پورا ہو۔	خاک دیکھنا
مال و دولت جمع کرنے، باعث فتح مندی و ظفر یابی ہے۔	خاک اٹھانا یا سمیٹنا
مال و زر ضائع کرنے پریشانی اٹھائے۔	خاک اٹھا کر باہر پھینکنا
نیک ہو، فرمانبردار اسلام ہو، سنجیدہ مزاج ہو۔	ختنہ ہوتا دیکھنا
گناہوں سے تائب ہو، فرزند پیدا ہو، سعادت ہو، پیدا ہو۔	ختنہ سے خون جاری دیکھنا
رنج و الم سے نجات پانے، مسرت و خوشی حاصل ہو۔	خر بوزہ دیکھنا
پیماری، عورت غلام منفعت پانے، راحت ہاتھ آئے۔	خر بوزہ بے موسم دیکھنا
نیک بختی اور بلند بختی کی دلیل ہے۔	خر بوزہ کا کھیت
کاروبار میں مددگار کی ضرورت اور راحت نصیب ہو۔	خط پڑھ کر مضمون سمجھنا
راز دار اور دیانت دار مشہور ہو۔	خط مہر لگا ہوا دیکھنا
راز ظاہر ہو جائے۔	خط کھلا ہوا
حلال مال سے فائدہ ہو۔	خرگوش
قبض کی شکایت ہو، ناگہانی تکلیف ہو۔	خشخاش
خوش قسمت سے ملاقات ہو۔	خطیب سے ملنا

تندرستی دامن سے زندگی بسر ہو کر مگر سہوے مجبور دین و دنیا سے بے خبر ہو۔	خون کرنا
نعمت حاصل ہونے کی نشانی ہے باعث کامرانی ہے۔	خون میں لوٹنا
مال حرام کھائے یا گناہ سے توبہ کرے بد کاموں سے باز رہے۔	خون کھانا یا پینا
علم میں زیادتی ہو طالب علم دیکھے تو امتحان میں کامیاب ہو	خبریں سننا
عورت سے ملاقات ہو بیوی سے آرام ملے۔	خرگوش دیکھنا
علم حاصل ہو نعمت ملے حاملہ دیکھے تو بیٹا ہو۔	خر بوزہ کھانا
کسی دوست یا رشتہ دار کے مرنے کی خبر سنے۔	خط چاک ہونا
جو کام کرنا چاہتا ہے اس میں تاخیر ہو۔	خط بیرنگ وصول ہونا
رنج دور ہو غم و غصہ سے نجات ملے۔	خط لکھنا
اگر کسی دوست سے خواب میں خفا ہو تو خوشی کا پیغام سننے کی علامت ہے۔	خفا ہونا
آرام و آسائش پائے عورت ماہِ جمین ہاتھ آئے۔	خانہ منقش دیکھنا
علم دولت دین حاصل ہو امور خیر میں شامل ہو۔	خرما دیکھنا
سفر درپیش ہو رنج و منفعت پیش ہو۔	خرما کا تخم دیکھنا
سفر درپیش ہو کوئی ملازم کاروبار میں خیانت کرے۔	خچر پر سوار ہونا
دینی کام انجام دے شادی ہو میراث ملے۔	خطبہ پڑھنا
کسی مرد بزرگ سے فائدہ پہنچے۔	خطیب سے مصافحہ کرنا
عزیزوں سے رنجش ہو۔	خلال کرنا
روپیہ ملے دل کو تقویت ہو۔	خشخاش کھانا یا شربت پینا

خچر کو آوارہ دیکھنا

بیماری میں مبتلا ہو، گرفتار مصیبت و بلا ہو۔

خچر مردہ دیکھنا

عیش و آرام پائے، دولت حرام پائے۔

خرگوش پکڑنا

عورت نا آشنا سے واسطہ پڑے یا کثیر پائے یا تو قیر ہو۔

خرگوش کا گوشت کھانا

دولت پائے، عزت و عظمت زیادہ ہو، قدر بلند ہو۔

خرگوش کا چمڑا پہننا

اگر کھال کی ٹوپی یا دستا نے پہنے تو دولت مند صاحب

عزت ہو، آرام پائے۔

خرید و فروخت

دنیا کا مال ورم دنیا ز ملنے کا سبب ہے، خیر و برکت ہو۔

خزانہ پانا

اگر سونا دیکھے تو بیمار و ہلاک ہو، باعث رنج و غم ہے۔

خزانہ لعل و جواہرات کا دیکھنا

باعث قدر بلندی ہو، عالی ہمت ہو، ذی وقار ہو۔

خزانہ گم ہو جانا

بیمار ہو تو شفا پائے، عالم ہو تو سخت ذلت اٹھائے۔

خشک لکڑی دیکھنا

کسی نامعلوم جگہ یا آدمی سے فائدہ حاصل ہو، مال دنیا ملے۔

خضاب داڑھی کو لگانا

عیبوں کو چھپانے یا راز پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو۔

خضاب سر کو لگانا

نام و نمود و ریا کاری اختیار کرنے، ظاہر بینی زیادہ ہو

دھوکہ باز ہے۔

خطیب سے جھگڑا کرنا

بدین ہو جائے، اسلام میں شر پیدا کرے، بدنام ہونے لگا ہو۔

خلال کرنا

اپنے خویشوں سے صحبت و الفت بڑھے، بیگانوں سے دشمنی پیدا ہو

خلعت ملنا

عزت اور مرتبہ و بلندی حاصل ہو یا عہدہ پائے۔

خلعت بادشاہ سے پانا

مال و دولت سے سرفراز ہوگا، علم و نعمت پائے۔

خلعت سفید یا سبز پائے

دین کا مرتبہ ہو نیک عابد بنی ہو بزرگوں میں شامل ہو۔

خلعت زیشی پانا

عزت و نیاری سے سرفراز ہو، شاد و آباد ہو۔

داغ کسی کو لگانا	بدنام ہو عزت و آبرو جاتی رہے۔
دال ہر قسم کی دیکھنا	دنیا کی جدوجہد میں مصروف ہو کامیابی قدم چومے۔
دانے خام یا پختہ	رنج و الم میں مبتلا ہونے کا باعث ہے تنگی رزق ہو جائے
دانے زمین پر گرتے دیکھنا	ارزالی رزق ہو آسودہ حالی ہو دنیا آرام پائے۔
دانے سمیٹنا	اگر برتن یا بوری میں بھرنا دیکھے تو قحط سالی ہو دنیا بے چین ہو۔
دانت دیکھنا	رنج و غم دور ہو کاروبار میں ترقی ہو۔
دانت گرتے دیکھنا	عمر دراز ہو راحت باز ہو ہم نشینوں میں توقیر پائے
	صاحب تدبیر ہو۔
دانت اپنے اکھاڑنا	مال خاطر خواہ جمع ہو عزیزوں سے قطع رحمی کرے۔
دانت چاندی کا دیکھنا	مال برباد ہو جائے تکلیف اٹھائے دوست سے شکر رنجی ہو
دانت سیاہ دیکھنا	دنیا سے رحلت پائے بیمار شدت ہو خلق سے نفرت ہو۔
دختر پیدا ہوتی دیکھنا	مرد دیکھے تو مال و دولت پائے اگر عورت دیکھے تو اولاد پیدا ہو۔
درانتی دیکھنا	زر و مال جمع کرنے کا رو بار وسیع ہو جائے مشقت اٹھائے
درانتی سے کاٹنا دیکھنا	اگر سنہری چیز کاٹنا ہو مال نعمت حاصل ہو۔
دربان دیکھنا	بادشاہ یا حاکم کا نزدیک ہو فیض پائے راحت ہاتھ آئے
درخت پھلدار دیکھنا	باعث رفاه و فراغت ہو ہر طرح کی راحت ہو۔
درخت جڑ سے اکھاڑنا	عزت اور مرتبہ پائے اور مال کے نقصان کا سبب ہے۔
درندے دیکھنا	دشمنوں کے زرخے میں آئے یا ہر چار طرف سے مصیبتوں
	میں گرفتار ہو۔
درویش شریف پڑھنا	دین میں ترقی ہو ولی مقاصد پورے ہوں حضور اکرم

ساری عظیم کی زیارت ہو دین و دنیا کی دولت ملے نعمتیں پائے
 دین دار ہو کوئی انعام خدا تعالیٰ سے پائے دل مسرور ہو
 دنیا سے بیزار ہو کاروبار سے ہمکنار ہو گوشہ نشینی اختیار کرے
 موجب خیر و برکت ہے سب تکلیف دور ہوں راحت پائے
 قہر الہی نازل ہو مصیبت میں گرفتار ہو عاقبت خوار ہو۔
 دین سے منہ موڑ کر گمراہ ہو جائے افلاس و مصیبت میں
 گرفتار ہو۔

درویش دیکھنا
 درویشی اختیار کرنا
 درویش گھراپنے دیکھنا
 درویش کو ناراض دیکھنا
 درویش سے لڑنا

عورت خوشحال ملے مگر غربت آئے۔

دروازہ سونے کا دیکھنا
 دریا میں نہانا

بیماری سے شفا پائے منفعت بے شمار ہو دولت عزت
 سے سرشار ہو۔

دولت پائے کاروبار وسیع ہو رزق میں توسیع ہو۔
 دنیا کو فیض پہنچائے اگر عالم دیکھے تو علم سیکھائے۔
 وعظ و نصیحت کرے۔

دستر خوان پر بیٹھنا
 دعوت دینا

کاروبار وسیع ہو دولت و نعمت پائے خوشخبری ملے۔
 مصیبت کا پیش خیمہ ہے کوئی آفت سامنے آئے۔

دعوت قبول کرنا
 دلدل دیکھنا

مشکلات میں گھر جائے آفت میں مبتلا ہو گرفتار رنج و بلا ہو
 غم و اندوہ سے نجات پائے بیماری سے شفاء پائے
 تکلیفات ہو۔

دلدل میں پھنسنا
 دلدل سے نکلنا

دولت پیدا کرنے میں مشقت اور محنت اٹھائے۔

دوا پینا

مال کسب سے یا عورت سے پائے جسم زار میں توانائی آئے۔

دو دوہاوتنی کا پینا

دودھ گائے کا پینا	اگر بیمار ہو تو شفا پائے بزرگی و عزت پائے۔
دودھ بکری کا پینا	مال مشقت سے پیدا کرے اگر تجارت کرے تو نفع کم پائے۔
دودھ بھینس کا پینا	بہادر چست و چالاک جنگجو عالی ہمت ہو راست باز دیانتدار ہو۔
دوات سے لکھنا	گناہوں سے نفرت ہو ہدایت پائے۔
دور بین دیکھنا	دور دراز کا سفر درپیش ہو نفع کم و پیش ہو۔
دھواں دیکھنا	بادشاہ یا جابر حاکم سے تعبیر ہے۔
دیوار بنانا	لوگوں کو تعلیم دے معلم و اتالیق کا عہدہ پائے۔
دیوار بلند بنانا	استاد العلماء ہو فقیہ عالم ہو سلطنت سے قضاء کا عہدہ پائے
دیوار گرانا	گمراہ ہو بے دین ہو اگر ان پڑھ دیکھے تو بے عزت ہو۔
دیوار گھر کی شکستہ دیکھنا	گھر کا مالک یا مالک کے فوت ہونے کی علامت ہے۔
درخت سیب کا دیکھنا	مومن یا متقی مشہور ہو یا مشرف نقائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو
درخت کنجد کا دیکھنا	مرد عجمی سے نفع یا عورت ولایت پائے مالدار ہو جائے۔
درخت خرما کا دیکھنا	عالم ہو دولت پائے عورت شیفتہ ملے کبھی ملال کبھی مسرت ہو۔
درخت کدو خیال دیکھنا	مال طبیب یا نفع یا برکت ہو عزت دولت قلیل پائے۔

☆☆=====☆☆

ڈ

تعبیر خواب

خواب

عزت اور مرتبہ بڑھے لوگوں میں عزت ہو۔	داڑھی دیکھنا
نعمت اور دولت کی ترقی روزگار کی وسعت	داڑھی لمبی دیکھنا
گمراہی اور زوال دولت کی علامت ہے۔	داڑھی تراشنا
اس کا شوہر سفر سے واپس آئے اس کی مراد پوری ہو۔	داڑھی عورت کے
شادی کا کہیں اچھی جگہ انتظام ہو۔	داڑھی لڑکی کے
کسی کی موت کا پیغام آئے۔	ڈولی دیکھنا
لہو و لعب اور فضول خرچی میں مبتلا ہو۔	داڑھی اکھاڑنا
بیمار سخت ہو یا موت واقع ہو۔	ڈولی میں بیٹھنا
مراد پوری ہو عزت رتبہ بڑھے دلی مقصد پورا ہو۔	داڑھی سفید
خالی دیکھے تو تعبیر برعکس ہے۔	
اگر پانی سے لبریز دیکھے تو دلی مقصد پورا ہو۔	ڈول دیکھنا
خالی دیکھے تو تعبیر برعکس ہے۔	
بیمار دیکھے تو تندرست ہو عورت دیکھے تو گھر میں شادی	ڈولی چبانا
ہو بیٹی پیدا ہو۔	
مرد دیکھے تو روپیہ کا فائدہ ہو عورت دیکھے تو نقصان ہو۔	ڈائن دیکھنا
کسی امیر آدمی سے نفع پائے۔	ڈول بڑا دیکھنا

☆☆=====☆☆

ذ

تعبیر خواب

خواب

بزرگانِ دین میں شامل ہو عبادت سے عامل ہو۔	ذکر الہی کرنا
روزگار حاصل ہو نعمت پائے آرام و آسائش ہو۔	ذائقہ شیریں چکھنا
اگر حلال جانور ذبح کرے تو مال حلال پاکیزہ پائے۔	ذبح کرنا
اگر سلام کیلئے ذبح کرے تو سعادت دارین حاصل ہو۔	ذبح لڑکے اپنے کو کرنا
نیک بزرگ ہو حج کرے رحمت الہی نازل ہو۔	ذبح لڑکی اپنی کو کرنا
مفلس و کنجال ہو غربت سے بے حال ہو۔	ذخیرہ درخت کا دیکھنا
سبز درختوں کو دیکھے تو مال و دولت بے اندازہ پائے۔ اگر بیٹھا	
یا آرام کرتا دیکھے تو اس قدر دولت سے فائدہ حاصل ہو۔	
غیب سے دولت ملے انعام پائے راحت حاصل ہو۔	ذخیرہ پھل اور اناج کا دیکھنا

☆☆=====☆☆

تعبیر خواب

خواب

دلیل کامرانی ہے باعث شادمانی ہے۔	رس پینا
دین پر چلے اور خلقت کو سچا راستہ بتلائے۔ خوشی	رسی دیکھنا
کی دلیل ہے۔	

عورت کیلئے یہ خواب نحس ہے شوہر کی وفات ہو۔	راکھ پھانکنا
رنج و غم ہو قرض بڑھے۔	رسی گلے میں باندھنا
دشمن سے تکرار ہو کام میں دشواریاں حائل ہوں۔	ریت پر چلنا
بیماری اور رنج کی دلیل ہے۔	ریگستان دیکھنا
نحس خواب ہے رنج و غم کا سامنا ہو۔	ریچھو دیکھنا
مقصد حاصل ہو نصر و پیش ہو ملال کم و بیش ہو۔	راہ میں غبار دیکھنا
خیر و برکت ہو رزق میں کشائش ہو۔	روزہ رکھنا
اگر آسمان پر یا تاریک مکان میں روشنی دیکھے تو مایوسی میں	روشنی دیکھنا
کامیابی کی امید ظاہر ہو بگڑا ہوا کام درست ہو۔	
معاش کے ذرائع قائم ہوں آمدنی میں اضافہ ہو۔	ریشم کے کپڑے دیکھنا
مقصد میں جلد کامیابی ہو بیروزگار ہو تو ملازم ہو جائے۔	ریل میں سفر کرنا
مرد دیکھے تو نحس ہے عورت دیکھے تو خوشی ہے۔	ریشمی کپڑے پہننا
مال نا جائز کو قبضہ میں کرنے ظالم اور بدنام ہو پشیمان ہو	رشوت لینا
حرام اشیاء کی تجارت کرے مثلاً شراب افیون بھنگ چرس وغیرہ	رشوت دینا
دین سے بے بہرہ ہو بھوک و افلاس سے آوارہ ہو۔	روزہ توڑنا
خوشخبری ملے دل کی آرزو پوری ہو نعمت و عزت پائے۔	روزہ افطار کرنا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو حج کرنے متقی ہو۔	روضہ الرسول
دلی مراد پوری ہو سعادت مطمئن قلبی حاصل ہو۔	روضہ اولیاء اللہ کا دیکھنا
تنگی رزق کا باعث ہو مگر شاگرد و صابر رہے عزت و	رمضان کا مہینہ
بزرگی پائے۔	

ز

تعبیر خواب

خواب

فضول گوئی اختیار کرے باتونی بنو۔	زبان دراز دیکھنا
رنج و غم اور تکلیف اٹھائے اگر پیپ دیکھے تو مال حرام پائے	زخم دیکھنا
صادق القول راست باز ہو اگر زخم سے خون نکلے تو جھوٹے	زخم سے خون بہنا
حق پرست راست گو ہو دکھ سے نجات پائے۔	زخمی ہونا
حج یا مجسٹریٹ ہو یا قاضی وقت کا ممتاز عہدہ پائے۔	زعفران سے لکھنا
مال و دولت جمع کرے نیکی اور بزرگی پائے۔	زکوٰۃ دینا
اگر خوشوئح سے لیتا دیکھے تو آرام و راحت دولت بزرگی	زکوٰۃ لینا
پائے۔	
کسی پر عاشق ہو اور فکر و الم میں مبتلا ہو محبت میں گرفتار ہو	زلف دیکھنا
اگر ساری زمین پر دیکھے تو لوگ آسودہ حال ہوں اسلام کا	زلزلہ یا بھونچال آنا
چرچا ہو۔	
بیماری سے شفا پائے دین کا خادم اور مددگار ہو۔	زمزم پینا یا پانا
چور بنے گناہ میں مبتلا ہو ظالم بد کردار خوار ہو۔	زنجیر ہاتھ میں لینا
گناہوں سے توبہ کرے نیک ہو کسی کا غلام بنے یا خادم ہو	زنجیر گردن میں دیکھنا
زیادتی حیات ہو دفع آفات ہو مریض صحت پائے۔	زندہ کو مردہ دیکھنا
کچھ سختی و بلا و پریشانی آئے مگر انجام بخیر ہو جائے۔	زندہ کو قبر میں رکھنا
مال حلال پائے مگر مشقت اٹھائے۔	زمین کھود کر پانی پینا

س

تعبیر خواب

خواب

موت کی نشانی ہے۔	سانپ کی پشت پر سوار ہونا
قسمت کا ستارہ چمکے۔	ستارہ دیکھنا
بلائے ناگہانی نازل ہو شہر میں وبائی امراض پھیلیں۔	ستاروں کا ٹوٹنا
عزت و مرتبہ سے تنزل ہو۔	سر اپنا کٹا ہوا دیکھنا
احتمانہ حرکات سر زد ہوں۔	سر چھوٹا دیکھنا
علم و عقل میں ترقی ہو عزت بڑھے۔	سر بڑا دیکھنا
اگر زیادہ تیل ڈالے تو فکر کی نشانی ہے۔	سر میں تیل ڈالنا
روپیہ ملے پھٹے ہوئے دوست سے ملاقات ہو۔	سر میں درد ہونا
قرض سے سبکدوشی ہو۔	سر کے بال جھڑنا
حاکم یا بادشاہ سے رنجش اور بزرگوں سے ناراضگی۔	سانپ چھت سے گرے
بیوی کے ہاتھ نقصان یا بیوی کا کسی سے تعلق ہو۔	سانپ گھر کے اندر
لڑائی جھگڑے سے اضطراب ہو۔	سناگ دیکھنا
دولت اور حکومت میں حصہ ملے اور خوشی حاصل ہو۔	ستارے بے شمار
لڑکا موذی ہو اس سے تکلیف پہنچے یا موذی کا مال ملے	سانپ اپنی گود میں دیکھنا
دشمن پر فتح ہو سرداری ملے۔	سر پر آدمی
انھائے راز آقا سے رنجش مگر محرم میں نیک فال ہو۔	سر کے بال موٹنا
عورت دیکھے تو شوہر سے قطع تعلق ہو مرد دیکھے تو مفلسی	سر کے بال کٹے دیکھنا

کی دلیل ہے۔

اقبال میں ترقی ہو لہذا زوال دولت حاصل ہو۔
 مالی نقصان ہو یا حاکم کے آگے فریادی بن کے جائے۔
 پیر شریعت ہو، مردہ غیبی کی بشارت ہے۔
 قرض بڑھے، پریشانی ہو، صحت خراب ہو جائے۔
 شادی شدہ عورت کیلئے بچس خواب ہے۔
 کنواری لڑکی دیکھے تو سعد۔

ستارہ روشن دیکھنا
 سراپنا تنگ دیکھنا
 سرمہ لگانا
 سر میں جوئیں پڑنا
 سر کھلا دیکھنا

فرزند سعید پیدا ہونا تو قیر ہو، بزرگی پائے۔
 فیض جاری ہو، محتاج اور فقراء کی خدمت اور دلجوئی کرے
 بیمار سنے تو موت کی نشانی ہے، عورت سنے تو شوہر سے
 تکرار ہو۔

سیاہ بال سفید دیکھنا
 سبیل دیکھنا
 سلام کی آواز سننا

کسی ملک کی سرحد کو پار کرے، تو علم و عقل میں ترقی کرے
 تجارت میں فائدہ ہو۔

سرحد کو پار کرنا
 سودا خریدنا

کنجوس اور کمینہ خصلت پیدا کرے، زور و دولت کیلئے خونی ہو

سینہ پر بال دیکھنا

سختاوت اختیار کرے، معاملہ فہم بر دبار چالاک ہو۔

سینہ صاف کشادہ دیکھنا

کسی شخص سے عداوت ہو، پریشانی اٹھائے۔

سانپ غیر جگہ دیکھنا

دشمن پر غالب آئے، مصیبت سے نجات پائے۔

سانپ مارنا

دشمن سے آزار پہنچے، رنج و تکلیف میں مبتلا ہو۔

سانپ ڈستا دیکھنا

ظالم اور کمینہ حاکم مقرر ہو، جس سے نفع نقصان یکساں پہنچے۔

سائبان دیکھنا

بادشاہ کی خدمت گار ہو یا کسی کے زیر سایہ ہو۔

سائبان تلے بیٹھنا

بادشاہ سے تکلیف اٹھائے حکومت کے پنجہ میں پھنسے۔	سائبان سر پر گرنا
بادشاہ حاکم یا سردار پر تنزل آئے یا موت واقع ہو۔	سائبان پھٹا دیکھنا
رحمت کا باعث ہے بیماری سے شفا پائے، غم اندوہ سے نجات پائے۔	سبزی دیکھنا
نقصان اٹھائے پریشان حال ہو۔	سبزی خراب دیکھنا
بزرگ دین سے فیض حاصل ہو دیندار یا رسا ہو۔	سبزہ میں بیٹھنا
دلی مراد پوری ہو کاروبار ملازمت میں ترقی ہو۔	ستارے دیکھنا
حاکم سے نفع پائے۔	ستارہ طلوع ہوتا دیکھنا
کسی بادشاہ حاکم عالم عادل سردار امام کے ظہور ہونے کا باعث ہے۔	ستارہ غروب ہوتا دیکھنا
تنزل و خشومت کا باعث ہے پریشانی اندیشہ میں مبتلا ہو	سانپ کو چھت سے گرتے دیکھنا
بادشاہ یا حاکم سے رنج حصول ہو۔ مرض کے صدمہ سے ملول ہو۔	سانپ اثر دہا دیکھنا
اگر مطیع دیکھے تو دولت مال عزت پائے اگر حملہ آور دیکھے تو رنج اٹھائے۔	سرخ لباس دیکھنا
عورتوں کو دیکھے تو باعث مسرت و راحت ہے۔ مردوں کے لئے خرابی ہو۔	سرسوں دیکھنا
رنج و غم کے مترادف ہے مصیبت یا تکلیف آئے۔	سرسوں کا کھیت دیکھنا
اگر سر سبز دیکھے تو ترقی روزگار ہو اگر سوکھا دیکھے تو پریشانی اٹھائے۔	سرسوں کا تیل دیکھنا
منفعت تجارت ہو روزگار میں ترقی ہو اگر تیل نکلتا دیکھے	

تو دولت مند ہو۔

مال و دولت پائے دین میں ترقی ہو اور بزرگی پائے۔

عورت پارسا سے شادی ہو باعث راحت و آرام ہو۔

آرام و راحت پانے کی دلیل ہے۔

بیٹا پیدا ہو فرحت پائے عیش و عشرت حاصل ہو۔

اگر پیدل کرتا دیکھے تو کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہو

بزرگی پائے دولت مند صاحب عظمت بلند اقبال سردار ہو

کام میں ترقی ہو تیزی سے عروج پائے۔

بہت بڑے شہنشاہ سے مترادف ہے کہ اس کا نزدیک ہو۔

شہنشاہ وقت سے عہدہ پائے جلیل القدر ممتاز ہو۔

شہنشاہ یا بادشاہ کے عتاب میں آئے نیست و نابود ہو جائے

شہنشاہ وقت سے زمانہ فائدہ اٹھائے لوگ خوشحال ہوں

شہنشاہ سے ممتاز عہدہ پائے وزیر یا مشیر مقرر ہو خلعت پائے

بادشاہ یا بزرگ سے نفع حاصل ہو۔

مالدار اور طاقتور بے فیض بے غیرت حرام خور ہو۔

کسی حاکم یا امیر بد خصلت سے واسطہ پڑے۔

کسی دشمن یا حاکم ظالم پر فتح نصرت پائے۔

خطرہ سے محفوظ رہے۔

بلند بخت ہو نعمت عزت اور فرزند نیک سعادت مند پیدا ہو۔

عزت و بزرگی پائے ترقی دولت زرو مال ہو۔

سرمہ لگانا

سرمہ دانی خریدنا

سیر کرنا

سیر باغ کا کرنا

سفر کرنا

سفر کشتی پر کرنا

سفر موٹر سائیکل پر کرنا

سمندر دیکھنا

سمندر میں تیرنا

سمندر میں ڈوبنا

سمندر کی موجیں دیکھنا

سمندر پر کشتی چلانا

سمندر جھاگ دیکھنا

سور دیکھنا

سور کو حملہ آورد دیکھنا

سور کو ہلاک کرنا

سورج دیکھنا

سورج چمکنا دیکھنا

سورج گرہن دیکھنا باعث خشومت ہے، ذلالت کا باعث ہے، مصیبت دکھ اٹھائے
سونے کا زیور پہننا عورتوں کیلئے باعث مسرت ہے، اولاد و رزق و دولت ملیں

☆☆=====☆☆

ش

تعبیر خواب

خواب

جس کی شادی کرے اور دلہن یا دولہا گھر نہ لائے۔
تو اس کی موت واقع ہو۔

شادی کرنا

سفر اختیار کرے یا گھر والوں سے مفارقت ہو مگر دولت
عزت پائے۔

شامیانہ دیکھنا

کاروبار میں نقصان ہو دین میں خلل پڑے۔

شطرنج کھیلنا

مرتبہ میں ترقی کی علامت ہے۔

شکار کھیلنا

خوب صورت عورت سے شادی ہو۔

شمع روشن دیکھنا

نخس خواب ہے۔

شمع گل دیکھنا

عزت اور مرتبہ میں ترقی ہو۔

شملہ باندھنا

مال یا سرداری ملے۔ شراب کی مستی غم کی دلیل ہے۔

شراب سے مست ہونا

مصیبتوں میں گرفتار ہو۔

شور سننا جنگل میں

اورادو و وظائف میں خلل پڑے، بلاؤں میں گرفتار ہو۔

شیر کا حملہ کرنا

مصیبت نازل ہو مگر حسن تدبیر سے بچ جائے۔

شیر کے سامنے سے بھاگ جانا

بیمار دیکھے تو ازار بڑھے تندرست دیکھے تو پریشان ہو۔	شیشہ دیکھنا
خوشی ملے حاکم کا ہراز ہو فتح حاصل ہو۔	شیر دیکھنا
اگر دیکھے کہ کسی شادی شدہ عورت کی شادی ہو رہی ہے تو	شادی دیکھنا
نخس خواب ہے جس عورت کی شادی دیکھے اس کی وفات ہو۔	
عمر دراز ہو بیمار دیکھے تو بہت جلد تندرست ہو جائے۔	شربت پینا
مال حرام پائے رشتہ داروں سے فساد ہو۔	شراب پینا
بیمار کو صحت ہو مال ملے نفع ہو سرداری پائے۔	شہد
مقدمہ بازی سے خلاصی ہو۔	شیر سے بھاگنا
دشمن مغلوب دولت اور دین حاصل ہو۔	شیطان مطیع
بیہودہ گوئی اور لغویات سے تعبیر ہے۔	شعر و شاعری کرنا
تکلیف و کھرنج کا پیش خیمہ ہے۔	شعلہ آتش دیکھنا
مصیبت میں مبتلا ہو جس میں کوئی ساتھی مددگار نہ ہو۔	شعلہ بدن پر پڑنا
آفت اور مصیبت نازل ہونے کا موجب ہے۔	شعلہ آسمان پر دیکھنا
مال غنیمت ہاتھ آئے یا غیب سے مدد ملے۔ عزت مرتبہ	شکار کرنا یا کھیلنا
پلندہ ہو۔	
برو بار بہادر ہو کمینہ خصلت دشمن پر فتح پائے۔	شکار چیتے کا کرنا
بد خصلت مگر طاقتور دشمن پر فتح پائے یا موذی مرض سے	شکار رچھ کا کرنا
نجات پائے۔	
مکازہ عورت پر قابو پائے یا عیار آدمی کی چالوں کو سمجھے۔	شکار لومڑی کا کرنا
روزی حلال پائے فرزند عزیز سے محبت زیادہ ہو۔	شکر کھانا

دین و دنیا کی بھلائی پائے آخرت نیک ہو بزرگی ملے۔
 سعادت دارین حاصل ہو اور دین کی ترقی کا سبب ہے۔
 دنیوی منفعت حاصل ہو اور دین کی ترقی کا سبب ہے۔
 مصیبت یا بیماری آئے۔

شکر اللہ کا کرنا
 شکرانہ ادا کرنا
 شکر یہ ادا کرنا
 گلنچہ دیکھنا

عورت یا فرزند پانے سے مراد ہے۔
 دنیاوی غم و اندوہ سے نجات پائے سعادت دارین ملے
 ہمدرد قوم ہو مساکین و یتیمی کی دلجوئی کرے۔
 نعمت دارین حاصل ہو سعادت و بزرگی پائے۔

شمشیر دیکھنا
 شہادت پانا
 شریک ہونا
 شہد خریدنا

دشمن سے خوف پیدا ہو دکھ درد اندیشہ ہو پیدا ہو۔
 دشمن سے بے خوف ہو بے فکری پائے راحت حاصل ہو
 عزت و سرداری پائے عہدہ ممتاز ملے نام آور بہادر ہو۔
 بہادر شاہ زور ہو لشکر کا سردار مقرر ہو دیندار دیکھے تو کمال
 بزرگی پائے۔

شیر حملہ آور دیکھنا
 شیر کو ہلاک کرنا
 شیر کا شکار کرنا
 شیر پر سواری کرنا

عظمت و انا بزرگ قوم ہو عزت شہرت پائے نامور ہو۔
 مفلس عورت سے شادی ہو مجامعت سے گھبرائے۔
 مقصد تیر سے حاصل ہو راحت شامل ہو۔
 نفس کے پھندے میں گرفتار ہو حرص و ہوا میں پھنسے۔
 نفس یا شہوت پر قابو پائے دیندار ہو۔

شیر تالچ دیکھنا
 شیشہ خالی خریدنا
 شیر سے بھاگنا
 شتر مرغ دیکھنا
 شتر مرغ پکڑنا

اگر بلبلا تا دیکھے تو تکلیف و مصیبت آئے اگر آرام میں
 دیکھو تو دولت پائے۔

شتر اونٹ دیکھنا

ص

تعبیر خواب

خواب

محس خواب ہے مرتبہ میں تنزل ہو۔
بلائیں دور ہوں۔

صافہ سر سے گرنا
صدقہ دینا

افلاس دامنگیر ہو دل سخت ہو۔

صدقہ لینا

روپیہ کا فائدہ ہو کٹکٹاؤں کا رہو۔

صندوق کھلا دیکھنا

عیش و عشرت حاصل ہو دولت دنیوی سے سرور ہے۔

صراحی دیکھنا

عورت کے راز مخفی سے خبردار ہو۔

صحبت کرنی عورت سے

نیک فال ہے لیکن دولت کا زوال ہے۔

صحبت کرنا واقف عورت سے

پوری مراد ہو مگر بعد میں مشکل پڑے۔

صحبت کرنا باکرہ سے

حاکم یا بادشاہ سے فائدہ اٹھائے، مسرت حاصل ہو۔

صحرا دیکھنا

بادشاہ مہربان ہو یا عالم باعمل سے فیض روحانی پائے

صحرا سبز دیکھنا

خوشحال ہو۔

کسی مصیبت میں گرفتار ہو جس میں بے یار و مددگار ہوں

صحرا سنسان دیکھنا

نیک و بد کے پہنچانے کی تمیز ہو قیافہ شناسی میں کامل ہو۔

صراف دیکھنا

لوگوں کی خیانت اور غیبت میں مشغول ہو۔ خرافات بکنے

صراحی سونا یا صراف بننا

اور اپنا نقصان آپ کرنے کا باعث ثابت ہو۔

عورت خوبصورت و شیرازہ مخمور پر ادا پائے، جس پر فدا ہو۔

صراحی شراب کی پانا

مالدار سلیقہ شعار عورت پائے، عیش و عشرت سے زندگی بسر ہو۔

صراحی شربت کی پانا

صراحی پرانا پانا بیوہ عورت سے شادی ہو اگر صراحی کسی کو دے تو بیوی کو اپنے سے جدا پائے۔

صفائی کرنا یا کرانا دین و دنیا کے کاموں میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے نیک کام ہو۔

صلیب دیکھنا دین میں خرابی پڑنے کا موجب ہے۔

صفائی گھر کی کرنا غربت سے نجات پائے سب مصیبتوں سے آزاد ہو دلشاد ہو گناہوں سے تائب ہو خادم دین اسلام ہو۔ عزت بزرگی پائے۔

صفائی گلی کی کرنا راستہ صاف کرنے کے مترادف ہے کسی نیک کام کا آغاز کرے۔

صلح کرنا یا کرانا درازی عمر و ترقی رزق کا سبب ہے امن و چین پائے۔

صندل پانا یا خریدنا لوگوں میں عزت پائے تعریف و توصیف ہو دولت حاصل ہو۔

صندل سفید پانا کسی معزز امیر رئیس سے انعام و اکرام پائے عزت مرتبہ بلند ہو۔

صندل سرخ پانا کسی جابر حاکم سے انعام و خلعت پائے عزت و وبالا ہو مذہب عیسائی اختیار کرے یا عیسائیوں کی مدد کرے۔

صندوق منقش دیکھنا عورت تا بعد از ملے حسینہ جمیلہ پائے آرام عزت شہرت حاصل ہو۔

صومعہ دیکھنا گمراہوں کو راہ بتائے کار دین میں سرگرم ہو جائے۔

صیاد کو دیکھنا
مکرو حیلہ سے روزی پائے، فکر و تدبیر میں پریشانی اٹھائے
صنم کی پوجا کرنا
کافر ہو یا حق چھپائے، گناہ میں مبتلا ہو یا کافر عورت پر
عاشق ہو۔

صنم تراش بننا
کافروں کا ہمنوا ہو یا عورتوں پر جان دے یعنی بدمعاش کافر ہو۔

☆☆=====☆☆

ردیف ض


تعبیر خواب

اسے استاد بنائے یا فیض دین پائے۔
رنج و غم میں مبتلا ہو، فکر و اندیشہ دامنگیر ہو۔
دین کی ترقی کا باعث ہے، استقامت عطا ہو۔
غم و اندوہ سے نجات پائے، مدد و سیاست دان ہو۔
نام و نمود اور دنیاوی شہرت حاصل ہو۔
فخریہ الفاظ بولنے، غرور و تکبر کا پتلا ہو۔
ظاہر داری سے کام لے ریاکار ہو۔
لوگوں میں بدنام ہو، ذلت خواری اٹھائے۔
حرص و طمع زیادہ ہو، لالچ بے فائدہ ہو۔
طمع نفسانی خواہشات کا شکار ہو مگر نامراد رہے۔
بہنگی رزق و دولت ہو، گناہوں سے توبہ کرنے، عاقبت
اچھی ہو۔

خواب

ضامن بنانا
ضامنی دینا
ضائع مال ہونا
ضبط کرنا
ضد کرنا
ضرب لگانا
ضرب اللہ اللہ کی لگانا
ضرب سکہ پر لگانا
ضرورت محسوس کرنا
ضرورت مند دیکھنا
ضریح بنانا یا کھودنا

عزت و مرتبہ کی کمی ہو تو نزل پائے۔	ضعف پڑتا دیکھنا
دین میں کمزور ہو اسلام کا چور ہو۔	ضعف آنکھ کو پڑنا
دنیاوی کمزوری کا باعث ہے۔	ضعیف بوڑھا دیکھنا
رزق یا کاروبار میں کمی واقع ہو ارادہ متزلزل رہے۔	ضعیف سے ملنا
کہنہ اشیاء جمع کرے یا کاروبار زلیلہ اختیار کرے۔	ضعیف سے کچھ لینا



ط

تعبیر خواب

خواب

کوئی کار خیر انجام دے۔ دنیا میں نیک نامی ہو۔	طالب کی بددکڑنا
رزق میں کشائش ہو پیروزگار کوروزگار ملے۔	طباق کھانے سے پڑ دیکھنا
مکروہات دنیاوی سے نجات ہو دین کی جانب رجحان بڑھے۔	طلاق دینا عورت کو
کوئی گناہ سرزد ہو۔	طنبورہ بجانا
محبوب سے ملاقات ہو اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو۔	طور پہاڑ دیکھنا
دولت مند بزرگ سے فائدہ ہو۔	طواف کرنا
کاروبار میں ترقی ہو روپیہ بلا مشقت ملے۔	طواف دیکھنا
شخص خواب ہے، غم و فکر میں مبتلا ہو۔	طوق گردن میں دیکھنا
اگر طویلیے میں گھوڑے دیکھے فائدہ ہو خالی دیکھے تو تعبیر برعکس ہے۔	طویلیہ دیکھنا

متعلقین کی جانب سے فکر ہو، قرض خواہ سختی کریں۔

طوفان دیکھنا

قوم میں عزت بڑھے۔

طرہ لٹکانا

بیمار دیکھے تو صحت ہو۔

طہارت کرنا

شاہی مراتب سے تعبیر ہے، یعنی کسی بادشاہ سے دولت پائے

طاؤس موردیکھنا

اصلاح و ہدایت پائے یا لوگوں کو سکھلائے۔

طبابت حکمت کرنا

بے دین و گمراہ ہو، عزت و آبرو جاتی رہے۔

طبابت چھوڑنا

خادمہ بیمار ہو یا فوت ہو جائے۔

طشت ٹوٹنا

خادمہ یا نوکرہ سے کمال فائدہ حاصل ہو، عیش و راحت پائے

طشت میں طعام

عیش و آرام پائے، عورت رقاصہ ملے۔

طاؤس ناچنا

بزرگی حاصل ہو، سعادت پائے، فرزند پیدا ہو۔

طباق دودھ کا

نوکر سے تعبیر ہے اگر ٹوٹے تو نوکر چلا جائے۔

طباق خریدنا

فرزند یا غلام کے مترادف ہے یا مال حرام پائے۔

طوطا دیکھنا

عیار غلام یا فرزند پائے، جس سے نفع حاصل ہو۔

طوطا پکڑنا یا خریدنا

فرزند بھاگ جائے یا نوکر ہاتھ سے نکل جائے۔

طوطا اڑانا

باتونی ہو، لغویات سے لوگوں میں بدنام ہو۔

طوطی بولنا دیکھنا

لڑکی کنواری پائے یا شاگرد نیک ملے۔

طوطی پانا

کسی لڑکی سے دوستی کرے مگر بے وفا پائے۔

طوطی سے باتیں کرنا

مال حرام حاصل کرنے کی کوشش کرے، بدنام ناکام ہو۔

طوطے کا شکار کرنا

دولت میں پائے نعمت بے اندازہ پائے۔

طعام پانا

رنج و غم سے نڈھال ہو، پریشانی لازوال ہو۔

طعام بد مزہ پانا

بزرگی پائے پر ہیزگار ہو راحت و خوشی پائے۔	طعام شیریں کھانا
مصیبت میں مبتلا ہو یا بیمار لاچار ہو رنج و غم پائے۔	طعام باسی کھانا
اولاد سے خوشی حاصل ہو دین میں کامل ہو۔	طعام نمکین کھانا
اولاد کا غم کھائے زندگی تلخ گزرے بے آرام ہو۔	طعام پھیکا کھانا
غم و اندوہ اور رنج و ملال پائے۔	طعنہ سننا
غربت و مفلسی پائے خدا تعالیٰ کے عتاب میں آئے۔	طعام پھینکنا
کسی عزیز سے جدائی کا موجب ہے فکر و اندیشہ پائے۔	طعنہ دینا
اگر زیادہ دیکھے جس سے خوف پیدا ہو تو عذاب الہی نازل ہو قحط و باپڑے۔	طغیانی پروریادیکھنا
اگر پانی سفید اور بے خوف ہو تو رحمت خدا نازل ہو خلقت آرام پائے۔	طغیانی آتی دیکھنا
مصیبت میں گرفتار ہو سخت لاچار ہو بے یار و مددگار ہو۔	طغیانی میں بہتے دیکھنا
تو نگر ہونے کی علامت ہے صحت کی بشارت ہے۔	طلاق بی بی کو دینا
کسی کا مال اپنے قبضہ میں کرنے عیش و عشرت کرے۔	طلاق شدہ سے نکاح کرنا
عزت و مرتبہ کی کمی واقع ہو دولت جاتی رہے۔	طلاق نامہ لکھنا
عمر دراز ہو دنیا کی سیر و سیاحت کرے۔	طلسم دیکھنا

☆☆=====☆☆

ظ

تعبیر خواب

دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو۔
 دنیا کے کاموں میں محو ہو دین کو بھول جائے۔
 دنیا کے فضول کاموں میں حصہ لے۔
 بُرے کام کی سزا پائے، غم میں مبتلا ہو۔
 عزت و بزرگی پائے، ہم نشینوں میں عزت ہو۔
 گمراہی میں پھنسے، رنج و غم اٹھائے۔
 بدنام مشہور ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، رنج پہنچے۔
 ناگہان آفت میں گرفتار ہو، دکھ درد مصیبت اٹھائے۔
 آسمانی بلائیں نازل ہوں، آزاد و طول ہوں۔
 ظالم جاہل راہزن، ڈاکو پر فتح پائے۔
 شیطانی جماعتوں کو نیست و نابود کرے، ظالم عیار و ذلیل و خوار ہوں۔

قطع سالی دور ہو، نیک لوگوں کا دشمن ہو، خود غرض ہو۔
 رزق و دولت میں قدرے کمی واقع ہو، عزت میں فرق آئے
 گناہوں سے توبہ کرے، دیندار اور پرہیزگار ہو۔

خواب

ظرف برتن دیکھنا
 ظروف خریدنا
 ظرافت کرنا
 ظالم کو دیکھنا
 ظریف بننا
 ظلمت دیکھنا
 ظلم کرنا
 ظلمات دیکھنا
 ظلمت شہر پر دیکھنا
 ظلم کرنا
 ظالم بننا یا دیکھنا
 ظالم کو ہلاک کرنا
 ظہر کا وقت دیکھنا
 ظہر کی نماز پڑھنا

ع

تعبیر خواب

خواب

اگر بیمار ہو صحت ہو برے کام کرنے میں ندامت پائے۔

عرق بدن سے ٹپکنا

غلام یا ملازم اچھا پائے اس سے نفع پائے۔

عصا دیکھنا

کسی دفتر میں کلرک وغیرہ بنے یا سفر کرے۔

عطار دیکھنا

دنیا میں حرمت ہو عورت پاکیزہ سے صحبت حاصل ہو۔

عطر لگانا

امیر بننے کی علامت ہے بہتری کا سبب ہے۔

عمارات دیکھنا

امامت کرے امام کہلائے عوام سے نفع اٹھائے۔

عمامہ باندھنا

تجارت میں نقصان ہو۔

عاقل مرد کو دیکھنا

شعر و سخن کے میدان میں شہرت پائے خوشی حاصل ہو۔

عندلیب دیکھنا

دین و دنیا میں نیک نامی ہو۔

عابد کو دیکھنا

کسی مواخذہ میں گرفتار ہو گناہ کا پردہ چاک ہو جائے۔

عادل بادشاہ کو دیکھنا

گمراہی سے بچے طالب علم دیکھے تو امتحان میں کامیابی ہو

عالم کو دیکھنا

رنج و غم کا سامنا ہو دل پریشان رہے۔

عالم کو دیکھنا

مکروہات دنیا سے نجات ہو۔

عبادت خدا کی کرنا

علم و عقل میں ترقی ہو۔

عبرت حاصل کرنا

کشائش کار ہو۔

عزت پانا

پریشانی و حیرانی بڑھے کاروبار میں نقصان ہو۔

عشق میں مبتلا ہونا

اولاد سے راحت ہو اللہ کا کرم شامل حال ہو۔

عقیقہ عورت کو دیکھنا

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا	دولت مند ہو اور صاحب و جاہت ہو۔
عمارت بنانا	مالی فائدہ کی دلیل ہے بیمار دیکھے تو مرض بڑھے۔
عمامہ سر سے گرنا	مرتبہ میں تنزل ہو ذلت و خواری پیش آئے۔
عمرہ کرنا	کار خیر انجام شہرت اور نیک نامی میں اضافہ ہو۔
عمدہ مکان دیکھنا	بیمار دیکھے تو موت کی نشانی ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھنا	قرض ادا ہو، مفلسی دور ہو۔
عمر بتانا	بیماری اور مفلسی کی نشانی ہے۔
عمر کم بتانا	موت کی نشانی ہے توبہ و استغفار کرے۔
عمر دریافت کرنا	مریض صحت پائے اور تندرستی حاصل ہو۔
عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتے دیکھنا	بارش ہونے کی دلیل ہے۔

☆☆=====☆☆

غ

تعبیر خواب

خواب

بے بنیاد خبریں سننے انواہیں سنے۔	غبارے اڑتے دیکھنا
بیٹے سے راحت ہو۔	غبارہ ہاتھ میں دیکھنا
عورت سے آرام دلی مقاصد پورے ہوں۔	غزوہ میں شریک ہونا
پیار دیکھے تو صحت ہو، قرضداری سے نجات ملے۔	غسل کرنا
نخس خواب ہے، قرضداری کا عذاب بڑھے۔	غرق دریا میں ہونا
مشکل کام آسان ہو، فکر سے نجات ملے۔	غش آنا
پریشانیوں میں اضافہ ہو۔	غل شور سننا
اگر غلام کو مطیع دیکھے تو فائدہ ہو، سرکش دیکھے تو تعبیر برعکس ہے	غلام دیکھنا
دولت ملے، عیش و آرام حاصل ہو۔	غلاظت کھانا
بیماری کی نشانی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو۔	غلاظت جسم پر دیکھنا
مبارک خواب ہے، مشکل کاموں میں غیب سے اولاد اور	غوث الاعظم کی زیارت
دیکھیری ہو۔	
سعی و محنت سے روپیہ حاصل کرے۔	غوطہ دریا میں لگانا
بیمار کیلئے خواب نخس ہے۔	غیبی آواز سننا
آزاد ہونے کی دلیل ہے۔	غلام بالغ ہوتا دیکھنا
خوشی حاصل ہو، اگر خوبصورت غلام بیچے تو تنگی پائے۔	غلام فروخت کرنا
مال و دولت پائے، اگر غلام مہیب شکل ہو تو مصیبت آئے	غلام خریدنا

غلام کا بھاگنا

تنگدستی اور غم و اندوہ میں مبتلا ہو۔

غلام کو آزاد کرنا

دنیا سے جلدی کوچ کرنے کی علامت ہے۔

غلامی کرنا

ذلت و خواری ہے اگر مشہور آدمی کی غلامی کرے تو اس

سے نفع پائے۔

غلامی علماء کی کرنا

دین و بزرگی پائے صاحب توقیر یا تدبیر ہو۔

غلہ کا ڈھیر دیکھنا

محنت و مشقت سے روزی حاصل ہو۔

غلہ خریدنا

تنگی رزق کا باعث ہے فلاکت پائے یا غم و اندوہ پائے۔

غلہ فروخت کرنا

تندرستی راحت پائے بے فکر ہو آزاد طبع ہو۔

غلہ کاشت کرنا

نیکی کی علامت ہے صالح العمل کمائے پرہیزگار دولت مند

باعزت ہو۔

غیبی خط دیکھنا

امداد پائے رحمت حق شامل حال ہونے کا زوال ہو۔

غیبی امداد پانا

مشکلات سے نجات پائے صحت پائے آرام پائے۔

غبار اڑتا دیکھنا

مصیبت میں گرفتار ہو یا فتنہ و فساد پھیلے۔

غرق شہر ہوتا دیکھنا

قہر الہی لوگوں پر نازل ہو لوگ تباہ و برباد ہوں یا گمراہ ہوں

غسل جنابت کا کرنا

جھوٹ کذاب سے توبہ کرنے غم سے نجات پائے۔

غسل چشمہ شفاف میں کرنا

تمام مصائب سے آزاد ہو رحمت خدا سے دولت عزت

بزرگی پائے۔

غشی دور ہونا

کاروبار میں ترقی پائے مصیبت ٹل جائے آرام پائے

غصہ کرنا یا ہونا

اگر خواب میں دنیاوی باتوں پر غصہ کھائے تو دین سے

گمراہ ہو۔

مرتبہ کرنے کی علامت ہے یا والدین سے تکلیف پائے	غصہ والدین پر کرنا
دیندار گمراہ لوگوں سے نفرت کرے، پرہیزگاری اختیار کرے	غصہ گمراہ لوگوں پر کرنا
عزت و مرتبہ بلند ہو رحمت الہی شامل حال ہو سعادت پائے	غصہ پی جانا
عورت سے تعبیر ہے، اگر نیا دیکھے تو کنواری عورت ملے۔	غلاف دیکھنا
جھگڑا اور خوف لاحق ہو، مگر آخر میں خوش ہو۔	غبار اٹھنا دیکھنا
فساد برپا ہو یا ملک میں بیماری پھیلے۔	غبار درمیان زمین و آسمان
ملازمت ملنے کی دلیل ہے۔	غبارہ دیکھنا
کسی عزیز کی خبر آئے۔	غلط پڑھنا
خوشی و مسرت کی خبر آئے، چوری شدہ مال واپس ملے۔	غمگین ہونا



ف

تعبیر خواب

خواب

تنگدستی اور مفلسی سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے	فقیر کو مانگنا دیکھنا
مفلس و قلاش ہو فکر معاش ہو۔	فقیر دیکھنا
بیماری ہو تو شفا پائے، تنگی دور ہو راحت و آرام پائے۔	فقیر کو خیرات دینا
باعث خرابی ہے، رنج و غم میں مبتلا ہو۔	فقیر سے کچھ لینا
لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو، فکر و اندیشہ دامنگیر ہو۔	فقیر خود کو بنا دیکھنا
کاروبار میں ترقی ہو عزت پائے۔	فوج دیکھنا

سفر طویل کرنے فائدہ کم و بیش ہو۔	فوج میں بھرتی ہونا
دُکھ اور مصیبت میں گھر جائے باعث پریشانی ہے۔	فرزند پیدا ہونا
رزق و دولت عام ہو، خلقت آرام ہو، اگر فوج مغلوب ہو تو قحط پائے۔	فوج کوڑتے دیکھنا
مال و دولت پائے غائب سے امداد ملے راحت ہو۔	فرزند خوبصورت پانا
غربت کی علامت ہے مصیبت میں پھنسے پریشانی اٹھائے۔	فرزند گم جانا
فائدہ حاصل ہو، والدین یا بزرگی سے فیضیاب ہو۔	قالہ پھل کھانا
غربت کی نشانی ہے باعث سرگردانی ہے۔	فاختہ دیکھنا
مریض ہو تو شفا حاصل ہو، غریب ہو تو امیر ہو جائے۔	قالودہ پینا
بیماری سے شفا پائے۔	فوت ہوتا دیکھنا



ردیف

تعبیر خواب

خواب

اگر بڑا خریدے تو عمر دراز ہو، اگر چھوٹا خریدے تو عمر کوتاہ پائے۔

قالین خریدنا

ترقی کاروبار کی علامت ہے عورت مالدار ملے یا خادم نیک پائے۔


قالین یا خوشنالی

کاروبار میں ترقی ہو، بیرونی ممالک سے تجارت کرے۔

قالہ دیکھنا

رُکے ہوئے تمام کام پورے ہوں راحت و آرام پائے	قافلہ گھر میں آتا دیکھنا
موت آئے یا سفر دراز اختیار کرے یا حج کرے۔	قافلہ میں شامل ہونا
قید خانہ سے تعبیر ہے باعث عبرت ہے توبہ کرے۔	قبر دیکھنا
تکلیف و مشکلات میں پڑے محنت و مشقت اٹھائے۔	قبر کھودنا
بغیر توبہ کے مرے گناہوں پر پردہ ڈالے۔	قبر میں مٹی ڈالنا
دین و دنیا کے کام بخیر و عافیت اختتام پذیر ہوں۔	قفل کھولنا
بڑے بڑے کاموں میں کامیابی حاصل ہو یا مستقل مزاج ہو۔	قلعہ دیکھنا یا بنانا
علم حاصل کرے فرشتہ خصلت نیک ہو۔	قلم سے لکھنا
بادشاہ یا حاکم سے عہدہ جلیلہ پائے عزت و بزرگی حاصل ہو۔	قلمدان دیکھنا یا پانا
دین کی گمراہی کے باعث غم و اندوہ میں مبتلا ہو۔	قید میں بند دیکھنا
اگر عالم خود کو قید خانہ میں بند دیکھے تو رُکے ہوئے کام پورے ہوں۔	قید خانہ دیکھنا

بزرگی کے کام میں باقوت ہو علم و عمل میں کامل ہو۔	قرآن شریف لینا
حکمت سیکھے یا دین و دنیا باہم جمع کرنے عیش میں قدم	قرآن شریف پڑھنا
دھرے میزاث یا روزی حلال سے خوشتر ہو یا قوت و نصرت سے نام آور ہو۔	



ک

تعبیر خواب

خواب

کپڑے کی تجارت کرے اور فائدے بے اندازہ پائے۔	کاتنا چرخہ پر سوت
اولاد سے راحت ہو، دل کو فرحت ہو، زیادتی بصارت ہو۔	کاجل لگانا
ترقی دین و دنیا ہو، بزرگی و عزت پائے، فیض حاصل ہو۔	کاشتکاری کرنا
کامیابی کا موجب ہے برکت و رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو۔	کاشتکار دیکھنا
امانت میں خیانت کرے، ضعف غم و اندوہ بیماری پائے	کانپتا جسم دیکھنا
بہت سا روپیہ پائے یا لقوہ کے مرض میں مبتلا ہو۔	کافور دیکھنا
رنج و مصیبت کی نشانی ہے، سمجھے اگر عقیل ہے۔	کباب بھوننا
ماندگی رفع ہو، رنج و تکلیف دور ہو۔	کباب کھانا
کنیز ملے یا بہتری حاصل ہو۔	کبوتر دیکھنا
دشمن سے مقابلہ ہو، مگر فتح ہو۔	کتا دیکھنا
علم و فضل حاصل ہو، جہالت دور ہو۔	کرنا پہننا
وفات ہونے کی وجہ ہے۔	کان کٹ جانا
تکلیف پہننے کی علامت ہے۔	کاشا چھنا
شاہی خلعت اور انعام ملے، عمر دراز ہو۔	کفن پہننا
نفس امارہ مغلوب ہو، دین کے احکام بجالائے۔	کافر کو قتل کرنا
امتحان میں کامیابی اور نوکری کے ملنے کی امید	کرکٹ کھیلنا

کسی عزیز دوست کا خط آئے یا کوئی خوشی ہو۔ کرکٹ دیکھنا
 شیطان کے نرغے میں پھنسے یا دشمن سے مقابلہ ہو گزند پائے۔ کتا حملہ آور دیکھنا
 دشمن سے گزند پہنچے مگر دل مطمئن رہے۔ کتے کا کاٹنا
 حاکم وقت سے منفعت پائے اگر کشتی سے اترے تو کشتی میں سوار ہونا
 مصیبت سے نجات پائے۔


بھنگی مال اور پریشانی حال ہو تکلیف کمال ہو۔ کشتی لڑنا
 بزرگی پر ہیزگاری پائے میراث مراتب علم و حکومت پائے کعبہ شریف دیکھنا
 بزرگوں میں شامل ہو دین میں کامل ہو ایسے کام کرے کعبہ کا طواف کرنا
 جو حج پر برابر ثواب ہو۔

احباب و اقارب سے فائدہ حاصل ہو دین میں کامل ہو۔ لکڑیاں خریدنا
 اگر چلتا دیکھے تو کامیابی کی علامت ہے اگر بند ہو تو خرابی ہو کنواں دیکھنا
 عورت گھر میں لائے جس سے فائدہ اٹھائے یا مقصد کنواں کھودنا
 میں کامیاب ہو۔

حکومت سے فائدہ ہو فرزند پائے یا کام میں ترقی ہو عزت ملے۔ کنگن انعام میں ملنا
 عزت ملے۔

رنج و غم سے نجات پائے قرضہ سے خلاصی ملے۔ کنگھی سر کو کرنا
 مال زکوٰۃ نکالے صدقہ خیرات دے عزت و بزرگی پائے کنگھی داڑھی کو کرنا
 طاقت ہمت جرات سے زمانہ بھر میں شہرت حاصل کرے کمر بند باندھنا
 کاروبار میں شہرت ہو عزت و مرتبہ بلند ہو۔ کمر بند خریدنا
 فاسق اور کاذب (جھوٹے) سے واسطہ پڑے۔ کواد دیکھنا

اقتدار سے دستبردار ہوا اگر ظالم ہو گناہوں سے توبہ کرے	کوڑا پھینکنا
کامیابی کی دلیل ہے کاروبار میں ترقی ہو عہدہ پائے عزت ملے۔	کھجور پر چڑھنا
کسی بڑے گھرانے سے یا حاکم امیر رئیس سے فائدہ حاصل ہو۔	کھجور سے پھل توڑنا
مصیبت سے نجات پائے پرہیزگار ہو سعادت و بزرگی پائے ترقی نعمت و علم کی نشانی ہے خوش حالی حاصل ہو۔	کھانا درویش کو کھلانا
فراخی نعمت ہو یا اولاد سے راحت ہو آرام پائے۔	کھیت دیکھنا
دوست یا عزیز کے آنے کی خبر پائے۔	کھیت ہرا بھرا دیکھنا
مصائب و آلام میں گرفتار ہو یا مرض مہلک کا شکار ہو۔	کوئل کی آواز سننا
ہر بلا و مصیبت بیماری سے نجات پائے۔	کچھڑ میں پھنسنا
فتح مندی حاصل ہو دولت بزرگی آرام و راحت حاصل ہو	کچھڑ سے لکھنا
ترقی کامیابی کاروبار میں حاصل ہو بزرگی اور آرام پائے	کیلا کھانا
دختر یا فرزند سعادت مند پائے عورت کو خوف شوہر سے لا پرواہی ہو۔	کیلا خریدنا
میراث عظیم پائے یا ایسا عجب کام کرے جس سے مشہور عام ہو۔	کڑا پاؤں میں پہننا
	کلام کسی پرند سے سننا



گ

تعبیر خواب

قوت باہ زیادہ ہو مسک سے فائدہ ہو۔
 تنگی حال کی علامت ہے۔
 زمین ملنے کی نشانی ہے۔
 سفاہت میں شرت ہو شیطان کے مثال مغرور ہو۔
 سفاہت دور ہو دولت مند ہو جائے۔
 غضب شاہی میں گرفتار ہو نہایت ذلیل ہو۔
 بخار میں مبتلا ہو پینے کو جو شانہ ملے۔
 معشوق گل بدن پائے یا نیک کام کر کے مخلوق میں شہرت ملے
 سفر پیش آئے بیماری دیکھے تو موت کی نشانی ہے۔
 دین و دنیا کی نعمت حاصل ہو۔
 عزت و مرتبہ حاصل ہو۔
 خوشی ہو۔

عزت و مرتبہ زائل ہو مصیبت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے
 خرابی صحت برے کام کی طرف رغبت
 عزت و مرتبہ بڑھے شہرت ہو۔
 خیر و برکت اور نفع ہو فرزند اور لڑکی کی شادی ہو۔
 کوشش و ہمت سے کاروبار اور تجارت میں ترقی کرے

خواب

گاجر کھانا
 گالی دینا
 گائے ملنا
 گدھا دیکھنا
 گدھے پر سے اترنا
 گرجنا بادل کا
 گرم پانی پینا
 گلاب دیکھنا
 گاڑی میں سوار ہونا
 گلاب دیکھنا
 گھوڑے پر سوار ہونا
 گیند دیکھنا
 گھوڑے سے گرنا
 گدھے کی آواز
 گلاب دیکھنا
 گھی دیکھنا
 گداگری کرنا

کسی کے کام میں مددگار ہو، خیر و برکت پائے۔	گدا گر کو کچھ دینا
حیلہ و فریب سے مال حاصل کرے۔	گڑھا کھودنا
فتنہ و فساد کرنے، موجب خرابی ہے۔	گلدستہ باندھنا
اگر بیمار ہو تو شفا پائے، اگر غمزدہ ہو خوشحالی پائے۔ قرضہ سے نجات پائے۔	گلقتد کھانا
قدر و منزلت اور دولت و ولایت پائے۔	گھوڑا دیکھنا
دولت بے انداز پائے اور خوبی و خوشترقاری سے حکومت منصب مراد ہے۔	گھوڑے پر سوار ہونا
مراد حاصل ہو، علم میں کامل ہو، سردار قوم ہو یا وزیر مشیر سلطنت ہو۔	گھوڑا دوڑانا
عورت ملے جس قدر خوبصورت دیکھے اس قدر حسینہ عورت پائے۔	گھوڑی دیکھنا
مال و دولت پائے، مگر دل پریشان ہو۔	گھی کھانا یا خریدنا
عورت پر عاشق ہو، جو اجنبی ہو مگر عورت بے وفا نکلے۔	گیدڑ کیساتھ کھیلنا
دنیاوی جستجو میں کامیاب ہو، عزت مرتبہ پائے مگر دین میں کمزور ہو۔	گیند بلا کھیلنا
دشمن پر فتح یاب ہو، مصیبت سے آزاد ہو۔	گینڈا دیکھنا
مال حلال پائے مگر مشقت سے ہاتھ آئے۔	گیہوں دیکھنا

☆☆=====☆☆

ل

تعبیر خواب

خواب

دن و رات غم و غصہ کھائے، مشقت سے روزی حاصل ہو
حج نصیب ہو و عاقبول ہو۔

لباس سیاہ دیکھنا

لباس نیلا پہننا

نعمت و راحت کی نشانی ہے، دولت و عزت ملے
مصیبت آئے۔

لڑکی حسینہ دیکھنا

لڑائی ہونا

فرزندار جمنہ پیدا ہو، عورت حسینہ ملے۔

لعل دیکھنا

نفاق کی دلیل ہے۔

لکڑی جلانا

عورت کو مطیع کرنے یا اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرے۔

لگام دیکھنا

مکار عورت ملے، رات دن جنگ کر کے پریشان کرے۔

لومڑی دیکھنا

کسی مقصد میں کامیابی ہو۔

لاش دیکھنا

عزت و منصب میں ترقی ہو۔

لباس پاکیزہ پہننا

رنج و غم کی دلیل ہے۔

لباس بوسیدہ پہننا

عورت سے صحبت کرے اگر کنوارہ ہو تو شادی کرے۔

لحاف اوڑھنا

کنواری لڑکی سے شادی کرے اگر زر و لحاف صاف ستھرا

لحاف نیلینا

ہو تو پاکیزہ عورت ملے۔

کسی منافق یا مرتد ملعون کا ہمنوا اور خیر خواہ ہو یا مشرک

لکڑی تراشنا

کی مدد ملے۔

موجب برکت و رحمت ہے، رشد و ہدایت پائے بزرگی ملے۔

لکھائی قرآن پاک کی

لگام کسی کو دینا

جس کو دے اس کو راہ ہدایت پر لگائے مشیر و ہمدرد ہو۔

فائدہ پہنچائے۔

لوٹ مار کرنا

رنج و غم میں پڑنے یا مال حرام پائے عوام میں بدنامی پائے

لوٹک خریدنا

رشد و ہدایت پائے یا لوگوں میں تعریف و توصیف سے

مشہور ہو۔

لوہا دیکھنا

دولت و قوت حاصل ہوا اگر لوہے سے کام لے تو بہادر

عالی قدر ہو۔

لہسن کھانا یا خریدنا

مال حرام پائے رنج و غم میں مبتلا ہو۔

لوٹری دیکھنا

کسی قریبی رشتہ دار کے مکر و فریب کا شکار ہو۔

لوٹری خریدنا

مکاری فریب وہی سے مقصد میں کامیاب ہو۔

لوٹری خوبصورت پانا

مال و دولت عزت و فرحت خیر و برکت حاصل ہو۔

لوٹامٹی کا خریدنا

دیندار ہو کثیر خادمہ ٹیک ملے اگر چاندی کا پائے تو مال

و نعمت پائے۔

☆☆=====☆☆

م

تعبیر خواب

خواب

پرہیزگار اور بزرگ ہو سخاوت اور مہمان نوازی اختیار کرے
عزت و مرتبہ پائے عزیز واقارب کا ہمد و ہمدرد ہو
شہرت پائے۔

ماتھا چمکتا کشادہ
ماتھے سے خون جاری دیکھنا

مالدار ہو عزت و فرحت حاصل ہو آرام پائے۔
کامیابی کی علامت ہے خوشحالی پائے دکھ دور ہوں۔
درم دینار اور روپیہ پیسہ پانے سے تعبیر ہے۔
دولت و زر مال جمع کرے عزت پائے۔
مقصد پورا ہو روزگار ملے۔
رنج و غم کا سامنا ہو۔

ماش کی دال کھانا
مال و دولت دیکھنا
مٹی کے ڈھیلے دیکھنا
مٹی اکٹھی کرنا
مشکیزہ پانی سے بھرنا
مشکیزہ سے پانی بہہ جانا

حاملہ دیکھے تو بیٹی پیدا ہونے کی دلیل ہے مقصد پورا ہو۔
قرض ادا ہو کار خیر انجام دے۔
عزت اور شہرت میں اضافہ ہو۔
مسلمان کیلئے نחס اور ہندو کیلئے اچھا خواب ہے۔
رنج و غم کا سامنا ہو۔

موتی دستیاب ہونا
مسواک کرنا
مشک دیکھنا
مندر میں جانا
مینڈک پکڑنا
مہندی لگانا

مرد دیکھے تو فرائض کی ادائیگی میں پہلوتی کرے۔
عورت دیکھے تو مبارک خواب ہے۔

رنج و غم سے نجات ہو روزگار میں ترقی ہو۔
میلا دشریف کی محفل دیکھنا

دین و دنیا کی نعمت حاصل ہو۔	ماں کی قدم بوسی کرنا
غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہو۔	مرغی دیکھنا
رنج و غم کا سامنا ہو۔	مرگی کا مریض دیکھنا
رنج دور ہو، نفع ہو خیر و برکت کی نشانی ہے۔	ماں باپ کو دیکھنا
قرض بیماری میں مبتلا سخت پریشانی ہو۔	ماں باپ کو مار ڈالنا
کسی مصیبت میں گرفتار ہو۔	
عزت اور مرتبہ بڑھے تو کرمی میں اضافہ ہو۔	مٹھائی کھانا
کنز و آدمی کو ہلکا بخارا آئے، تندرست کیلئے دروسر کی نشانی ہے۔	چھرو دیکھنا
نیکی کی بشارت ہے ہدایت پائے، فرزند پیدا ہو۔	محراب دیکھنا
زیادتی مال اور بزرگی پانے کی نشانی ہے۔ اگر جاہل ہو تو خوار ہو۔	محراب میں نماز پڑھنا
ترقی علم اور دین و دنیا کی بہتری پائے، زیارت مدینہ شریف پائے۔	مدینہ شریف دیکھنا۔
رنج و غم اور بیماری اور عذاب میں مبتلا ہو۔	مردار سنگ دیکھنا
نیکی کی علامت ہے، اگر مرغ کا گوشت کھائے تو دولت پاکیزہ ہے۔	مرغ ذبح کرنا

☆☆=====☆☆

ن

تعبیر خواب

خواب

رنج دور ہو خوشی حاصل ہو اور جو خود ناپے تو غل و شور کرنے

ناج دیکھنا

قرض دور ہو حاصل بہ حجت و سرور ہو۔

ناخن تراشنا

بیمار ہونے کی علامت ہے مگر بعد رنج کے آرام ملے۔

نارنج دیکھنا

شادی ہو غم سے آزادی ہو یا فرزند پیدا ہو۔

ناریل دیکھنا

شہوت زیادہ ہو عصمت بدکارہ سے فائدہ ہو۔

ناک اپنی بڑی دیکھنا

غربت و ذلت کی نشانی ہے۔

ناک کٹی دیکھنا

دینی و دنیوی مراد ہاتھ آئے انجام بخیر ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا

کسی بڑی سرکار میں پیش ہو تنخواہ زیادہ ہو دریا دل کہلائے

ندی دیکھنا

معتوق عاشق مزاج ملے محبت کے پھول کھلیں۔

نرگس دیکھنا

سفر کرنا پڑے کافی دولت ہاتھ آئے۔

نعلین دیکھنا

گناہ معاف ہو خوبیاں حاصل ہوں۔

نماز پڑھنا

عمدہ و سفید ہے بیماری سے چھٹکارہ ملے۔

نمک دیکھنا

فوج کا افسر ہو نہایت خوشی ملے۔

نیزہ دیکھنا

بیماری کی علامت ہے۔

نارنگی کھانا

حاکم وقت سے عزت و مرتبہ پائے۔

نجومی دیکھنا


اگر عورت نکاح کراتی دیکھے تو مال کا نقصان ہو۔

نکاح کرنا

اگر بادشاہ دیکھے تو ملک فتح کرے عورت کیلئے شوہر ہے

نکینہ دیکھنا

تجارت و کاروبار میں ترقی پائے، مراد پوری ہو۔	ندی کا دیکھنا
بیماری سے شفا پانا، دولت عزت راحت حاصل ہو۔	ندی میں نہانا
فرزند خوبصورت پیدا ہو یا حسینہ عورت ملے۔	زرگس کا پھول دیکھنا
غم و اندوہ میں مبتلا ہو رنج و فکر پائے۔	نسوار لینا
زکام اور بخار میں پڑے، حیران سرگردان ہو۔	نسوار خریدنا
بیماری سے نجات پائے، دکھ دور ہوں۔	نسوار ضائع کرنا
رنج و غم اور مصیبت میں گرفتار ہو۔	نشاستہ کھانا
عیش و راحت اور آرام و چین پائے۔	نشہ شراب میں مست ہونا
ترقی کاروبار کی نشانی ہے۔	تل کا پانی دیکھنا
اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو حج ادا کرے۔	نماز پڑھنا
دین اسلام میں ترقی کا باعث ہے۔	نماز قبلہ رو پڑھنا
اپنے خاندان یا قوم پر سرداری پائے، عزت حاصل ہو۔	نماز میں امامت کرانا
طالب دنیا ہونے کا موجب ہے، رسوائی ہو۔	ننگا ہونا
مال بے اندازہ پائے، جس کا شمار نہ ہو، عزت حاصل کرے	ننگا دیکھنا عورت کو
بادشاہ سے ذلت اٹھائے، مصیبت میں پڑے۔	نوکر بادشاہ کا ہونا



و

تعبیر خواب

خواب

فرحت حاصل ہو رنج و غم سے نجات پائے۔
دین میں بزرگ ہو راحت و آرام حاصل ہو دولت
مندی پائے۔

وادی دیکھنا
وادی شاداب

بادشاہ وقت کو مہربان پائے دولت بزرگی عزت راحت پائے۔
اگر خشک وادی سے باہر نکلے تو رنج و غم سے نجات پائے۔
تنگدستی اور مصیبت میں پڑنے تکلیف دکھا اٹھائے۔
مال و منال اور عزت و اقتدار پائے۔

وادی میں نہر دیکھنا
وادی سے نکلنا
وادی خشک دیکھنا
وارث یتیم کا بننا

اگر عالموں کی مجلس میں وعظ کرے تو شہرت حاصل ہو۔
بدنام و گمراہ ہونے کا باعث ہے۔

واعظ ہونا
وعظ جاہلوں میں کرنا

رشد و ہدایت پائے نیک دیندار متقی ہو۔

وعظ عالم سے سننا

مال حرام کھائے غیر کا حق دبائے۔

وثیقہ لکھانا

اگر عدل کرتا دیکھے تو رزق و دولت میں ترقی پائے۔

وزیر آپ کو دیکھنا

ترقی عزت اور زیادتی مال کی علامت ہے خیر و برکت پائے

وزیر سے ملاقات کرنا

مکر و فریب میں پھنسے ذلت و خواری پائے بے دین ہو۔

وسمہ لگانا یا خریدنا

مصیبت یا تکلیف میں گرفتار ہو یا سخت بیمار ہو۔

وحشی کو دیکھنا

☆☆=====☆☆

تعبیر خواب

خواب

جمع شدہ مال میں سے کچھ خرچ ہو۔	ہاضمہ خراب ہونا
مال تجارت میں نقصان اور ملازمت سے برطرفی۔	ہیضہ ہونا
لڑکائی لڑکی پیدا ہونے کی دلیل ہے۔	ہزار روپیہ دیکھنا
عزت بڑھے دوستوں سے فائدہ پہنچے۔	ہاتھی خریدنا
عزت و مرتبہ میں ترقی ہو۔	ہاتھی پر سوار ہونا
تعبیر برعکس ہے۔	ہاتھی فروخت کرنا
اگر دشمن کو مضبوط پکڑتے دیکھے تو حالات کو اپنے موافق پائے۔	ہاتھ پائی کرنا
اپنی محبوبہ یا دوست سے محبت و پیار کرنے عیش و آرام پائے۔	ہار پھولوں کا پہننا
محنت و مشقت زیادہ اٹھائے رزق حلال پائے۔	ہڈی چبانا
مصیبت سے نجات پائے باعث آرام راحت ہے۔	ہڈی پھینکنا
کامیابی کی دلیل ہے رزق حلال پاکیزہ ہے۔	میل چلانا
محنت و مشقت سے روزی حلال پائے۔	میل خریدنا یا لینا
ناکامی اور تنگدستی کی علامت ہے۔	میل ٹوٹا دیکھنا
بلا عذر مارے تو رشوت خور ظالم ہو اگر عذر پر مارے تو کامیابی و ترقی ہو۔	ہنر مارنا
اگر آسمان کی طرف اڑتا دیکھے تو موت کا انتظار کرے۔	ہوا میں اڑنا
سخاوت اختیار کرے ملنسار محبت سلوک پیار کرے۔	ہاتھ کشادہ دیکھنا

ی

تعبیر خواب

خواب

چنبیلی کا پھول اگر حاملہ خواب میں دیکھے تو بیٹی پیدا ہو
غیر شادی شدہ دیکھے تو شادی ہو۔

یا سمین دیکھنا

یا قوت پانا، عیش و دولت کی دلیل ہے۔

یا قوت دیکھنا

یکہ میں سوار ہو تو سفر پیش ہو۔

یکہ میں سوار ہونا

پاکیزہ حسینہ مگر بارعب عورت پائے راحت حاصل ہو۔

یا قوت سرخ دیکھنا

نیک سیرت جمیلہ باوقار خوش اخلاق عورت پائے۔

یا قوت سبز دیکھنا

تو تجارت میں نفع کثیر پائے خوشحال ہو۔

یا قوت سودا گردیکھے

تو سلطنت میں ترقی ہو بہر و لعزیز نیک سیرت ہو۔

یا قوت بادشاہ دیکھے

تو تنگدستی سے نجات پائے کاروبار میں ترقی پائے۔

یا قوت غریب دیکھے

تو تندرستی پائے صحت یاب ہو۔

یا قوت بیمار دیکھے

تو شوہر خوبصورت نیک پائے جس سے فرحت حاصل ہو۔

یا قوت باکرہ دیکھے

تو خوش جمال فرزند پائے مشہور عام ہو نیک نام ہو۔

یا قوت عورت دیکھے

سب کیلئے باعث تنزل ہے فکر اندیشہ حیرانی لاحق ہو۔

یا قوت گم ہونا

اگر چنبیلی کا پودا دیکھے تو عزیز دوست بیوی سے جدائی ہو۔

یا سمین دیکھنا چنبیلی

اگر مرد توڑے تو نقصان اٹھائے اگر عورت توڑے تو مرد

یا سمین کے پھول توڑنا

سے ناچاکی ہو طلاق ہونے کی نشانی ہے۔

باعث تنزل ہے ذلت و خواری پائے۔

یکہ سے گرنا

☆☆=====☆☆

نسخہ کیمیا برائے روحانی امراض

حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکیم سے کہا: مجھے گناہوں کا مرض ہے، اگر اس کی دوا بھی آپ کے پاس ہو تو عنایت کیجئے۔ یہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں اور سامنے میدان میں ایک شخص تنکے چننے میں مصروف تھا، اس نے سر اٹھا کر کہا: جو تجھ سے لو لگاتے ہیں وہ تنکے چنتے ہیں۔

شبلی: یہاں آؤ میں اس کی دوا بتاتا ہوں۔ حیا کے پھول، صبر شکر کے پھل، عجز و نیاز کی جڑ، غم کی کوئیل، سچائی کے درخت کے پتے، ادب کی چھال، حسن اخلاق کے بیج، یہ سب لے کر ریاضت کے ہاون دستہ میں کوٹنا شروع کرو اور اشک پشیمانی کا عرق ان میں روز ملا تے رہو۔ ان سب کو دل کی دیگی میں بھر کر شوق کے چولہے پر پکاؤ۔ جب پک کر تیار ہو جائے تو صفائے قلب کی صافی میں چھان لینا اور شیریں زبان کی شکر ملا کر محبت کی تیز آج دینا۔ جس وقت تیار ہو کر اترے تو اس کو خوف خدا کی ہوا سے ٹھنڈا کر کے استعمال کرنا۔

حضرت شبلی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا وہ دیوانہ غائب ہو چکا تھا۔

وہ جو بیچتے تھے دوائے دل

وہ دوکان اپنی اھا گئے

(حوالہ موت کا منظر)

صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و بارک وسلم

تمت بالخیر

ابو الفیض محمد شریف القادری رضوی

بروز پیر شریف یکم ربیع الاول

بعد نماز ظہر ۱۴۳۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ مصنف

فقیر کے اکتسابِ علم دین و سلسلہ طریقت کا کچھ تذکرہ

بندۂ ناچیز ان نفوسِ قدسیہ کا ساری زندگی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا اور میری زندگی کے ایک ایک لمحہ میں ان کے کئی احسانات ہیں جن کی صحبت و تربیت سے خدمتِ دین کی سعادت حاصل ہوئی اور میرے نزدیک میرے لیے یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے مجھ گنہگار کو علم دین کی تعلیم دی اور بالخصوص خانقاہ ڈوگراں شریف مرکزی دارالعلوم جامعہ چشتیہ رضویہ آستانہ عالیہ حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ مربی من سیدی و سندی حضور پیر ابوالفیض حضرت علامہ محمد عبدالکریم محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ خود حیات تھے۔ جب میں حضرت کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ کی زیارت سے مستفیض ہوا اور درسِ نظامی کا فیض حاصل کیا، جب میں نے علم دین پڑھنا شروع کیا تقریباً ۱۹۹۳ء تھا۔ مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ میں داخل ہونے کے بعد جن اساتذہ کرام سے اکتسابِ علم دین کیا ان کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں:

پیر طریقت رہبر شریعت خطیب عالم حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادگان میں سے شیخ الحدیث و التفسیر حضرت صاحبزادہ مولانا پیر محمد نور الہجتی چشتی صاحب جو کہ آجکل مرکزی دارالعلوم کے مفتی و شیخ الحدیث ہیں اور دیگر صاحبزادگان سے بھی کچھ اسباق پڑھے ہیں۔ اور مناظر اسلام رئیس المدرسین، صوفی با صفا حضرت علامہ مولانا میاں محمد یونس قادری صاحب مدظلہ العالی اور مناظر اسلام رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد مقصود احمد قادری صاحب مدظلہ العالی۔

ان حضرات سے درسِ نظامی پڑھنے کا گنہگار کو شرف حاصل ہوا اور اسی تعلیمی دور میں کسی مرشدِ کامل کے دستِ حق پرست پر بیعت کرنے کا ذہن بنا تو گوجرانوالہ شریف میں مشہور و معروف بزرگ علمی اور روحانی شخصیت، پیر طریقت رہبر شریعت، عالم با عمل، ولی کامل، پیکرِ صدق و صفا، پاسبانِ مسلک امام احمد رضا، فیض یافتہ حضرت امیر ملت نائب حضرت محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ الحاج سیدی مرشدی حضور پیر ابوداؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی

دامت برکاتہم القدسیہ امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ قبلہ حضرت صاحب نے مجھ گنہگار کو سلسلہ قادریہ رضویہ میں شامل فرمایا۔

بعد ازاں کچھ عرصہ ۲۰۱۰ء رمضان شریف میں حضور قبلہ پیر صاحب نے سلسلہ کی اجازت بھی عنایت فرمادی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد پاک اور آپ کے صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ محمد داؤد قادری رضوی اور حضرت صاحبزادہ محمد رؤف قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو ابدی عظمتیں عطا فرمائے۔ آمین۔

بحرمة سيد العالمين عليه الصلوة والسلام

اور پھر اس کے بعد دورہ حدیث شریف کے لئے فیصل آباد مرکزی دارالعلوم جامعہ رضویہ مظہر اسلام آستانہ عالیہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوا اور سند الحدیث شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا سیدی و استاذی حضور ابوالخیر حافظ غلام نبی صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ سے دورہ حدیث شریف پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔








کچھ عرصہ بعد ازاں ۲۰۱۳ء ربیع الاول شریف کے ہمارے سالانہ جلسہ پر پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث والتفسیر جگر گوشہ حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا پیر محمد نور لہجتنی چشتی رضوی مدظلہ العالی آپ نے حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مجھ گنہگار کو سلسلہ قادریہ رضویہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور دستار بندی فرمائی۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے میرے جملہ اساتذہ کرام ذوالاحشام کو دارین کی برکات سے نوازے اور انہیں دائمی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین جن کی نگاہ شفقت سے مجھ گنہگار کو خدمت دین کی توفیق ملی۔

العبد الخیر

خليفة مجاز حضور محدث ابدالوی رحمۃ اللہ علیہ
ابوالفیض محمد شریف القادری رضوی

الحافظ افقاری مولانا غلام حسن قادری کی واقعات پر ویڈیو تصانیف



زیڈ اینڈ سنٹر ۴۰ اردو بازار لاہور
Ph: 37352022

اکبر پبلشرز